



تفسیری کوردی
له که لایمی خورداوه ندی



تەفسىرى كوردى

لەكچە لاسى خورداۋەندى

مىللى كورە
(مەلۇمى كۆپى)

بەرگى دووھم

جوزنى (۶-۵-۴)

نەسەر نەركى بەرپىز مام جەلال سەرۆك كۆمارى عىبراقتى فیدرال ئەچا پىدراۋە



مافی له چاپدانهوهی پاریزراوه

نـاوی کتـیب: تهفسیری کوردی له کهلامی خوداوهندی
 نوسـەر: مهلای گهوره امهلا محمدی کۆیی
 بلاوکردنـهوهی: نوسینگهی تهفسیر / بو بلاوکردنهوهو راگه یاندن-ههولیر
 پیتـنـچنین: علی صلاح الدین
 نهخـشهسازی: جومعه صدیق کاکه
 خـهت: نهوزاد کۆیی
 بـهـرگ: ئەمین مخلص
 بهراوردی دهستتوس
 لهسهـر کۆمپیوتـهـر: اسماعیل طه- شنۆ حمدآمین- ارسلان رحمان محمد
 نۆـرهو سالی چاپ: یهکهه ۱۴۳۰ک - ۲۰۰۹ز
 تـیراژ: ۲۵۰۰ دانه

له کتیبخانهی گشتی ههولیر ژمارهی سپاردنی (۱۳۵) ی سالی ۲۰۰۷ دراوهتی

التفسیر
 بو بلاوکردنهوهو و راگه یاندن
 ههولیر- شهقامی دادگا - ژیر ئوتیلی شبرین پالاص
 ت: ۲۲۲۱۶۹۵ - ۲۲۲۰۹۰۸ - ۲۵۱۸۱۲۸
 مۆبایل: ۰۷۷۰ ۱۳۸ ۷۲ ۹۱ - ۰۷۵۰ ۴۶۰ ۵۱ ۲۲
tafseeroffice@yahoo.com
tafseeroffice@maktoob.com
altafseer@hotmail.com

سورهتی (ال عمران)

له ئایهتی ۹۲ تا کۆتایی

﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ﴾ ئه ی به نی ئیسرائیل به ته ئکید أبداً ئیوه ناگه نه خیر، خیرتان ناگاتی ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ له مالی چاکی خوشه ویست، لکن حرص و ته مه ع ئیوه ی وا گرتوووه، بۆخوا شتی بی قیমে تیش صه رف ناگه ن ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ﴿۹۲﴾ خوا ئاگاداره به و شتانه ی صه رفی بگه ن، ئه گه ر چاک صه رف بگه ن جزاتان له سه ر ئه و چاک ئه داته وه. وه له و ته مه عه ده ئین خوا هه موو مالی دنیا ی دایته ئیمه به هه ر نه وعی به ده سته خه ین بۆمان دروسته. (أمیین) رییان له سه ر ئیمه نی یه مالیان ئه خۆین به هه لالی و به زه لالی و ئه وه ش نیسه ته ی به وه حی ی ئیلاهی ئه ده ن! حاشا وانی یه ! به لئ ئه وه نده هه یه ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ﴾ حوشتر و غه یری وی له هه یوانات و حبوبات ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ته به عه شی به ته به عیه ت کردیان نه هه رامی عام وه الا ئه و خاصه له خۆی هه رام کردبوو ئه وه ش له تحلیل و له تحریم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ التَّوْرَةَ﴾ ئه مه ش مه عنای وانی یه هه موو شت بۆ به نی ئیسرائیلی خه لق کراوه و عیبادی تر هه قیان نی یه، به لکو مه قسه د ئه وه یه ئه و مطعوماته هه لال بووه بۆ به نی ئیسرائیلی پیش نزولی ته ورات وه ته ورات گه لی شتی له ئیوه هه رام کرد. ئه و حوکمه له سه ر قاعیده ی أصل له اشیا إباحه یه بۆ ته حریم ده لیلی ئه وئ.

﴿قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ﴾ ئەگەر راست ئەكەن ئەلین حوكمی خوی بۆ ئیمه وایه
وهك ئەلین تهورات بیئن ﴿فَاتْلُوهَا﴾ بی خویننه وه به ئاشکرا ﴿إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾ ﴿٩٣﴾ له و ده عوایه ﴿فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ به خه یالی خویان
ئهو قه و مه (أمین) وهك کوردان چ نازانن هه رچی نیسه ته تی بدهین بۆ تهورات و
سائری کتبی سماوی نازانن، به قسه ی ئیمه هه ل ئە خه له تین. ﴿مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾
پاش ئه وه ی که خودا بۆ خاتمی اظهار کرد، غه له ت و درۆی به ده رخستن،
ئەگەر شه رمتان هه بی جاری تر افترا به خوا ناکەن، درۆی خۆتان نیسه ته بۆ
خوا نادهن. ئه وی وابکا ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٩٤﴾ به هه موو مه عنای زولم
﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ ئیوه درۆتان کرد، نه تان تووانی به نه قل ده عوای خۆتان
ئیسپات بکهن، خوا راست ئە فه رموی. ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ بی درۆ
ده له سه، بی مه یلی باطل، بی فیکری فه ساد و حه ق گۆرین و پری تیکدان.
﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٩٥﴾ نه به قلب، نه به قه ول، نه به عه مه ل خالص و
مخلص بووه بۆ خوا، ئیوه ش ده ست له "شرك" هه لگرن، روو له تماثل
مه کهن، روو بکه نه قیبه ی ابو الأنبیای بینا کرده ی خه لیل ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
لِلنَّاسِ﴾ بۆ قیبه ی عباداتیان ﴿لِلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ تاریخ عالم شاهیده پاش
چه ندی بیت المقدس بینا کرا ئه و وولاته که ی که وته به رده ست ئە هلی ئیمان و
له دینی ئیلاهی روو له شه رق و غه رب کردن نی یه، ئە مه کاری رۆژپه رستانه
﴿مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩٦﴾ به یتیک به به ره که ت له سه ر پاکی و بلندی
داندراره ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ تیدا هه یه عه لاماتی ئاشکرا که بینا کرده ی خه ليله
﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ مه قامی ئیبراهیم عه لامه تیکه مشتمل به سه ر ئایات، ئە و ئایاته
عه ینی مه قامی ئیبراهیمه، یا مه قامی ئیبراهیم اعظمی ئە و ئایه ته یه ﴿وَمَنْ

﴿ دَحَلَهُ ﴾ ئەوی بچیتە ناو مه قامی ئیبراهیم مه رکه زی خه لافهت و ئیمامه مه تی
 ﴿ کَانَ ءَامِنًا ﴾ الان بو ئیمه، بو ئیمه نه بی کافران سه دیان کردوو، دیاره
 مه قسه نه فسی (صخره) یی نی یه که وه قتی بینا کردن هه زره تی ئیبراهیم
 له سه ری راده وه ستا ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ﴾ جوو، دیان، موسلمان، عه ره ب،
 هیندی، ئیرانی، ﴿ حُجُّ الْبَيْتِ ﴾ له تاریخ ئەلی له زه مانئ هه موو ئە چوون بو
 ته وافی به یتی "خلیل الرحمن" خو شه ویستی هه مووان، پاشان عه داوه تیان
 خسته به ین، ئەم ری یه به ستر ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ئە گه ر ئیمه
 محصورین ریمان لی گه راوه خو ئیوه له گه ل قوره یش دۆستن، مه منون ئە بن
 ته شریفان بچیته مه ککه ئە گه ر بچن زیاده دۆستاتیتان مه حکم ئە بی، له
 عه له یهی ئیسلام به قووه ت تر ئە بن !!

﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ به لی حه ج له سه ر ئیمه نی یه، دینی ئیمه جوایزه له گه ل دینی
 ئیبراهیم، ئە وه بو ئیسماعیلیانه، بو ئیسرائیلیان نی یه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ۹۷ ﴾ خوا استغنا ی هه یه بالذات له هه موو عالم: علوی و سفلی،
 مؤمن و کافر، برّ و فاجر. غنای راستی ئە وه یه حاجه ت به شت نه بی، ئە گه ر
 محتاجی بی هه یشت بی هه ر فه قیری، وه ک شافیعی ده فه رموی:

"غنیت بلا مال عن الناس کلهم

ولیس الغنی الا عن الشيء، لا به"

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ که ونی وه حیسی ته ئریخی
 سه به بی چی یه ئینکاریان ئە که ن؟ ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ﴾ خوا خه به رداره. ناگاداره
 ﴿ عَلَيَّ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ۹۸ ﴾ قلبی و قالبی که سی ئینکاری عیلم به جوزئیات بکا
 ناتوانی ئیعتیراف به نبوه ت بکا.

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّٰهِ مَنۢ ءَامَنَ﴾ بُوچہ ریئی ئہوانی
 ئیمانیاں ہیئایہ وەرئہ گئیرن لہ ریئی خودا بہ ئیعنیقاد بہ عہمہل. ﴿تَبْعُوٰنَهَا
 عَوَجًا﴾ تہلہب ئہکەن، مہیلیان وایہ ریئی راستی خوا خوار بکہن. ریئی راست
 بکہن خوار. بہ دەرہجہیی مبالغہ ئہکەن، اولی رُوژ ئیمان ئہہینن، ئاخری رُوژ
 مورتہد ئہبن تا مؤمنان وەرہبگئیرن (أنہ) وەك عەرہبان (أمّی) نین نہدہبایہ
 ئیوہش وەك ئہوان بکہن، ریئی راست لہ خەلكی وەرہبگئیرن. ئہوانہ خویان
 خوارن. خوار لہگەل راست ریك ناکہوی، ئہمما خوار لہگەل خوار زور چاک و
 راست ری و ریك ئہکەوی ﴿وَأَنْتُمْ شٰهَدَآءٌ﴾ عولہمان و خوبہران. ئاگادارن.
 ﴿وَمَا ٱللّٰهُ بِغَفِيْلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾﴾ ئہوہش ئہزانن ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾
 ئاگادارین. لہکەیدی ئہہلی کتاب ئہمین مہبن. ﴿إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا
 ٱلْكِتٰبَ﴾ بہ محبہتیاں گرفتار و بہ حیلہیان ہەل خەلہتین، ئیتاعہی فہریقیک
 لہوانہی کتابیان دراوہتئی بکہن، ئہو فہریقہ عنود و حہسود و حقود و
 بہدخواہہ کہ بہ ئہنواعی دہسیسہ ریئان لی کہچ ئہکەن. ﴿يُرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اٰمٰنِكُمْ
 كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾﴾ ئہوہندہ بہقووہتن لہ إفساد ئہتوانن لہپاش ئہو ئیمانہ کہ
 ہەتانہ وەرئان گئیرنہوہ بہکافر ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ﴾ زور دوورہ لہئیوہ ﴿وَأَنْتُمْ
 تُتٰنٰی عَلَیْكُمْ ءَايٰتُ ٱللّٰهِ﴾ مشافہہ ئایاتی خوی دەست نازدہ لہسەر ئیوہ
 ئہخویندریئہوہ ﴿وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُٓ﴾ رەسولی بہرحق لہناو ئیوہیہ ئایا بہ
 ئیغترای ئہوانہ گوئی ئہدەن؟ ئیستیماعی ئایاتی خوا ناکەن؟ وە بہو
 پیغہمبەرہ ناصیحہ ئہمینہ بروا ناکەن؟ تصدیقی ئہو خائنانہ ئہکەن؟ حاشا
 ثم حاشا ئہوہ نابئی محالہ لہ ئیوہ. ﴿وَمَنۢ يَّعْتَصِمۡ بِٱللّٰهِ﴾ ئہوہی دەست بہ
 ہیدایہتی خوداوہ بگری ئیتاعہی حہیبی ئہو بکا ﴿فَقَدْ هٰدٰی اِلٰی صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٌ (۱۰۱) ﴿ ١٠١ 〉 ئەوی هیدایه تی بوو بۆ پێی راست چۆن گوم ئەبی و ئەچیته سهر
 ریی چهوت؟ ﴿ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** 〉 حهقی تهقوا له خوا
 ئەوهیه چۆن ئەمرتان ئەکاتئ وابکهن، وهك بهنی ئیسرائیلی به ئیمان به خوا
 خۆ مهگۆرپ ههر ئەو به مه بده ا و مه رجعه بزانی، اعتماد به سهر شفعا عمه کهن،
 به نه سه ب مه نازن. که وایی ئەو ئایه ته منسوخ نی یه، ئەگه رچی گه لی که س
 توه همیان برديه ﴿ **وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۲)** 〉 سه عی بکهن له رسوخ
 ئیمان به نظر له ئایاتی اکوان و قورتان ظلماتی شکوک و اوهام له دلی خۆتان
 مه ییلن محبه تی خواتان له دل شین بیئ. ((الحب في الله والبغض في الله)) بکه نه
 دستووری ئیمان که بووه مه له که قابلی زوال نی یه ﴿ **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ** 〉
 ئەو ئیمان ه حبل الله یه عروة الوثقیه، قابلی پسان و درز دان نی یه، دهستی
 پیوه بگرن، لاشک له سهر ئیمان دهمرن ﴿ **جَمِيعًا** 〉 هه مووتان - کل واحد -
 له ئیوه دهست به و حه بله مه تینه وه ببه ستن ﴿ **وَلَا تَفَرَّقُوا** 〉 ته فره قه مه کهن،
 اختلافتان نه بیئت، له یه ک جودا مه بن، عه داوه تی یه ک مه کهن ﴿ **وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ**
اللَّهِ 〉 یادى نيعمه تی خوا بکهن ﴿ **عَلَيْكُمْ** 〉 له سهر خۆتان ﴿ **إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً** 〉 له
 زه مانى جاهیلیه ت دوژمن بوون، حالتان چه ند ناخۆش بوو ﴿ **فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ** 〉
 به سایه ی ئیمان ﴿ **فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** 〉 به نيعمه تی خواى ته عالان گه ران
 به برا له شه وی عه داوه ت ده رچوون بۆ سبه ی نیی دۆستی.
 سبه ی نه وهك ئووه لی حه یاته. هه رکه سه، هه ر ته یه، هه ر حه یوانه له
 مه ئوای خۆی دیته ده ر، ده ست ده کهن به سه عی و عه مه ل بۆ گوزه ران.
 ئیوه ش له ئووه لی ئەو اتحاد دا ناخۆشی، نارپیکیتان له یاد نه چووه .. له زه ت
 له و خۆشی یه ئەبینن له و ذه وقه غافل مه بن ﴿ **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ** 〉

لہسہر رُوخی لیوی کہندری بوون لہئاگر نیزیک بوون کہ بکہونئی ﴿فَأَنْقَذَكُمْ﴾
 ﴿مَنْهَا﴾ دوری خستنهوہ لہ لیواری ئہو حفرہیہ ﴿كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾
 دلایلی خوئی ریگہتان بوؤ ئاشکرا دہکا ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿۱۰۳﴾ بوؤ تأمل کردن لہ
 شتی، ئولفت گرتن بہشتی غافلطان نہکا لہ عیبرہت.

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ با بیئی لہئیوہ ئوممہتی، جہماعہتی ﴿يَدْعُونَ إِلَىٰ
 الْخَيْرِ﴾ یہعنی لہئیوہ ئوممہتی تڪون بکا دہعوہتی عالم بکہن بوؤ صلاحی
 دین و دنیا، یہعنی خوٹان ببنہ ئوممہتی وا ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ﴾ ئہمر بہچاکہ بکہن، نہہی لہ خراپہہ. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿۱۰۴﴾ ئوممہتی بہو نہوعہ ہر ئہوان فوزیا بن، بہخوؤ مشغول
 نابن، بہ عمومی سہعی بوؤ نہجاتی عالم ئہکەن، ئارہزوومان وایہ ئیوہ
 ئوممہتی وابن دہعوہتی عالم بکہن نہک بہقسہی مفسدان ہلّ خہلہتین و
 وەرگہپین و عہداوہتی یہک بکہن. یہک فکر و یہک دلّ و یہک زبان و یہک غایہ
 بن ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ وەك جوو دیانان مہبن، بہدرؤی (أختلاف
 أمّتي رحمة) ہلّ مہخہلہتین، مہلین ئہوہ رەسولی خوایہ ئہبی ہر بیئہ جی.
 ذاتا ئہو نہوعہ مفسدانہ بوون لی یان تیك داین. ہر ئایہتی روحیکی اجتماعی
 تیدابوو بہ حدیثی درؤ ہلّ بہستی خوئیان روحہکیان برد ﴿وَأَخْتَلَفُوا﴾ لہ
 اصول، لہ فروع، لہ آمال و افکار ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ لہ پاش ئہوہی کہ
 (بیّنات)یان بوؤ ہات چ ئایاتی کتابی منزل، چ ئایاتی تاریخی عالم. وەك شاعیر
 ئہلی:

دولت ہمہ زاتفاق خیزد

بی دولتی از نفاق خیزد

سه عدی ئەلئ:

پشه چو پر شد بزند فیلرا
با همه تندی و صلابت که أوست
مورچه گانرا چو بوو إتفاق
شیر ژیانرا بدرانند پوست

﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۰۵) نایته ههه و حیساب و تهقریر و تهحریر
که ی؟ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ رۆژی که وجوهی سپی ئەبئ و وجوهی
رهش ئەبئ، پوی سپی و روی رهش ئەوی رۆژی به دهه ئەکهوی،
روپه شهکان عه زابی گه وره پر له ئەندوه و هه سرهه و هه جالهه و نه دامهه
ئه و رۆزه ئەچیزن. ئەمپۆ که قهومی ناریک مغلوبن روو په شن احتمالی هه یه له
بئ عاری ئەله می شه رمه ساری نه چیزن وه که سئ بهنج کرابئ پارچه پارچه
ئه کری ئاگای له خوی نی یه، وه إلا روپه ش و رووسی ئەمپۆ دیاره. ئیمه
دیمان و ئەیان بینین عاله می ئیسلامیهه له چ عظمت و شکوه و سه رباندی
روویان له مه سه پره تی زه فه ره وه ک ئافتابی عاله م تاب ئەدره وشا، سه به ب به
إختلاف چیمان لی هات، سه رشوپ، رهنگ ته لئخ، چاوحیز، ژیرده ست، ئەسیر،
زبان دریزی ده ست کورت.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ تسدیقی پیغه مبه رانتان
کرد که خلاف و ته فره قه خراپه. بو کردتان؟ ئایا کفرتان کرد؟ ئینکاری
راستی ی قسه ی ئەوانتان کرد؟ یا هه ره له سه ره مه یلی زه مانی کفر رۆیشتن؟
ئه دی ئیمانان ئەوه نده نه بوو بتان گپریته وه له مه یلی کافری پاکتان بکا.
ئه ی ئەهلی ئیمان ئیوه نه کهن وه کو ئەوان روی خۆتان رهش بکهن،
پیغه مبه ری ئیوه قاندى گرۆمی یه (غر) یه عنی به نه وچه وانی سپی سه رباند
(محجلن) یه عنی ده ست و پئ خاوین و پاک، ثابت قه ده م، ده ست به هه بلی
خوا.

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (۱۰۶) بجیژن ئەو عەزابه عظیمه ألیمه سه بهب به کفرتان به ئایاتی خوا، به قه ولی ره سولتان بپروا نه کرد، دواى هه واو هه وهس که وتن، تیاچوون، زهره رتان کرد، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْصَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ ئەوانه ی به ئیتتیفاق و ئیتتیحاد له دنیا پرویان گهش بوو پر ئاوی سرورر بوو، نه شئه ی زه فەر له رووی موباره کیان بریقه ی ئەدا له پوژی قیامهت به پووی سپی و سه ری بلند ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ بلین ئەو ره حمه ته چی یه؟ له بهر ظرفیتی (فی) ئەلین به هه شته. ئەگەر له بهر ته نگ ظرفی نه بی ئەلیم له ره حمه تی وه هان که ((وسعت کل شیء)) احاطه ی به هه موو شت داوه.

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۱۰۷) قهت لییان قطع نابی ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ به راستی ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ به صدق و صریح قابلی ته بدیل و ته ئویل و ته حریف و ته جه ووز و مساهه له و موباله غه نی یه، راست و دروسته، عه دل و هه مواره ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۱۰۸) أدنی أدنای له زولم، ئەگەر له که لامیدا نه وعه مساهه له یی بنوینی چ بو إفراط چ بو تفریط به زولمی ئەزانئ، ئەویش ناکا نه دهرباره ی ئیوه بو کهس خودا مه قسه دی زولم ناکا، خه لکی زولم له خویمان ئەکه ن بو منافی خویشیان به قسه ی خوا ناکه ن.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هه مووی ئی ئەوه، بو زولم بکا؟! زولم که ی بکا؟ ﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ﴾ (۱۰۹) بو ئەمر به جی ناهینن؟ له عه زابی ناترسین به ئومیدی شه فاعه تی آباء و آلهه و رؤساتان؟ ئە ی خاک به ده هه ن!

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ئیوه چاترین ئوممه تی بوون به دهرخران بو عاله می به شه ری بو ئیرشادیان. هه موو قه وم سیاسی و دینی که ظهور ئەکا به ناوی چاکه و نه جاتی ئومه م ئیرشادیان هه ل ئەستئ تا به دروو ده له سه ئیشی خوئی ئەبینئ، گه زیی و جاوی چی؟! آمالی پیسی دهرئه که وی که

غهیری استیلاو استیعباد چی تر مقصود نی یه، تهئریخی عالم بو صدقی ئه و قهوله شاهیده، جئی ئینکار نی یه، ئیوه ئه ی ئه سحابی گرین ره سولی موجته بای وانه بوون صرف مه قصودتان ئیرشادی عیباده بوو له جه هالهت و ئه ساره تیان نه جات بدهن ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ئه مر ئه کهن به هه رچی چاک بی ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ نه هی ئه کهن له هه رچی خراب بی، زیپا منکر و معروف لای ئه وان معروف بوو، إختلافی مه زاهیب نه بوو. ناشکوری نه بی إختلافی مه زاهیب معروف و منکریشی تیک دا (خاصة) إختلاف له حوسن و قوبجی عه قلی. عه قل و نه قلی مشه ووهش کرد.

﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ئیمانی به قووهت و پاک و خاوینیتان هه یه به ذاتی واحدی واجب الوجود بی شریک له صفات و أفعال، مال الملك، حی و قیوم، مه لیکی روژی جهزا، پهروهردگاری عالم، ئیتاعه ی ئه وامری ئه کهن، اجتناب له منهیاتی ئه کهن. ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ به و جووره ئیمانیه ﴿لَكَانَ خَيْرًا﴾ چاک ده بوو، یا چاتر ده بوو ﴿لَهُمْ﴾ بو ئه وان، زهره ریان نه ده کرد، راستیان له قیس نه ده چوو، به لکو گه لی گه وره تر ئه بوون، له سایه ی ئیمان به خاتم الرسل ئیمانیان به چه زره تی موساو عیسا و سائری پیغه مبه ران ئه بووه ئیمانی صحیح. جی و جاه و مولک و مالی خویمان بوخویان ئه بوو زولمیان لی نه ده کرا ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾، به لام معدود وهک (عبدالله بن سلام) هه زار هه زار (رضوانی خوی لی بی) ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ هه زار هه زار لعن له و فاسقانه بی که ته فره قه ئه خه نه ناو عیباده تی خوا، ری یان لی تیک ئه دهن، گومپراهیان ئه کهن. ﴿لَنْ يَضُرُّكُمْ﴾ ئه و فاسقانه ی بی ئیمان زهره ر به ئیوه نادهن و ناگه یینن ﴿إِلَّا أَذًى﴾ ئیلا زهره ریکی که م ﴿وَإِنْ يُفْتَلِكُمْ يُؤْلُوكُمْ﴾ هه ر شه رتان له گه ل بکهن پشتتان تی ئه کهن، هه ل دین.

﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ (۱۱۱) پاش هه زیمهت له کهس یاردم نادرین. به
 هه لیفه کانیاں پشت نه بهستن ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ خهیمه ی زیله تیان له سه ر
 هه ل دراوه کهس لای تی شکاوی نی یه، ﴿أَيْنَ مَا تُقِفُوا﴾ له هه ر کوی ایصابه
 کران له ته رهف ئیوه له جیههت دۆستانیاں ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾
 یه عنی مادام له سه ر حالئ ئیستایان بن له فسق و خروج له عهد و میثاق
 کهس اعتمادیاں ناداته سه ر، له هه موو لایئ ره زیل ئه بن، ئه گه ر ده ست له و
 له ئامه ته هه لگرن ده رئه چن، که سی عیززه تی نه فسی نه بی لای خواو عیبادی
 خوا عیززه تی نابئ، ئه وی به شه رهف بی حفظی عهد بکا شه رهف و
 حورمه تی ئه بی. ﴿وَبَاءُ وَبَعْضٍ مِنَ اللَّهِ﴾ خویان کردوه ته شایانی غضبی
 خواوه ندی ره حمان قهت تمسک به حبلی خوا ئه کهن؟ ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الْمَسْكَنَةُ﴾ ذیللهت و ضعفیاں له سه ر هه ل دراوه. ئه وه ئی ئه مریو نی یه له
 أسلافیاں به ئیرث ماوه ته وه بویان.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ عه قلی و نه قلی ﴿وَيَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ﴾ قه تلی مادی و مه عنه وی (علة العلة) چی یه؟ ﴿ذَلِكَ بِمَا
 عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (۱۱۲) دأب و پیشه ی ئه وان عصیاں و ته جاوز له حه دده،
 وازی لی ناهینن، بو حه ق نه رم نابن ئه وانن نه رمه حیز و ره ق. ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾
 هه موو ئه هلی کتاب وهك یهك نین، ذاتا فه رموی مطیعیشیاں هه ن، فاسقیشیاں
 هه ن ﴿مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هه یه له ئه هلی کتاب جوو و دیاں، ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾
 ئوممه تی له سه ر ری پاست ثابت قدم ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ عَنَاءً آتِيلٍ﴾ ئایاتی
 خوا به زه ریفی، به تدبّر و تفکر و تأمل ئه خویننه وه له ئه جزای شه و ﴿وَهُمْ
 يَسْجُدُونَ﴾ (۱۱۳) له عیباده تدا سوچه ئه بهن ذاتا عیباده تی بی سوچه روحی

تیا نی یه، بویه له (حدیث) ئه فه رموی ((عبد له سوجه له هه موو وه قتی نزیکتره له خوا)).

﴿يَوْمِنُونَكَ بِاللَّهِ﴾ ئیمانی صحیح ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ که ((لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ)) عه زابی بۆگوناهاکار ألیمه دور و دریزه ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ له چه کبرده چه کبردهی أشاعره و معتزلیان دور، ئه زانن چاک چی یه ئه مری پی ئه کهن، ئه زانن خراپ چی یه نه می لی ئه کهن، خویان له فکر ناکه ن. ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ له ناو خیران دا مسارعه ئه کهن به خیرایی له خیری بۆ خیری ئه چن. هیچ خیری که له وسائل و مقاصد له قیس خویان ناده ن ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۱۱۴) ئه وانه له زومره ی پیاوچاگانن لای خواو ئه هلی ئیمان.

ئهی گرۆهی پیاوچاک و خیره ومه ندان ﴿وَمَا يَفْعَلُوا﴾ خوا خطابتان له گه ل ئه کا ئه فه رموی ئه وی بیکه ن ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ گه وره و گچکه خاصه، عامه، قلبی، قالبی ﴿فَلَنْ يَكْفُرُوهُ﴾ لیتان بزر ناکری، فائده ی ئه بینن، ثمره ی ئه چینن. إشاده بۆ إخلاصیان به ئه وه نده إکتفا ئه کا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (۱۱۵) خوی ئه زانی چ نه وعه که ره میکیان له گه ل ئه کاو لای خوا هه ر ته قوا حسابه ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بی ئیمان و بی ته قوا ﴿لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ که لکیان ناگری بی فائده ئه چی. مالیک له ری خوا سه رف نه کری پووچه، ئه ولادی به ئیمان و ته قواو ته ربیه نه بی هیچه. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ خاوه ندی ئاگرن ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۱۱۶) نه ده ر ده چن نه پویان ده رده چی، فدیله نی یه، شه فاعه ت نی یه.

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ له ری شهوات و فیتنه و فه ساد
 ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ وه کو مه سه لی بایه کی سه رمایی به شیدده تی تیا بی
 (بای وهیشووم) ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ له زراعه تی قهومی بدا،
 که زولمیان له خویمان کردبی مه زرهه که یان خزمهت نه کردبی، به قووهت نه بی،
 که مقاومه ی سه رما بکا ﴿فَأَهْلَكَتْ﴾ به جاری سه رما بیبا، به هیلاکی بدا،
 هیچی نه هیلی، نه و قهومه نه وی سه رفیان کرد خویمانی پی به هیلاک چوون
 ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ جه نابی حه ق زولمی له وان نه کردیه ﴿وَلَكِنِ أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ﴾ به لام خویمان زولمیان له خویمان نه کرد. ده وامیان له سه ر نه م
 حاله بوو. له تتبعی کلامی بلیغ نه زانین نه و که لیمه نه گهر بچته سه ر فعل به
 تخفیفی نون نه خویندریته وه، نه گهر داخلی سه ر اسم بی بی به شه دده. لی ره
 خویندنه وه ی به شه دده زور خوش نی یه له زه وق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً﴾ که س مه گرن به دؤست و مه حره می
 نه سرار بی په روا بیته مالتان مداخله ی ئیش و کارتان بکا ﴿مِن دُونِكُمْ﴾ له
 غهیری خویمان لازمه له اجانب زور بهر حه زهر بن (خاصه) نه و مه لایانه ی
 اجانب که موسلمان نه بن تا ته جره به ی اطواریان نه که ن لییان نه مین مه بن چ
 روم چ ئیرانی، کوردی نه لی: ((دوی نازموده له ماستی نا نازموده چاکتره))
 من نایته دلّم مه لاییک له دینیک بو دینی انتقال بکا له غه ل و غه شی دینی
 پی شوو قال بیته وه ((الآ بعد حین)) ذاتا ته فره قه ی کلی میللهت له وان ه
 په یابوو، نه وان ی هه م دین و هه م عنصری ئیوه نین. ﴿لَا يَأْتُونَكُمُ خَبَآلًا﴾
 قسوور ناکه ن له حه ق ئیوه. مه نعی نقصان و هیلاک و مشه ققهت و کول بوون
 ناکه ن، سه عی نه که ن له نقصتان به هه موو مه عنای (خبال) سمی قاتلن، کیم و
 خوزاوکن، اعضا به خورک نه دهن عه قلتان لی نه گوپن، له و افساداته قووه تی

خویان سہرف ئەکەن ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ مشہفقەت و زەرەری ئیوہ ئەحوبینن پییان خۆشە، ئیوہ کەمئە انتباہتان ہەبئە تییان ئەگەن، ہەرچەندی سیاسی بن خویان ناگرن، قسە ی وایان لە زاری دەر دەپەرئە کہ ما فی الضمیریان بزاندربئە ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ﴾ رق و قینتان لە ئیوہ بە حەققەت ئاشکرا بووہ ﴿مِنْ أَقْوَاهِمُمْ﴾ لە زاریان ﴿وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ ئەو بغض و عەداوەت و رقە ی کہ سنگیان بزری ئەکا یە عنی لە ناو دلایان دایە گە لئە گەر وەر ترو بە قووەت تر و بە شیددەت ترہ ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ طبیعی طبقاتی ئەہلی ئیمان لە فەراسەت وەک یەک نین تا ہەمووتان بزانتن لە علاماتی حب و بغض بە فیکر مافی الضمیری منافقان و سیاسیان و رؤسای دینان بزانتن ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ۱۱۸، بە لام ادنی عەداوەت لە گە ل یەک عەقل تیک ئەدا وەک مندال دوا ی دوشمن ئەکەون، پە لاتقە و چاپلووسی ی ئەو ئەو منافقانە ہۆش ناہیلئە و ئەگەر دلایان بدەنئە، محبە تیان بئیننە ناو دلتان العیاذ باللہ بە جارئە شیت ئەبن.

﴿هَاتَتْكُمْ أَوْلَاءَ﴾ ئاگادارین ئیوہ ئەوہن ﴿مُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ ئەوانتان خۆش ئەوی، ئەوان ئیوہ یان خۆش ناوی ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ﴾ ئیمانتان ہیناوە بە کتبی خوی ﴿كَلِمَةً﴾ ہەموو بپروا ئەکەم کہ ہەمووی لای خواوہ یە، ئەوانی کتیبیان بۆ ہاتیە پیغەمبەری خوان فەرقیان ناکەن، لە گە ل پیغەمبەری خۆتان. ئەوان ئیمانیان بە پیغەمبەری ئیوہ نی یە، سەعی لە ابطالی دینی ئەکەن، دەسە لاتیان ہەبئە ئە ی کوژن، ئیوہ لە دین وەر ئەگین، ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ کہ تووشتان ئەبن ئەلین ئیمانمان ہینایە ﴿وَإِذَا حَلَلُوا﴾ کہ خۆبە خوی ئەکەونە خلۆت ئاگاتان لیان نابئە ﴿عَصُوا عَلَيْكُمْ الْأَنْبَاءَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ ئەنگوستی خویان ئەگەزن لە رقی ئیوہ، لە عە یہی ئیوہ، الانیش ئەو

حاله جاری یه، دیومه کهسی روبه‌پرووی کهسی په‌لاتیقه‌ی کردی یه، خۆی به‌دۆست نواندی یه، که پشتی کردیته‌وه ئه‌نگوستی خۆی به‌ددان گهستی یه، به‌چاوی رق ته‌ماشای کردی یه، سه‌ری لی بادایه، ئاخ و ئۆخی هه‌لکیشایه، ﴿قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْظِكُمْ﴾ به‌رموو بمرن به‌ده‌ردی رقی خۆتان، شه‌ق ببه‌ن، تورم بکه‌ن ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿۱۱۹﴾ خوا ئه‌وه‌ی له‌دلان دایه ئه‌یزانی، ناگادارمانه، شوکر ئیمه‌یش عاقلین به‌ (علایم) ئیوه‌و غه‌یری ئیوه ئه‌ناسین، بپواتان پی ناکه‌ین، به‌ ته‌زویراتی ئیوه هه‌ل ناخه‌له‌تیین و جه‌نابی علام الغیوب جزای ئیوه ئه‌دا ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ﴾ ئه‌گه‌ر چاکه‌یی، نیعمه‌تی بو ئیوه بی پیتانه‌وه بنووسی وه‌ک اتحاد و ئولفه‌ت و موحبه‌ت به‌ سه‌رکه‌وتن ﴿سَوْهُمْ﴾ عاجزیان ئه‌کا ﴿وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ ئه‌گه‌ر خراپه‌یی، نیعمه‌تی إصابه‌ی ئیوه بکا ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾ له‌و إصابه‌یه که‌یف خۆش و مه‌سرور ئه‌بن ﴿وَإِنْ تَصِبُّوا﴾ خو بگرن، له‌ حه‌ق پی له‌ نه‌فسی خۆتان بنین، قینتان له‌گه‌ل یه‌ک نه‌بی ﴿وَتَتَّقُوا﴾ خۆتانیان لی بپاریزن، ناگاداربن، ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ حيله‌و فیلی ئه‌وان هیچ زه‌ره‌ر به‌ئیوه ناگه‌ییئی ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ ﴿۱۲۰﴾ به‌عه‌مه‌لی هه‌ردوو لایان به‌ عیلم ده‌وره‌ی داوه، هیچی لی ناشاردیته‌وه‌و هیچ لاتان له‌ده‌ست قودره‌تی ئه‌و ده‌رناچن.

قرائه‌تی (یا) و (تا) هه‌ردووک لی‌ره ریکه، ئه‌گه‌ر مومکین با به‌ یه‌ک ئه‌دا ئه‌کرا، عیلم و قودره‌تی په‌روه‌ردگار به‌ زه‌مان ته‌قیید ناگرێ له‌و زه‌مانه زیاتر نه‌بی، به‌لام بعضاً بو به‌یانی إحاطه‌ به‌ جوزئیات زه‌مانیکی خاص زیکر ئه‌کری به‌ مناسبه‌ی مه‌قام. ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ یادی ئه‌و وه‌قته‌که که سبه‌ینه ده‌رچووی ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ له‌لای ئه‌هل و مالی خۆت، ئه‌فه‌رموون له‌ حوجره‌ی عائشه بوو

﴿بُؤَى الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ﴾ ﴿۱۶۱﴾ موسلمانان دادہمہ زراندن لہ جیگای شہر، کوئندہری باشہ بؤ پیادہ لہ تہپہ و ہردہ، کئندہری چاکہ بؤ سوارہ بہ گوئدہری إجابیاتی فہننی حہربی ئہ و زہمان ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿۱۶۲﴾ چیتان ئہ گوت ئہی بیست، چیتان ئہ کرد ئہیزانی. ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ﴾ ئہ و ہقتہ کہ قہسدیان کرد دوو تاییہ فہ لہ خوٹان، ہہردووک موسلمان ﴿أَنْ تَمْسَلَا﴾ بترسن بیہیز بن لہ محارہ بہی (ئوحد) کہ قہرار درا بچنہ دہر لہ شاری، مخالفی رہئی (عبداللہ بن أبی سلول) لہ بہر ئہوہ موافقہ قہی نہ کرد، لہ لہ شکر جودا بووہوہ، بہقیہی لہ شکر ترسیان پی گیشٹ، خوئیان کہم قووت دیت، خصوص مخالفہ کہوتہ بہین، منافقیش زور بوون لہ کہید و خیانہ تیان ئہ ترسان، دیارہ لہو (ہمہ) معذور بووین، خوا لومہ یان ناکا، تہ شجیعیان ئہ فہرموی ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهَا﴾ ناصریانہ، دل بہ خوا ببہستن، بہ مخالفہی منافقان بیہیز نہ بن، نہ ترسن، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿۱۶۳﴾ ئہ زانن کہ ((كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ)) ئیوہ مہ عنای (توکل) چاکتر ئہ زانن لہ مہ لایانی سہر کاغہز و منزہوی بی تہ جاریب. ئیوہ لہ بقیہی لہ شکری طالوت کہ متر نین، دوعای نصرہت بکہن، (ربنا ثابت قہدہ ممان بکہی، سہ برمان بہ سہردا برڈینی).

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ لہ حہربی بہدر خوا ئیوہی یاردی دا، غالب و مطفر بوون، ئہ و ہقت ئیوہ بی دہسہلات بوون، جہ معی کہم بوون، (أذلة) جمع القلہی ذلیلہ. حقاً قورئانی کہریم کتابی حہکیمہ، ہہمووی ہیدایہت و (عیبہر) و موغظہیہ، تہ ماشا کہن ئہ ہلی ئینصاف وقایعی زہمانی صاحب و ہحی بہ حیکایہت ناہینئی لہ مہوقیعی مناسب رۆحی واقیعیہ ذیکر ئہ فہرموی نہوہک شاہنامہ و کُتبی منجسہ و قہجج و بہجج بیئی و بلئی ئہوہ

وهحی ی ئیلاهی یه. آلهی بشر بۆ وا بئی ئینصافانه بهناوی کتبی مقدسه مغرور
بن بوفه ادنی کتابی له تاریخ چاتر له کتبی مقدسه:

جای آنست که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف میشکند بازارش

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ خۆ بپاریزن، إعتماڊ بدهنه سه ر خوا، ترس به دل مه دهن
﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿۱۲۳﴾ له سه ر عاقبه تی سه بر و تحمل و توکل ﴿إِذْ تَقُولُ
لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بۆ تقویه و ته شجیعیان و ئەهمیه ت نه دان به انحرافی منافقان
﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ﴾ ﴿۱۲۴﴾ ئایا
کفایه تی ئیوه ناکا، به ستان نی یه له عنایه تی ئیلاهی که إعانه تان بدا
ته قویه تان بکا به سی هه زار مه لائیکه ت بنیردرینه سه ر دوشمنتان (کأنه) ئه وانه
به پیاده یی بین. خوا ئه فه رموی ﴿بَلَىٰ﴾ ئه وه کافی یه ئه م ما زیتریش هه یه
﴿إِنْ تَصْبِرُوا﴾ ثابت قه ده م بن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ له مخالفه، له ترس و بئی هیزی
ئه گه ر قووه تی قه لبی خویان محافظه بکه ن ﴿وَيَأْتُوكم مِّن فَوْرِهِم هَذَا﴾ بین بۆ
ئیوه بۆ سه ر دوشمنه کانتان له و ئانه دا یا له حالئ فه ورانی ئه و قین و بغضی
که هه یانه ﴿يُعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ به قه ده ر آرکانی
له شکری عه ره ب مقدمه و قلب و جناحین و که مین گا ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ ﴿۱۲۵﴾ وولاخی
خویان به ره لالا که ن، جله ویان باوینه سه ر ملان. جله و رییز بینه مه یدان،
سه فیان بدرن تا قه لب گاهیان رانه وه ستن ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ وه عدی به نارذنی
مه لائیکه نه دا، نه کرد ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ﴾ به شاره ت بۆ ئیوه به نه سه ره ت و
غه له به، مقصد له ئیمداڊ نصره ته، خوا وه عدی نصره تی به ئیوه داوه (لاشك)
ئه بی، به لام خوا حه ز ئه کا به قووه ت و سه عی و اتحادی خوتان موه فقتان بکا
ئه مه خویه تی، نه انتظاری ئیمداڊ له لاڤا بکه ن، خصوص له روحانیانی غه بیی

ئەمە زۆر خراپە، جوولەکەیی یە قوووەتی قەلبیان لە تابووت وەرئەگرت ئاخری کەوتنە قەبری زیللەت. ئەمما ئیئەمە لە جوولەکەکانمان تێ پەپاند، جەهالەتی موسلمانان بەسایە ئیمان بە کەرەمەت گەیشتە دەرەجەیی لایان وابوو تۆپی (کەل)ی بەغدا خۆی ئەچیتە شەر، خۆی خۆی ئاگر ئەدا لەشکری دوشمن ئەشکینێ. (ماشاء الله) لە کەرەماتی حەزەرەتی شیخ.

﴿وَلِنُطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ هیشتا حسیاتی قوووەتی ماددە لەسەر ئیئووە هەیه بۆیه جەنابی حەق ئیمدادی خۆی تصور کرد بە ناردنی مەلائیکەت بە عەدەدی زۆر، سوارەو پیادە ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ بە قوووەتی ئیمان هەم دلی صبر و متانەت و صلابت ئەوانەن مەلائیکەتی راستی، ئەو روحانیەت و معنویاتە ئەبیتە وەصفی ذاتی نەفسی بۆ ئیئووە لەشکری حازر و ئامادەیه ئەمە نەبێ ئیمدادی خارجی کەلک ناگری! نابینن خوا ئەو هی کردە شەرت بۆ ناردنی مەلائیکەت.

(إن) شە رطی حقیقی و فطرییە: بەس ئیئووە ئەتمادتان لەسەر ئیمان و نەفسی خۆتان بێ بەو قوووەتە ئەتوانن قووی مادی لەجێی خۆی سەرف بکەن، آلتی حەربی با بگاتە نهایەتی قوووەت و مەتانەت و شیددەت و سورەت کە کەسێ نەبێ بە عیلم و فەن ئەستعمالی بکا هیچ نی یە زیئە بارگرانی یە.

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بە قوووەت و حکمەتی خۆی تەسخیری قووی تەبیعیەتی کردی یە، عزیزەتی بێ حکمەت ئیش تیکدەدا. قوووەت نەکە ویتە ژیر ئەنتظامی عیلم وەک سیلاو دنیا ویران ئەکا ئەستفادەیی لێ ناگری، بە عزیزەت و حکمەتی خۆی غالبان ئەکا بە عەلەبەیی نافع بۆ عیباد. ئیئووە (خیر الأمة)ن ئەبێ حەربیشتان بۆ نەفعی عالەم بێ و محقق بزائن عاقیبەت بۆ ئیئووە یە لەسەر دوشمن غالب ئەبن. خوا ئەیان کا بە چوار قسم. اساساً دوو قسمن، قسیمیك

اصلاً راساً محاربن له گه ل ئیوه، قسمیک له تهره فی هاتووہ إلتحاقی به ئه وان کردووہ هه ریه ک له مغلوبی ئه بن به دوو قسم، نصره تی ئیوه بوی یه .

﴿لِقَطْعِ طَرَفَايِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ تهره فی له و کافرانه بپرئ مستأصلیان بکا

به هیلاکیان بدا مه حوو نابوود بین. ﴿أَوْ يَكْتُمُوْهُمْ﴾ یا له عاردیان ئه دا ره زیلیان ئه کا، دلیان دهرده دار ئه کا (کأنه) عیله تی (کبد) یان توشی ئه بی قطعاً ناتوانن حه رب بکه ن، ئه مه بؤ ملحقات ئاخری له (بنی نضیر و بنی قریظة) دهرده که وی. ﴿فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ﴾ (۱۲۷) خه ساره ت مه ند، مه ئیوس له ئه مه ل.

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ﴾ له و ئه مره حوکم عاندی ئیوه نی یه ئه مه ده بیته ته حکیم هه رکه س به حوکمی حه که می خو یان رازی ئه بن. دوو قسمه که ی دی ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ موسلمان ئه بن توبه ئه که ن خودای ته عالا لییان خوش ئه بی با سه د جار شه پریان له گه ل تۆ کردبی ئه وه أعظمی مقصدی تووه زۆر پی خوشحال ئه بی.

﴿أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ ئه وانه ئیمان ناهینن، توبه ناکه ن، خوا عه زاییان ئه دا له دنیاو

له قیامه ت مستحقن. ﴿فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ﴾ (۱۲۸) واز ناهینن له زولم و ته جاووز له

حه د ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ کئ توانای مقابله ی هه یه ته غیری

حوکمی بدا اعتراضی لی بگری ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ با له وه قتیك دا (الدی)

دوشمنانی پیغه مبه ر بووی ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ با له ئه قره بی ئه قاریبانی بی،

خوا له به ر که س که سی خوش ناوی، له به ر که س رقی له که س نابیتته وه،

ئه هلی ته قوای خوش ئه وی (ولو) بعد الکفر بی، ئه هلی زولم و کفری خوش

ناوی (ولو) بعد الايمان بی ﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (۱۲۹) غوفران و ره حمه تی ئه و

عامه دهرحه ق (بر) و فاجر شه رته خو یان مه حروم نه که ن. لی ره جئ نی یه بلین ((لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ)). ئه مه مه علومه له چه ند ئایات زاناندرا، لی

خوش بوون و عذاب دان صرف ئیشی خواہیہ تہوہومی شرکات ناچی، بہ لام
 لہ پیشو و اخباریکی غہیبی تیابوو مع الاسف مفسرہکانیش نہیان زانی
 ہرکس بیی بہ یانی ئہ کا، رہملیکی لی ئہ ہاوی، پاش تاملی زور ئیمہ بہ و
 نہوعمان بہ یان کرد لله الحمد. مادام ئیمانتان کہ حہرزہتی باری رحمتی
 عامہ ئیوہش رحم بکن، خاصہ بہ ئہوانہی زراعت و فلاحہت ئہ کھن
 مہجبور ئہ بن قہرز بکن، ئیوہ بہ قہرز حہسہنہ دہستیان بگرن، ئیشیان
 پیک بینن.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ ئیوہ وک بہنی
 اسرائیلی چ بہہانہتان بہ دہستہوہ نیہ، لہ قورئان لہ حدیث، ئہوا پیغہمبہر
 خوی بہر حہیاتہ چی واتان پی نالی (ولو بہ تاویل و تحریف) کہ دنیا بو
 ئیوہیہ خہلکی حہقی نیہ بہہر جورئ مالتان بیٹہ دہست بوتان حہلالہ و ہم
 ناتوانن وک زہمانی جاہلیہت بلین ریباش وک بیعہ مباحہ و بہ وہسوہسہی
 ئیبلیس نہ خہلہتین بلین بو جہاد مال کو ئہ کھینہوہ سہرفی ئہ کھین فی سبیل
 اللہ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ لہ ریباو سوابقی ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ ﴿۱۳۰﴾ ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
 أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿۱۳۱﴾ خوتان بیارین لہ اعمالی کافران تا نہ چنہ ناو ئاگری کہ
 نامادہ کراوہ بو کافران - من تشبہ بقوم فہو منہم - ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾
 - من حیث ہو رسولہ - إطاعہی رہسول إطاعہی مرسلہ ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
 مِّن رَّبِّكُمْ﴾ مسابقہ بکن بو ئہ سبابی لی خوش بوون، پی خوش بوون لہ
 تہرف خوی خوتان ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ غار بدہن بو لای
 بہہشتی کہ پانای بہ قہدہر پانای ئاسمان و ئہرزہ، تہنگ نی یہ ہر جیی
 جوولہ کہ کانی تیا بیٹہوہ یا ئی دیانان. جی ہی ہموو عالہمی لی ئہ بیٹہوہ
 ئینسانی ئہوی کہ بو بیچی. یاخود ئہوہش مہزاتی قیمتی ئاسمانان و ئہرزہ
 وک (ئہ بو مسلم) ئہ فہرموی، حقیقہ مہعنای زور جوانہ، ﴿أُعِدَّتْ

﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (۱۳۳) مومکینه موسلمان به مسامحهی دوو قرانان ئه و به هه شته
 قیمة تداره چه نگ بکه وی. ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ له وه قتی
 که یف خووشی و عاجزی، هه زانی و گرانی، سلم و حرب، ساغی و ناساغی،
 جحیلی و پیری، شین و شایی ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ سه وره و شیده تی
 رقی خویان چه پس ئه که ن و ئه یبه ستن به قووه تی صبر و تحمل. ئه سلی
 (کظم) به ستنی زارکی کونده ی پره ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ که قودره تیان
 به سه ر دوشمندا شکا عه فوی بکه ن، قینیان له زگ نه بی، عه داوه تی آباء
 نه که نه موجبی عه داوه تی خویان، به کفری سابق له زه مانی ئیمان معاتبه و
 معاقبه یان نه که ن چو ن خوا عه فوو یان ئه کا، ئه وانیش عه فوو یان ئه که ن،
 سیئاتی زه مانی کفر به دلدا ناهینن.

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (۱۳۴) ئه گه ر چه زئه که ن خوا خووشی بوین چاکه
 بکه ن ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ جوین به که سیک بده ن خراپه یی له حه قی
 بکا ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ یا خود زولمی له حه ق نه فسی خو ی کرد بی، ته ربیه ی
 چاکه ی نه دابی، فییری خووی خراپی کرد بی. له خووی ناشیرین ﴿ذَكُرُوا اللَّهَ﴾
 یادی خودا ئه که ن، تفکر له صفاتی مقدسه ی خودا و جه لال و عظمتی ئه که ن.
 ﴿فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ ته له بی مه حوو ستری گوناھی خو یان ئه که ن، هه ر
 نه وعی بی له به ر خراپی و پیسی گونا ه له خو ئه زانن. هه ر ئه و له گونا ه خو ش
 ئه بی، ئه سه ری له دلان ناییلی. ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ که سی و ابزانئ
 غه یری خوا که س عه فوو ی گوناھی پی ئه کری گوناها کاریکه قابیلی عه فوو
 نی یه .

﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ جارئ کردیان نای که ن به دوو جار ﴿وَهُمْ

﴿يَعْلَمُونَ﴾ ۱۳۵ ﴿ئەزانن ئەوی کروویانە گوناھە، نەك گوناھ بەخیر بزائن ئەوانە قابیلی تۆبە نین، ئەوجا بەو عیلمە متاثر ئەبن تەركی گوناھ ئەكەن، ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ﴾ ئەوانە جزا و پاداشتیان ﴿مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ لە تەرەف خوا عەفو ئەكرین ﴿وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ گەلی باغی كە لە ژیر دارەكانی جۆبار ئەپوا ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دەرناچن لەو بەهەشتانە ﴿وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ ۱۳۶ ﴿بەهەشت ئەجری باشە بۆ ئەوانە ی عەمەلی باش بكەن.

دیاره ئەو هی ئیشتی پئی پئیك بئی كەلكی بگریّ خاصە لەو نەوعە وەقتە ئەو دوو نەوعە موسلمانەن. ئەو فاسق و فاجر و مخاش و لعان و زنا و ریباخۆر، لە غەزا هەلاتوو نەجاری نە دوو، نامطیعی قوماندان، قین لەزگ، ثقیل تۆبە بكا كە هیچ كەلكی پیوه نەما لەحالی یهئس و بئی هیزی باس ناكەین یا بۆچەكبرده چهكبردهی موعتەزیله و ئەهلی سوننەت و جەماعەت بئی شەر و دەعوای لەسەر بكەن ئاگیان لە ئەسلی دوشمنی دین و دنیا نەمیئنی، لاشك ئەو نەوعە گوناھكارانە زەرەریان بۆ هەیهتەتی اجتماعی وەتەن لەكافران زیاترە، واجبە لەسەر موسولمانان ازالەیان بكەن یاخوا هەزار جار لییان خۆش بئی، بیان خاتە اعلی علیین لە خزمەت شیخی (أشعری) و شیخی (ماتریدی). ﴿قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ گەلی قواعد تی پەری لەپیش ئیوه، (ثابت) و (مقرر) بوو، (أسباب) (غالبی) و (مغلوبی)، (دوام) و (انقراض)، (نجات) و (هلاک) بۆ (أهل) (عبر) زاندر، (أثر) (إيمان) ی بە (قوهت) و بئی (قوهت) (معلوم) بوو ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ تەماشای (سیر) (أقوام) ی پیشی خۆتان بكەن ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ ۱۳۷ ﴿تفكر) بكەن، بزائن (عاقبەت) ی ئەوانە ی (تكذیب) ی پیغه مبه رانیان كرده، چیان بەسەر هاتیە؟ (وكذا) ئەوانە ی دەرگە ی گوناھیان كردهتەو، بەئومیدی (توبه) و (شفاعت)، (رؤسا) ی (دین)

چۆن (انتظام) یان تیک چوو؟! کارهکیان بهسه رهات، نه بهسه ر (دیان) ان هات، نه بهسه ر جوو ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (۱۳۸) ﴿تَقَرُّرُی (سُنن) ئاشکرایه، بۆ هه موو کهس، (أَمَّا) هه موو کهس له (روح) ی (وقایع) ناگا وه گه لی (حمل) ی ئه که نه سه ر (أَمور) ی (غیبیه) یه، که (اِکتساب) ی بۆ خه لک نا کرئ، (أَمَّا) بۆ ئه وانه ی (مُتَّقِی) بن، خو بپاریزن، به چاوی (عبرهت) ته ماشای (أحوال) ی (أمم) بکهن، چۆن (تشکل) یان کرد؟ چۆن (غالب) بوون؟ (زیاد) یان کرد؟ چۆن راوهستان؟ له (بَین) ی (ترقی) و (تَدَنِّی)، چۆن پاش بلندی نهوی بوون؟ چۆن برانه وه؟ (قیامهت) یان لی رابوو، (سفیل) و سه رگه ردان بوون، ئه بیته (هدایهت) ری ی راست ئه دۆزنه وه، (سلوک) ی ئه کهن، ئه ی که نه په ندی خو یان، (کأنه) (حوادثات) ی (زهمان) ه، (نصیحهت) یان ئه کا، ئه وانیش له گوئی ئه گرن (عمل) ی پی ئه کهن، له سه ر (تعالی) و (عزّهت) (دوام) یان ئه بی ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ به (انحراف) ی (مُنافق) آن، به شکسته یه که به سه رتان داهات ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ ئیوه به (هیمهت) له وه بلندن ترن، که بی هیز بن، غه مگین بن ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۱۳۹) ئه گه ر به (حقیقهت) (ایمان) دار بن، خۆتان به (خوارق) و (ملائکه) هه لئه خه له تینن، شت بزائن، له سه ر (حال) ی (حقیقهت) ی خو ی ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾ ئه گه ر برینئ له ئیوه بگا، مه ترسن، (مأیوس) و بی هیز و (عاجز) مه بن ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ﴾ ئه و (قوم) ی (معهود) که له (بدر) شکان، بریندار بوون، له برینئ وه ک برینئ ئیوه، (مع هذا) (غیرهت) یان (زیاد) بوو، (حَتَّى لَذَائِدِ) یان له خو (حرام) کرد، تا (انتقام) یان کرده وه، ئیوه ش (علی الاقل) و ابن با (وجود) ی (وصف) ی (جهاد) ی ئیوه بۆ (إعلا) ی (دین) ی (حق) ه بۆ گوشادی ری ی راسته ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ نه (ظفر) نه شکست، (خاص) ی (ده ولهت) ی، (ملهت) ی نیه، ئه و (أیام) و (أوقات) ه، (جناب) ی (حق) ئه وده ست و ئه م

دهستی پئی ئەکا، له (بین)ی (إنسان)، (كافر)، (مؤمن)، (صالح)، (فاسق)، مه‌ئین: " (مادام) (مسلمان)ین، وه له (خدمهت) (صاحب) (رسالهت)ین ئیمه هه (غالب) ئەبین، (قط) (مغلوب) نابین. " زۆر نه‌زیکه، پاش (فتح) و (ظفر)ی (بدر) ئەو (فکره)یان بۆ په‌یابووپی، (ذاتاً) ئەو (نوع)ه خه‌یالاته شکستی دا به (مسلمان)آن، (عبرهت)یان نه‌گرت، به‌قسه‌ی (خائن)آن فریته‌بوون هه‌رچی بوو، دایانه (هیمهت) و (کرامهت)، تا ئەوه‌مان به‌سه‌رهات، که (صحائف)ی (تاریخ)مان په‌ش بوو، ئەوه‌مان کرد، بۆ (نفع)ی ئیوه ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (إمان)ی به‌پاستی له (شدائد) به‌ده‌ر ئەکه‌وی، خوا (قبل الوقوع) ئەزانئ، (لکن) به (إمتحان) بۆ هه‌موو که‌س به‌ده‌ر ئەکه‌وی، که ئەوه‌بوه، بۆ (أقوام)ی رابردوو ﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ (أمناء) و (حُفَّاظ) هه‌ل بژیری، (إختیار)یان بکا، بۆ خۆی، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (۱۴۰) ئەوه‌ی له (ایمان)یش (تجاوز) بکا، خوا خۆشی ناوی، چونکه له (حقهت)دا ئەبیته بی (ایمانی) ئەوه‌ی له (حد) تئ‌په‌ری، وه‌ک ئەوه‌یه نه‌گاته (حد) ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قالیان بکاته‌وه ﴿وَيُمَحِّقَ الْكٰفِرِينَ﴾ (۱۴۱) ئەوانه‌ی (ستر)ی (حق) ئەکه‌ن، به‌لاف و گه‌زاف خۆیان، له (اقویا)ی (ملهت)، (ملاذ)ی (أمهت) پشت و په‌ناهی (دین) و (ده‌ولهت)، خاوه‌نی (قوهت) و (قدرهت) (صاحب)ی (هیمهت) و (کرامهت)، مه‌ردی مه‌یدان، شی‌ری ژیان، شمشیری بو‌ران، (حساب) ئەکه‌ن، خوی (تعالی)ن (محو) و نابوودیان بکا له‌سالی بو‌نباران، پیشی (واقعه) گه‌لیکم هاوارکرد، گوئی‌یان نه‌دامی. ئەیان گووت: (طیّارة) وه‌کو کۆلاره‌یه، (غایهت)ی جیقنه‌یه‌کی به‌ردایه‌وه، پاشان که هات، یه‌ک دوو بو‌مبای به‌ردایه‌وه، ته‌ق و شه‌ق که‌وته ناو شار، (عالم) هاته هه‌ژان، ئەوانه بۆ کونان، وایان هه‌ر پائه‌کرد، (بابانیم) تۆزی پئی ی نه‌ده‌شکاندن، کوردی ئەلی: "قسه‌ی به‌رئاگردانی له‌کئ؟ تاوی به‌رازی له‌کئ؟! " ئایا ئیوه له‌و (عبرهته) نه‌(فکری)ن؟ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴿؟﴾ یا واتان (حساب) کرد، دہچنہ بہہشتی، (سَلَّمُهُ السَّلَام)،
 نایا ئہو (آیہت) ہی (سورہ) ی (بقرہ) تان لہ یاد چوو؟ ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
 جَاهِدُوا مِنْكُمْ﴾ ہیشتا خوا نہی زانیہ، ئہوانہی (جہاد) و (سعی) و (غیرہت)
 کہشی ئہکن، (تمیز) و (تفریق) ی نہ کردیہ، لہوانہی بی (سعی)ن، زور خویان
 ماندوو ناکہن، گورج پوو و ہرئہ گپن ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۴﴾﴾ ئہوانہی
 (صابرن)، بیانزائی، زیپا بہ (حرب) یك ئاشکرا نابی، (تحمل) و (رسوخ) ی
 (قدم) یان دہرناکہوی ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ﴾ ئارہ زوی مردنتان ئہ کرد،
 ئہ تان گووت: "خوزیا کوژراباین، و ہکوو ئہوانہی لہ (بدر) کوژران" ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَلْقَوْهُ﴾ لہ پیش ئہوہ کہ تووشی بن، (أحوال) و (شدائد) ی (حرب) تان نہ دیبوو.
 کہ (حرب) ی (طرابلس) ی (غرب) دامہ زرا، لہ (بین) ی (دہولت) ی (عثمانی) و
 (ایطالیہ)، گہ لئ کہس لپرہ خویان (قہید) ئہ کرد خویان ئہ خواردہوہ، لہ
 (حسرت) ان (قصد) یان ہہبوو، لہ کوپہوہ بہ یہک (غار) ہل کوتنہ سہر
 (رؤما)، کہ (حربی) (عمومی) داکہوت، (أحوال) ی (حرب) یان دیت، چیان
 ئہ کرد؟ چؤن لہ چؤل و (صحرا)، لہ لادیان، لہ شاخان خویان ئہ شاردہوہ
 چہندیان (پشوہت) دہدایہ، (جہندمان)، کہ تووشیان بوون، نہیان گرن، کہ
 (پروس) ہاتہ (پہواندون) گہ لئ سہرسپی بہ (مہترہق) رویشتن بؤ سہر
 لہ شکری (پروس)، کہ (صعیقہ) ی توپ و تہقہی تہقینہوہ یان گوئ لئ بوو
 ہہرکہس و ہکی ریوی کلکی بہ ناو گہ لانی شور بؤوہ، ہہ لاتن، ہاتنہوہ ﴿فَقَدْ
 رَأَيْتُمْوَهُ﴾ بہ (مُوافقہ) ی (تمنا) و ئارہ زوی خوتان ﴿وَأَنْتُمْ نُنظُرُونَ ﴿۱۴۳﴾﴾
 چاوساغ و بی (علت)، بہ چاوی خوتان دیتتان، ئہدی بؤ ہہ لاتن؟ چونکہ
 (خبر) تان بیست، کہ پیغہ مہر کوژراوہ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (إنسان) بہ
 (رسالہت) بہ (ولایہت) بہ خوشہویستی لای خوی، لہ (إنسان) ناشوری،

(أحوال)ی (طبیعی) ناگۆرئ، (شیخ) گوله تۆپ وهك تۆپه چهرمینی نان نانی ناگریته وه ئهمرئ وه (قابل) ه بكوژرئ ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ تئپه رین له پئیش ئهوی چه ند پیغه مبه ر، (بعض)ئ به كوشتن، (بعض)ئ به مردن. له و (آیات)ی رابردوو نه تان بیست؟ كه خوا (عتاب)ی له جووله كه كان گرت، به (قتل)ی (انبیا) یان ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾؟ ئایا ئه گهر (وفات) بكا یا بكوژرئ، دهر (حال) ئیوه ئه كشینه وه؟ یا (غیرهت) تان (زیاد) ئه كا وه تۆله ی ئه ستینن ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ ئه وه ی بگه ریته وه له سه ر هه ردوو پازنه ی، بئ (توقف) و (تردد)، (من غیر أن یقدم رجلاً ویؤجر أخری) ﴿فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾ هیچ (ضرر) به خوا ناگه یه نی، به لام زۆر بئ (غیره تی) و بئ نه کی یه، ئه و سه رداره نازداره بكوژرئ، خۆی هه لئ وه (نجات)ی (نفس)ی خۆی بدها، ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ ١٤٤ ئه وانه ی ئه مه كدارو (وفا) دارن، پاش ئاغای خۆیان سه ری خۆیان ناوی، (روح)ی خۆیان به خت ئه كه ن خوا (جزا) یان ئه داته وه ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ كه س نامرئ (إلا) به (إذن) و (رضی)ی خوای (من حیث الخلق والإيجاد)، هه موو كه س یه كسانه، بۆ كه س نیه، بئ (إذن)ی ئه و بمرئ، (إنسان) وهك (سائری) (حیوانات) (دائماً) (معرض)ی مردنه ﴿كِنْبًا مُّوَجَّلًا﴾ (حیات)ی (كُلِّ)ی (نفس)ئ له ئیوه یا (حیات)ی (دنیا)، (حیات)ئ (مقررّه)، (مؤجلة)، (محدوده) به (زه مان)ئ هه ر ئه بریته وه، با زۆریش درئژ بئ، هه زار سال بژیه، (عاقبهت)ی هه ر مردنه، (أمّا) وهك كوردی ئه لئ: "كه م بژیه، كه ل بژیه"، ژینی به (ردالتهت) و (اسارهت) و (عبودیهت)ی (عمرو) و (زید)، چ خۆشیه کی تییدا نیه. ئه وانی (غیرهت) دارین، مردنی به (عزّهت) و (شرف) یان پئ خۆشتره له ژینی به (ذلهت) و سووكایه تی ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ ئه وی (ثواب)ی

(دنیا)ی ٹہوی، کہ ژینی (دنائت)ی ﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا﴾ وہك كوردی ٹہلی: "حیزی و سلامہتی!" ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ ٹہوی (ثواب) و (نعمت)ی (قیامت)ی بوی ﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنْجَزِي الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿۱۴۵﴾ ٹہگر لہ (دنیا)ش نہبی، لہ (قیامت) ٹیمہ (جزا)ی (شاكر)آن، وہفاداران، (حقوق) پەروردان ٹہدہین ﴿وَكَايِنَ مِنْ نَبِيٍّ﴾ چہند لہ پیغہمبہرانی (عظام) (حرب)یان کردیہ ہیچیان، تہنہا پیغہمبہری (سلم) نہبووین، ٹہوی لہدہستی ہاتبی (حرب)ی کردوہ، (حرب) (آخر الدوا)یہ وہك داغ کردن ﴿قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (ظاهر) وایہ (ربانیون) بؤ (رؤسا)ی (دین) و (معلم)ی (شرائع) بی، (ربیون) (علمای)ی (حرب) بن، (جمع)ی زور لہ (رجال)ی (مدرب) و (مجرّب)، (ایمان) بہ (قوت) لہ (خدمت) پیغہمبہری (عصر)ی خویان، (شہر)یان لہگہل دوزمن کردیہ، بہسہریش کہوتوون، بہژیریش کہوتوون ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ﴾ سست نہبوون، لہبہر ٹہوی تووشیان ہاتووہ ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ نہ لہ (اعتقاد) نہ لہ (سعی) بؤ (نیل)ی (ظفر) و (أخذ)ی (انتقام)، (فتور)یان نہبوہ، وچانیان نہدایہ ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ سہرشوریان نہکردوہ، بؤ دوزمن، لہ (حرکہ)ی دلیرانہ، نہکہوتوونہ (سکون)ی ترسنوکی، ٹیوہ لہوان کہمترن؟ نا، ٹیوہ (خیر)ی (امّت)ن، (قوم)ی بہ (شرف) و (عزّت)ی (نفس) و (غیرت)ن ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿۱۴۶﴾ (حظ) ناکہن، خوا ٹیوہی خوش بوی؟ ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ لہ (شدّت)ی (حرب) لہگہل دوزمنی (قوی)تر لہخویان گہلی زورتر، قسہ ہیچ نہبوو، (إلا) ٹہوہ نہبی ٹہیان فہرموو: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ لہگونہمان خوش بہ ﴿وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ لہ (تجاوز)مان ببوورہ، (شأن) و (حال)ی (عمداً) ٹہگر لہ سنوور چووبینہ دہری، (عفو)مان بکہ، لہو

(سعی) و کوششہ، خویان بہ (مُقَصِّر) ئە زانی ﴿وَتَبَّتْ أقدامنا﴾ روو بہ پرووی
دوشمن، بہ (قوہت) ی (ایمان) راوہ ستاومان کہ، دوو لاقمان راگیر کہ، لە جی
نہ چن ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (ذاتاً) (اخری) (دُعا) ی ئیوہ لە
(آخری) (سُور) ی (سابقہ) ئەو (نوع) ہ بوو ﴿فَأَنَّهُمْ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا﴾ خوی
(عالی) (أجر) ی (دنیا) ی پی (کرم) کردن (غالب) بوون، (استیلا) ی (دار) و
(دیار) ی دوشمنیان کرد، ناوو ناوبانگیان دەرچوو، (مال) ی زوریان پی برا
﴿وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ (ثواب) یکہ، (ثواب) ی (دُنیا) لە سەر ئەو ھەموو
(قیمت) ہ، (نظر) بہوہ (حُسن) ی نیہ، (دائم) ہ، (لاینقطع) ہ، وہ (ممکن) ہ
بَلَّيْنِ: "ئەو (ثواب) ہ (حُسن) ہ، لە (ثمرۃ) ی ئەو (ثواب) ی (دنیا) یہ،
(محصول) ی ئەو (تخمین) کرا، ئەوہ (تقدیر) و (تصویر) ی (حُسن) ی ناگری، لام
وایہ ئەوہ باشترہ، چونکی (غلبہ) لە سەر دوژمنی (دنیا) و (دین) (قیاس)
لەھیچ (نعمت) ناگری، (أما) ئەگەر (مُراد) پاتال و ماتال بی، چی وایہ
بە جوان (حساب) بگری". ئەو (حُسن) ی (ثواب) ہ، (جزا) ی (إحسان) یانہ ﴿وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ئیوہش بہو جوړہ (إحسان) بکەن، تا خوا خوشی بوین.
﴿بَتَّيْنَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ئەگەر (إطاعة) یان
بکەن، بہ (وسوسہ) یان ھەلبخە لە تین ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ﴾
پاشہ وپاش ئەتان گیرنہوہ، ھەتا دینہوہ (أول) تان ﴿فَتَنقَلِبُوا﴾ وەر دەگەرین
﴿خَسِرِينَ﴾ (خیر) ی (دنیا) و (آخرت) تان لە دەست دەروا ﴿بَلِ اللَّهِ
مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ ئەو (کافر) انہ (نصرہت) ی ئیوہ یان پی
نادری، لە (أولیا) (حساب) نین، خوا (ولی) و (ناصر) ی ئیوہ یہ، ئەو چاترین
(مُعین) و (ناصر) تانہ (ذاتاً) خوتان لە (اخری) (سُور) ی پی شی ووتتان: (أنتَ

مَوْلَانَا) (شُبُه) مه‌که‌ن، (دُعَا) تان (قبول) ه، (نصرهت) بۆ ئیوه‌یه ﴿سَكُنْتُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ هەر (قوم) ئی بیه‌وی (حُر) بی، ئه‌بی (غایهت) ه‌کی هه‌بی ئه‌وه‌نده‌ی (مقصود) بی، ئه‌وه‌نده‌ی (میل) ی به‌ دل و (روح) له‌گه‌ل بی، که له‌ ئوگری (نفس) و (نَفِيس) (صرف) بکا، که ئیستا (تعبیر) ی ئه‌ده‌نه‌وه، به (مثل) ی (أعلى) و ئه‌و (غایهت) ه ئه‌بی (غایه) ی هه‌موویان بی، که به‌ یه‌ک (قوهت) بۆ (تحصیل) ی تی بکۆشن، (تفرقه) یان نه‌بی، (غایه) ی ئیوه (تحصیل) ی (رضا) ی خودایه، بۆ (إعتلا) ی (بشر) و ئازادی، له (ذلل) ی (عبودیهت) ه، تا له‌سه‌ر ئه‌و (فکر) ه بن، (إختلاف) تان نابی، یه‌ک (غایه) و یه‌ک (حرکه) ئه‌بن، ئه‌وانی (کافر) ن، (مثل) ی (أعلى) یان چیه؟ یه‌که، دووه، هه‌زاره؟ (تحصیل) ی (رضا) ی کئی یه؟ بلن‌کردنی کئی یه؟ چونکی (آله) یان (مختلفه)، (أفکار) و (آمال) و (غایه) شیان (مُتَفَرِّقَه)، (وه‌قت) ی، که دئ به‌هۆش بیته‌وه ئه‌لی: "ئه‌مه چی ئه‌که‌ین؟ بۆ کئی ئه‌که‌ین؟" ئه‌و (وه‌قت) ه (ایمان) یان بی هیژ ئه‌بی، (قوهت) یان سست ئه‌بی، ترسی ئیوه‌یان پر دل ده‌بی، (جناب) ی (واحد) ی بی (شريك) ترسیان ئه‌هاویته دلی ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ شته‌کیان کردیته (شريك) ی خوی، که به (واسطه) ی وی هیچ (قوهت) (نازل) ناکاته ناو دلی ئه‌وان، بی (رَبِيب) (مغلوب) ئه‌بن ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٥١﴾ ئاگری (حسرهت) و (خیبهت) له (دنیا، نار) ی (جهنم) له (اخرهت)، نه (ثور) ی (مُقَدَّس) نه (مؤید) ی نه (روح القدس) (نجات) یان نادا ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ خوی (تعالی) (وعد) ی خوی بۆ ئیوه‌گه‌یانه‌ جئ ﴿إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ﴾ ئه‌تان سووتاندن، وه‌ک سه‌رد و سه‌رمایه، که گیا بسووتینی، ئه‌وی (صرف) یان کرد، بۆ (هلاک) ی ئیوه، (إصابة) ی خویان بوو

ههپراتان ئه کرد، پشت له (موقع) ی (حرب)، لای (طرف) ی دوژمن، که ئاوپرتان له (أحد) که (موقع) ی (شه) ه که بوو نه دایه وه ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ﴾ پیغه مبهه بانگی ئه کردن، له دوای ئیوه، ههنده لیبتان دوور نه بوو، گویتان له بانگی نه بی، ئه ی فهرموو: " (عباد) ی خوی بگه پینه وه بو لای من، وه رنه وه خوتان بگرنه وه، (حملة) یه بو سهر دوژمن ببه نه وه ". (خیر) کی گوی ی لی یه، ﴿فَأَثَبَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ﴾ (ثواب) و (أجر) ی ئه و کاره (خیر) هی پی گه یانندن، (غم) ی له سهر (غم) ی، (غم) ی به (سبب) (غم) ی، (غم) یکتان بو (مال) له قیس چوون، (غم) ی ئی شکست هاتنه سهر، (غم) هکتان دا به دوژمن له (بدر)، (غم) تان به (مكافآت) وه رگرتنه وه، خوتان له جیاتی دوژمن (أجر) تان ده دایه خو، ئه گه (محض) (لطف) ی (إلهی) نه بی، (عفو) (قابل) نیه، بویه خوا (عفو) ی کردن، تا ئه و (وقع) ه بکه نه (دهرس) ی (إعتبار) ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ له (غنائم) ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ له (عزیمهت) و شکست، به جاری هوره بهر مه دهن، خو بگرنه وه (من بعد) بو (طمع) (شه) مه کهن، تا تی نه که ون ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (۱۵۳) ئاگاداره به (جُزئیات) (أعمال) ی (ظاهری) و (باطنی) ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ﴾ له پاش ئه و (غم) و (مصیبهت) ه، (جناب) ی (حق)، (لطف) یکی نواند، که (غایهت) دوور بوو، له (مقام)، نه ده هاته (خاطر) و (خیال) به سهر ئیوه ی دا نارد ﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ خهوی (زمان) ی (أمن) و (راحهت) و بی ترسی، ئه و خه وه ﴿يَعِشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ﴾ (جماعهت) ی له ئیوه ی داگرتبوو، پرخ و هۆری خهویان بوو، له (غایهت) ی (سکینه) بی (قلب) ﴿وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ (نفس) یان له (قلق) و (إضطراب) دابوو، ئه وانی هاویشتبوه (هم)، په روشی که سیان نه بون، هه ر ته ماشای خو یان ئه کرد

﴿يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ (ظن) یان ئەبرد له (حق) (حضرت) ی (حق) به شتی
 نا (حق) ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ﴾ به (ظن) و گومانی (إسلامهتی) نه ده چوو، (عیناً)
 (ظن) ی (ایام) ی (جاهلیهت) و (كُفْر) بوو ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾
 ئە یان گووت: "ئایا ئیمه هیچمان به مسته؟" (ظاهراً) (عبارت) ی
 (مسلمان) انه یان ئە نواند، قسه که (حق) بوو، بویه ئە فه رمووئ ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ
 كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (شؤونات) ی (عباد) هه مووی بو خوایه، کهس (تدویر) و (تدبیر) ی
 تیانیه، به (کفر) و (ایمان) ناگووئ ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ له (نفس) ی خویمان
 بزری ئە کهن ﴿مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾ ئە وهی بو توئ ئاشکرا نا کهن ﴿يَقُولُونَ﴾
 له دلی خویمان (مقصد) یان ئە وهیه ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾
 ئە گهر له (شأن) ی (حرب) چ (رأی) مان هه با، یا ئە و (وعد) هی غلبه بو مؤمنه
 درابووہ ئیمه، هیچمان بو ببوایه، له دهره وهی شار نه ده کوژراین، ئیمه ئە و
 فلاکه ته مان به سهر نه ده هات، ئە وانه ئە وانه که (فکر) ی (أبیہ ابن سلول) یان
 (ترجیح) کرد بوو، ئە یان گووت: "وهك ئە و گوئی، له شاردا بماینایه وه، بویمان
 دهر نه که وتباین، ئە و (حال) ه مان به سهر نه ده هات" ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾
 له شاردا بمابانایه وه ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ ئە وانه ی (قتل) یان
 له سهر نووسرابوو، (یعنی) ئە وانه ی نووسرابوو له سه ریان بتان کوژن،
 (تظاهر) یان ئە کرد، (هجوم) یان ئە هینا سهر شار ﴿إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ ئە هاتنه سهر
 جئ ی ئە وانه ی کوژراون، (غیر) ی (أتباع) ی (منافق) ه کان، کهس قورتار
 نه ده بوو. ئە و (تدبیر) ه (لاشک) له (نفاق) ه وه بوو، ئە گهر (أهل) ی (مدینه)
 هه مووی یه ک بان ته واو، باش بوو، (أمّا لاشک) ئە و (منافق) انه، (مقالید) ی
 شاریان (تسلیم) ئە کرد، (ذاتاً) پیش هاتنی پیغه مبه ر بو (مدینه)، (ابن السلول)

(مُرشَح) بوو بُو (أمارهت)، وه هەر بُوِیه ش (إيمان) ی نه هینا، وه (دائماً) له تیكدانی ئیشی پیغه مبهری خهريك بوو، كه وابی نه چيته گویت كه پیغه مبهر (میل) ی (رأی) ی (رئیس المنافقین) ی هه بوو، چاك بوو ئه گه ره له دوره وه شكستیشی بوو، لیشتان كوژرا، زورتان ماون، وه خوا (إمتحان) تان ئه كا ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ (إختیار) ی ئه وه ی له دلتاندايه ئه ی كا، ئه وه ی له (تجربه) ده رچوو، جاریتر تووشی ئه و (نوع) ه ئیشه نابی، (ئیمه مهردی كارزارین، هه ریهك (مقابل) ی هه زار (سوارین)، (قائده) ی نیه ﴿وَلِيَمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ئه وه ی له دلتاندايه خاوینی بكا، ئه و (كلام) ه له گه ل ئه و (مسلمان) انه یه پاش (هزیمهت) ئه و خرت و پرته یان كه وته دل ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (تجربه) و (تمحیص) بو (ظهور) ه، وه (إلا) خوا ئه توانی پیغه مبهری تی بگه یه نی، (فلان) بو (شه پ) ده ست ئه دا، (فلان) ده ست نادا، (لكن مُجب) ی (قیل) و (قال) ه، ری هه یه بلین: "ئه وه (میل) و (محابا) یه له (نفس الامر) وانیه، وه (معلوم) ه (إنسان) هه رچه ند (ایمان) یشی به (قوهت) بی كه (تجربه) كار نه بی، (شه پ) ی له ده ست نایه، (حاصل) ی (مقصد) ئه وه یه: (علم) ی (مسلمان) ان، هه ر (نظري) نه بی، بیته (عملی) ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ (جمع) ی پیغه مبهری (آخر زه مان) وه جمعی (أبو سفیان)، یا هه ردوو (جمع) ی ئه وان، كه پیش و پاشی له شکریان گرت، (توحید) ی (مساعی) یان بوو، ئه و (مسلمان) انه ی پشتیان دایه دوشمن و هه لاتن، (حاشا) له بهر بی (ایمانی) نه بوو، (مسلمان) ی ته واو بوون ﴿إِنَّمَا أَسْتَلْهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ (سبب) ی (منحصر) بوو له ئه وه كه (شیطان) (زله) ی پی کردن، له جی هه لی قه نندن، به (واسطه) ی (بعض) ه شتی، كه (سابقاً) کردبوویان ئه مانه به ته واوی دوستی (مُوافق) و (مُنافق) یان لیك نه ده کرده وه، گاه- گاه گوئیان ئه دا به دنیهادان، (رأی) و (تدبیر) یان

بهراست نه زانی، بویه لهو (مقام) ه به قسهی دوژمن، نهو (شیطان) انه هه لئه له تان، له جی پاقه نان ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ به پاستی و دروستی خوا (عفو) ی کردن، چونکه (تجربه) یان دیت، (من بعد) به (فراسهت) ی (ظریف) (تفریق) ی قسهی (منافق) انه وه (خیر) خواهانه نه کهن، جاریتر تووشی نهو (نوع) ه (ذله) یه نابن ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ۱۵۵ ئیوهش قسهی سووکیان له (حق) مه کهن، (طعن) یان لی مه دهن، (خاصه) (ملا) یه وهك (طوسی) وه (سائری) (مدرسه) نوشینی، بی ئاگاه له (أحوال) ی (رُوجیه)، (غافل) له (أهوال) ی (معرکه) ی (قتال)، (أمر) و (ناهی) و (حاکم) ه له سه رکاغهز، به لکوو (حاکم) ی (علی العالم) ه، به (أوهام) و (خیال)، زوبان دریژی بکا، له (حق) نهو (نوع) ه که سانه، زور بی (معنا) یه، زور ناماقوولی یه ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهك نهو (کافر) انه بی (معرفهت) مه بن ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ له (نسب) له (دین) له (قوم) و (عشیرهت) ی خویمان ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ که به (سفر) نه چوون، له جی خویمان نه رویشتن بو جیهك، (ملا) یه کان (توجیه) ی بهو (ارض) ه نه کهن، چونکی (سه فر) یان له (ارض) بوو، (بعض) ی نه لئین: " (مقصد) له (ارض) ی (بر) نیه - که پری خویمان - به لکوو (ارض) یکه، (شامل) ی (بر) و (بحر) ه ". (أما طیاره) نه بووه، له (زهمان) ی نه وان، (حتی) له (زهمان) ی (سیدی ئالووسی) ش نه بووه، وه (إلا توجیه) یکیشیان بو (طیاره) نه دوزیه وه، (سه فر) ی زهمین و ئاوی، که (دهوره) ی داوه، له (هوا) (سه فر) ی به (طیاره) (خطر) ی زورتره ﴿أَوْ كَانُوا﴾ برایه کانیان ﴿عُزَّى﴾ (غازی) بوون له (غزه) دا بوون، دوور یا نزیك ﴿أَوْ كَانُوا عِنْدَنَا﴾ نه گهر له لای ئیمه بوونایه، نه چووبانه (سه فر) و (غزه) ﴿مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ نه دهمردن نه ده کوژران، نهو (قطع) و (حزم) ه زور (أحمق) انه یه، بلین:

"(أجل) یه که، یا هه زاره" (إعتراف) به (صانع) بکری، یا (إنکار)، (حتی) طبیعیون) ناتوانن ئه و قسه به (حزم) بکهن، (نیهایهت) (ظن) و گومانی ئه چی. ئه وانه ی (تأمین) ی (حیات) ئه کهن، له (عصر) ی ئیمه، له (حوادثات) (أمین) نین، وهک (حاجی قادر) ئه لئی:

(أمین) مه به له سبه نی، ئه وهت به سه ر دینئ

(حوادثات) ی (زه مان) ه، که نایه ته (تخمین) ی

﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ بۆ (خاطر) ی ئه و (فرض) و (تقدير) ه بکاته (حسرهت) و ئه ندۆهئ (راسخ) و رۆچوو، له دلایندا، ئه و (فرضیات) ه سه ر ئه کیشیته سه ر (عطالتهت)، (حیات) ی تال، دلئ پر له (خه ته ره) و (وسواس) (نیهایهت) ی (جنهت) ه، ئیوه خۆتان به و ماخولیا به مه خه نه (حسرهت) و ئه ندۆه و نا (پراحت) ی دل، بۆ رابردوو و شتی (واقع)، (لومه) که لکی نیه، بۆ (مستقبل) باشه، ئه وانه ی دامه وو (شطرنج) و سه رترنجانی ئه کهن، (حرکات) یان له (فروض) و (تقدير) ی (حرکات) ی یه کتره، (أركان) ی (حرب) و پیلانی له سه ر ئه و (فرض) و (تقدير) ه به، ئه وانه ی له (أغلاط) (ده رس) ی (عبرتهت) وه رئه گرن، (فرض) ئه کهن (وقفه) یه تر، (تأمل) ی لئ ئه کهن، تا تووشی (غلط) نه بن، ئه و (نوع) ه (فرض) ه به و گویره به، بۆ دامه زراندنی ئیش و کار، زۆر ورده، (غفل) ی زۆر زۆر ته وای پی ئه وئ (حدس) ی به (قوهت) ی گه ره که، (خُصوص) (مقابل) ی (داهیه) یه بی، (سیاسی) یه بی، (أستاذ) ی ئه و (علم) ه (تجارب) ه بی، (علم) ی سه ر کاغه ز (فائده) ی نیه ﴿وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ ژیاندن، مراندن کاری خوايه، له (حضر) له (سه فر) (فرق) ی نیه گه لئ که س له سه ر (سریر) ی (سلطنهت)، ناز بالیفی (استراحت) مردوو، هه زاران له (أمواج) ی (بحار) له ناو ئاگری (شه) گوله بارانی شه ست تیر، ته زره کوتانی (بؤمبا) قورتار بووین، به (سلامهتی) چوونه ته وه مائی خویان، به دیداری (أهل) و (عیال) شاد بووین.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۱۵۶) ﴿تئوہش ببنے (صاحب) (بصیرہت) قسہو (عمل)ی بی (بصیرہت)انہ مہکن، ئاگاداربن، (بصیرہت) بو دلّ وہک (بصر)ہ بو چاو بو خودا (مقصود) (علم)ہ، ئہو (اعتقاد)ی ئئوہیہ، ئہوہ لہکوی؟ ئی (کافر)ہکان لہکوی؟! ئئوہ (ایمان)تان بہرؤژی (ضرا) ہہیہ ﴿وَلَيْن قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لہ (غزا) ﴿أَوْ مُتَّمَّ﴾ یا بمرن بہ ہرجؤری بی، (نائل)ی (غفران)و (مرحمہت)ی (إلهی) ئہبن، وہ (مؤکد) و (محقق)ہ ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (۱۵۷) چاترہ لہو (مال)ہی کہ ئہوانہ (حریص)ن لہسہری، گری ئہکہنہوہ نہ خویان (خیر)ی لی ئہبینن، نہ کہس، کہوایی بکوژرین، لہرپی خوا بمرن بہو (ایمان)ہ، باکتان چہیہ؟ ﴿وَلَيْن مُتَّمَّ أَوْ قَاتِلْتُمْ﴾ بہہر (وجہ)ئ کوژران، خو کوژران (منحصر) نیہ، لہ (جہاد) ﴿لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۱۵۸) ہہرکس بہ (جہزا)ی خوی ئہگا، کہسی ئہو (ایمان) و (أمل) و (عمل)ہی نہبی (خسارہت)مہند ئہبی، (لاشک) (رسول)ی (کبریاء) لہ (وقفہ)ی (أحد) (متأثر) بوو، (میل)ی ہہبوو، (شدہت) بنوینی لہ (حق) (فراریان)، خاصہ کہماندارہکان، (لکن جناب)ی (باری)، (عالم)ی (بالاسرار)، (حکیم)ی (علی الإطلاق)، لہو (مسئلہ) (حکمت)ہکی نواند، (إدارہ)یہکی کرد، (سیاسہت) و (تدبیر)یکی بو (حضرت)ی (رسالہت) دانا، (مُخَيَّرُ الْعُقُولِ)، لایہک: دلّاری پیغہمبہری (مُحْتَرَم) کردنی، (حلم) و (صبر)ی پیدانی، لایہک: (زجر) و (توبیخ)یکی (رقيق)انہ، (مؤثر) لہ (روح) و (نفس)، لایہک (قبول)ی (توبہ) لہ (انکسار)بہ (أنكساری)ی (قلب) و (محبوبی) (تقویہ)ی دلّیان بداتی، (حاصل)ی(قلم) ناتوانی (شرح)و(إيضاح)ی بکا، ئہوہی (صاحب)(ذوق) بی (درك)ی ئہکا، (حتی لازم)ہ، ئہو (وقفہ)یہ لہگہل ئہو (ایہت)ہی کہ خوا ناردی بو (رسول)، بہ (تدقيق) و (تحقيق) بکریتہ (کتیب)ئ (لطیف)، لہ (مکاتب)ی (حربیہ) بخویندری، زیاتر قوماندانان (حفظ) و (ضبط)ی بکن، تا

له (زمان)ی (ہزیمت) بہ کاریان بی، بتوانن (ترتیب)ی نویّ وہ (تشکیل)ی بہ
 (قوّت) له (مُنہزم) ان بکہن، تہ ماشاکہ بہ (وجہ)ی (تفریع) له (ما سبق) چی
 ئہ فہرموی؟ ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ﴾ وہ (إِلَّا) دلت له (حق)یان زور رہق
 بوو، رقت لیّ یان ہلّسابوو، بہو (رہ حمہت) و (عظیمہ) له (طرف) خوای، بوّ
 ئہ وان نہرم بووی، بوّمان (بیان) کردی، رق خواردنہ وہ، (عفو)ی (صاحب
 زول)ان، چ (إحسان)یکی ہہیہ؟! توو (رئیس)ی (أهل)ی (تقوی)ی، له ہہموو
 کہس زیاتر، (حظ) له (إحسان) ئہ کہی، ئہ وہی (موجب)ی (محبّت)ی
 (إلهی)یہ (سبق)ی بوّ ئہ کہی، وہ له (سائری) (ایات)ی تر، خوا (تسلّی)ی دای،
 (مُتسلّی) بووی ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا﴾ ئہ گہر (سَيءُ الخُلُقِ) و قسہ زور ناخوش و
 (کلام) ہیشک بای ﴿غَلِيظًا الْقَلْبِ﴾ دلّ ئہ ستوور و پرق، بیّ (رقہت) و
 (مرحمہت) بای ﴿لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ بلاو ئہ بوونہ وہ له (دہورت) نہ دہمان،
 پہراگہندہ ئہ بوون، ئہ وانیش (خسارہت) مہند ئہ بوون، (رسالہت) و (نُبُوّہت) و
 (سعی) چند سالّت بہ خوڑایی ئہ چوو ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ له ئہ وہی کردیان له
 (حق) توو، (مُخالفہ)یان کرد، (موقع)یان بہ جیّ ہیشت، بانگت ئہ کردن،
 (جواب)یان نہ بوو، (حاصل)ی له (حقوق)ی خوت بیان بہ خشہ ﴿وَأَسْتَغْفِرُ
 لَهُمْ﴾ له (حقوق)ی خوای (طلب)ی لیّ خوش بوونیان بوّ بکہ، تکاکار بہ له
 (خدمت) خوداوندی (عالم) ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ له (شؤونات)ی (عامہ)
 (مُشاورہ)یان لہ گہلّ بکہ، پاش ئہ و (وقفہ)یہ (دہرس)یان و ہرگرتووہ، ئہ گہر
 ئہ مجارہش (فشل)یان بوو، (لیاقت)ی (مُشاورہ)یان نیہ، پاش (مُشاورہ) و
 (مُداولہ)ی (أفکار)، وہک (کمال)ی تورکی ئہ لی: "له لیکندانی افکاری بارقہ،
 حق سقہت دہرئہ چی". کہ (قرار) درا بہ (إجماع) یا بہ (أکثریہت)ی (ساحقہ)،
 تووش (إمضا)ی بکہ، (جزم)ی بہ سہردا بیئہ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ دلت

بدہ خوا، (إظهاری) (عجز) بکہ، (عالم الاسرار) ہر ئوہ، (بشر) ہرکہسی بی، (إحاطہ) بہہموو شت نادا، نابی بہ (رأی) خوّم (مغرور) بی، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ ﴿۱۵۹﴾ چونکی تی گہیشتون (درجہ) ی (فکر) و ہوشی خویمان ئہزانن، (حقیقت) ی (توکل) یش ئہزانن بہ (خہیالات) و (أمنیہ) ی (بطل) و بہتالان، لییان ناگورپی، ئوہی (عائد) ی خویمانہ، (إکمال) ی ئہکن، لہ ئوہی (علم) یان پی نیہ، (إعتماد) ئہخہنہ سہر خوا، (إلہام) ی، (وحی) ی، (فراست) ی، (زیاد) کرم بکا (نواقص) ی ئہگہر ہہبی، (إکمال) ی بکا، وہک (فلاح) ہہموو (قوہت) ی خوٰی (صرف) ئہکا، لہ کشت و کیل، وہ (توکل) ئہکا، لہسہر (کرم) ی خوا، بو باران و شین کردن و بی (افاتی) و (حفظ) لہ سووتان، وہ سہپان بہدہست کہوتن - کہ (الآن) زور سہخلہتین بو سہپان - نہ (ملائکہ)، نہ جنوکہ، نہ (شیخ) ہفہندی، نہ (قطب) ی (عالم) کہس بہ فہریادمان نایہت.

﴿إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ ئہگہر (نصرہت) تان بدا خوای (تعالی)، کہس نیہ دہسہلاتی بہسہر ئیوہدا بی، بتان شکینی، (إشارہ) بو پی نیہ بوونی (غلبہ) (علیکم) نافہرموی، (کأنہ) ئہفہرموی: "کہس لہ (مقابلہ) تان نیہ، با بہ (قوہت) و (قدرت) یش بن" ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ﴾ ئہگہر یاردہمیتان نہدا ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾؟ کی ہہیہ، (نصرہت) تان بدا، (غالب) تان بکا؟ لہ پاش یاریدہ نہکردنی خوا! (منافق) ہکان؟ (رؤسا) ی (قریش)؟ (إسرائیلی)؟ (حاشا، ئم حاشا) کہوابی بہ (غیر) ی ریککہوتن و (إتحاد) و (سعی) بو (تلاقی) چ چارہتان نیہ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿۱۶۰﴾ کہسی ترتان نہماوہ، خویمان و خوایمان بہس، خوٰزی (متعزلی) و (اشاعرہ) و (صوفیہ)، لہ (تدبیر) و (سیاسہت) ی (قران) (فکری) بان، ئہوجا ئہمانزانی (خلاف) ئہکن، یا ئہوانیش (إتحاد) ئہکن؟ لہسہر

(فاسق)انی (تۆبە)نەکەر (شەپ) لەگەڵ یەك ئەکەن، یا (شەپ) لەگەڵ دوژمنی (دین) ئەکەن؟ بەبێ (اسباب) و (عدد) و (عدد) و (إتفاق)، ئەتوانن پوو لە (مەیدان)ی (حرب) بکەن؟

(محلّی (عفو)، (محلّی (جزا)، (محلّی (لینەت) وه (محلّی (شدەت) لە یەك جودان، خوداو پیغەمبەر چاکی (تفریق) ئەکەن، ئەهی (مسلمان)انی (عفو)کراوینە، (أمان) سەد (أمان) (خیال)ی (فاسد) لە (حق) (رسول)ی (أعظم) نەکەن، ئەو (عفو)ه (حمل) نەکەنە سەر (سیاسەت)ی درۆزنانی

(حقوق)انی بەدنیهادان، بەراستی و دروستی بزانی **﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾** نەك هەر (حضرت)ی (محمد) (صلی الله علیه وسلم)، هیچ (نبی)، (فضل) لە (رسول)

﴿أَنْ يَغْلِبَ﴾ (غش) و (خیانەت)ی هەبی، (عفو)ی (رسالەت) پەنا، (عن صمیم القلب)ه، بەتەواوی یە، دلی پاکە لە (حق) ئیو، وه (حاشا) ئەگەر (خیانەت)

لە (غنیمەت) بکا **﴿وَمَنْ يَغْلِبْ﴾** هەرکەسی بی **﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾** لەگەڵ (غش) و (خیانەت)ی خۆی دی، روژی (جزا) **﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا**

كَسَبَتْ﴾ هەرکەس (جزا)ی (أثر)ی (غش)ی خۆی ئەبینی، (وكذا، سائر)ه

(أعمال)ی (كسبیه) **﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾** (١٦١) گوناھکاریش بەتەواوی (جزا)ی

(سینات)ی خۆی ئەبینی، موژدە ی لّی بی (غدر)ی لّی ناکری **﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ**

اللَّهِ﴾ ئەو کەسە ی لە هەموو کات و کاری (رضا)ی خوای بوی **﴿كَمْ بَاءَ**

بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ﴾؟ وهك ئەو کەسە یه، کە ئەو هی خوا پی ی ناخۆشە بیکا،

خۆی بکاتە (مستحق)ی (کرهان)دن لە (طرف) خوای؟ کەوا بی پیغەمبەر(صلی

الله علیه وسلم) چۆن (غلول) ئەکا؟ (مؤمن) چۆن دادەنیشی، وه (رسول)ی

(أكرم) (صلی الله علیه وسلم) بچی بو (حرب)؟ (زله)یەکی لّی (صادر) بوو،

چۆن (تۆبە) ناکا، وه بەتەواوی (إصلاح) نابی؟ (قابل)ه؟! خیر **﴿وَمَا وَنَهُ﴾**

﴿جَهَنَّمَ﴾ کہسی لہ گہل (سُخَط) و (غضب) ی خوا بگہریتہ وہ، بؤ کوئی تہ پروا؟
 (أَنَّهُ) تہ وانہ ٹاگرن، تہ بی بچنہ (مخزن) ی ٹاگر، ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (مکان) ی
 ناخوش، یا گہرانہ وہ ناخوش ﴿هُم﴾ تہ وانہ ی (تابع) ی (رضوان) ی خوان
 ﴿دَرَجَاتٍ﴾ (صاحب) ی پایہ پایہ ی (مقامات) ی بلند بلند، یا خویان بہ
 (إِعتبار) ی أنواعی (طاعات) بہ (زید) ہ (إِخْلَاص) (فرق) یان ہ یہ، (بالمقابلہ)
 تہ وانی (مقابل) ن (درکات) ن، نہ ویت، تہ وانیش نہوی و نہ ویتریان ہ یہ ﴿عِنْدَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (۱۱۳) بؤیہ تہ توانی (إِمتیان) یان بکا، ہر کہس
 (مرتبہ) ی خوی، ہر کہس (ماوی) و (مرجع) ی خوی ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ (بالفعل)
 (مَنّت) و (إِحسان) ی خوی ہاتہ جی ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ تہ گہرچی تہ و (مَنّت) ہ
 (عُظْمَى) یہ لہ سہر ہموو (عالم) ہ، (أما مؤمن فائده) یان لی دیت ﴿إِذْ بَعَثَ
 فِيهِمْ﴾ تہ گہر (تخصیص) بکری بہ (مؤمن) ی (عرہب)، لیترہ باسی نیہ، زیترہ
 تہ و (وہقت) ہ، (إسلامیہت) (إنتشار) ی نہ کردبوو، (حتی) لہ (بین) ی تہ وان
 (فضل) لہ (سائر) ی (أقوام) ﴿رَسُولًا﴾ (أما) چ (رسول)؟ (رسول) ی (عظیم
 القدر)، (جلیل الثَّان) (عالی ہمت)، پاک (فطرہت)، نہرم و (حلیم)، زوبان
 شیرن، دل بہ (رقت) ﴿مَنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ تہ وہ (آیہت) یکہ (فوق) ی (کُلّ) ی (آیہت) ہ،
 بہ (خاطر) و (خیال) ی کہس دانہ دہات، (أَنَّهُ) تازہ تہ و پیغہ مبرہ ناردراوہ،
 وہ (ایمان) یان پی ہیناوہ ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (أکوانی) و (قرانی)
 ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ (بالفعل) پاکیان تہ کاتہ وہ، پاکی کردنہ وہ بؤیہ پیسی
 ہہ ٹاگرن، تہ گہر (عارض) ی بوو، (إزالہ) ی تہ کہن، بہ (صابون) ی (توبہ) و
 (ندامہت)، تہ ی شوون، تہ و چلکہ لائہ بہن ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾

وَالْحِكْمَةَ ﴿﴾ بہ (دائمی) لہ ہر (مواطنی) بہ گویرہی زہمین و (زہمان) (علم) و (حکمت) یان ئەداتی، لہ (تہذیب)ی (أخلاق) و (تدبیر)ی (منزل)، لہ سیاست (خاصة)، (فَنِّ)ی (حرب)، (تنظیم)ی لہ شکرى (مُتَّحِد) لہ پہراگہ نده کان ﴿وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿۱۶۴﴾ بہ (نوع)ی لہ گومپاہی پوچوو بوون، کہ (ظاہراً) (قابل) نہ بوو (قبول)ی ئەو (تربیہ)یہ بکہن، نابینن تا (راسخ)ترن، درہنگتر (ایمان) ئەہینن (زہحمہت) پاک ئەبنہوہ، (حال)اش (سواد)ی (أعظم)یان (إِيا) ئەکا لہ نہبینی وہک کوران، بہجاری رۆچووین، (أصلاً) وەری ناگرن، (تعلّم) ناگرن، لہ گومپاہیدا ئەمرن، لہسەر ئەو (ایمان) و (تعلّم) ہ ﴿أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً﴾ ﴿﴾ ئایا لہو (حین)ہی کہ (بلا)یہکتان تووش بوو ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا﴾ ﴿﴾ (سابقاً) (نائلی)ی دووچہندانہگی ئەو (مُصِيبَت)ہ بوون بہ (بدر)، بہ سہرکہوتن و تالانتان گرت ﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾؟ گوتتان: " ئەوہ لہ کوئی؟ لہچی بوو، تووشمان ہات؟ " لہ (زمان)ی (قلّہت) و (ذللّہت) بہ سہرکہوتین، لہ (زمان)ی (كُثْرَت) و (عزّہت) بہ بن کہوتین، ئایا ئیوہ (سبب)ی ئەوہ نازانن؟ بہ خوا ئەیزانن، خوٲانی لى (غلط) ئەکہن ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿﴾ (احوال)ی (رُوحیہ)ی خوٲان، خوٲان چاتری ئەزانن، لہ (بدر) (مُتَّحِدُ الْفِکْر) و (قوّهت) بوون، بہ سہرکہوتن، (ولو) بہ (عَدَد) کہم بوون، لیږہ (مُخْتَلَف) بوون، وہ لہ (إِعْتِقَاد) کہمی (خلل)تان ہیئا، بہ ئەوہ (نوعاً ما) (إِغْتِرَار)ہکتان بو پەیا بووبوو، (رسول) ناکوژری، بہ لکو نامری، لہ شکرک (صاحب)ی (وحی) تیابی، ناشکی، (قوم)یک بہ (ملائکەت)ان (إمداد) درابن، (إمداد) ئەدرین ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿۱۶۵﴾ ﴿﴾ (قدرہت) و (قوّهت)ی ئەو (مُنْحَصِر) نیہ، (شامل)ہ، تہنہا بو (قوم)یک نیہ، بہ (ایمان) و (کُفْر) (تَقْيِيد) ناگری، (عموم)ی (قدرہت)ی (الہی) بکہنہ چرای (ہدایہت)، مہی کہنہ (باعث)ی (کفر) و (ضلال) و (کسالہت) و (جہالہت)، کہسی

(ایمان)ی بهراستی هه بی، به خودایه (قدیر) ، ئه بی خوی بکا به (صاحب)ی (قدرت) و (مکنهت)، نهک وهک گاپه رستان (عاجز) و (رهذیل)، (حق) وایه، (تفاوت)ی (عبد) به (تفاوت)ی (معبود) بی، بوتپه رست که له بهرد به ره ژیر بی، خواپه رست ئه بی له هه موو کهس به ره ژور بی، به لاف و گه زاف نا، به (فعل) به (صفهت) به (صنعهت)، به (علم) خوی بکا، به ئاوینهی (صفهت)ی (باری) ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ فَيَاذَنِ اللَّهِ﴾ به (إرادة) و (رضا)ی خوا بوو، بۆ (تجربه) و (إمتحان) بوو، قال بوونه وه ﴿وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ته واو ئاشکرا بین ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ (ایمان)ه (مُزخرفه) که یان به ده ریکه وی، تیکه لاو نه بن، له گه ل (مؤمن)ی (صادق)، بویه (لِیَعْلَمَ) هی هینایه وه، وه به (إسم)ی (فاعل)ی (أدی) نه کردن، تا بویان له یهک (زه مان) به (ألفظ) و (عبارت) ده ریکه وی ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ که دوژمن هاتن - (قبیل الحرب) - پییان گوترا ﴿تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا﴾ (قاعده)ی (حرب)ه، ئه بی له شکر دوو (قسم) بی، یه کیك (بالفعل) (شه پ) بکا، یه کیك (قُوَّةُ الظَّهْرِ) بی، (لدى) الايجاب) ئه ویش (تعرض) ئه کا، یاخود (حرب) دوو (نوع)ه: (عسکر) یا (مُتَعَرِّض)ه یا (مُدافع)ه، (حرب) (کر) و (فر)ه، (الان، مهاجم)ه دوژمن (مُدافع)ه، نهختی تر ئه گوری، (مُدافع) ئه بی به (مُتَعَرِّض)، (مُتَعَرِّض) ئه بی به (مُدافع) ئیوه یه کیکیان (إختیار) بکه ن.

﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا﴾ ئه گه ر به هه ر (نوع)ی (أصول)ی (شه پ) مان زانیبا ﴿لَا تَتَّبِعَنَّكُمْ﴾ دواى ئیوه ئه که وتین، یا (مُتَعَرِّض) ئه بووین، یا (مُدافع) ﴿هُم﴾ ئه و (جواب) ده رانه ﴿لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ بۆ (کفر)ی نه زیکتر بوون، له خویان بۆ (ایمان) که وایی (میل)ی (کافر)ه کانیاان به (شدهت) تر بوو، له (میل)یان بۆ لای (أهل)ی (ایمان)، (طبعاً) ئومیدیاان به (کافر)ه کان هه بوو، له گه لیان ریك بکه ون، (أمارهت)یان چه نگ که وی، یاخود

(مُجِيب) ھکان لہ (کُفْر) ٔ نہ زیکتر بوون، لہ (سائل) ھکان لہ (إيمان)، چونکہ
 (سائل) ھکان (مُتَّصِل) بوون بہ (إيمان) (بین) یان نہ بوو، کہ وابی ٔ ھوانہ (عریق)
 بوون لہ (کُفْر)، بویہ ٔ ھو رُوژہ، پھردهی (نفاق) یان دراند، (ما فی الضمیر) یان
 دھرکہوت ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (أما) ٔ ھوہ خُوپای یہ، ٔ ھو
 رُوژہ دراندیانن لہو (جواب) ھش ٔ ھگرچی (مُنافقی) ٔ ھکن، (شہر) یش ٔ ھزانن،
 (مُتابعہ) شتان ناکن، ھر بہ زویان ٔ ھلین (مُوافق) ی (حق) و (حقیقہت) نیہ
 ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ (۱۱۷) ٔ ٔ ھوہ شتیک ٔ ھزانن، (أما) خوا زیتر ٔ ھزانی،
 ٔ ھزانی ٔ ھگر بویان بخونجاہا، (إلتحاق) ی دوشمنیان ٔ ھکرد، ٔ ھبوونہ (مُحارب)
 لہ گہل ٔ ٔ ھوہ ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ ٔ ھوانہ ی ووتیان لہ (حق) خزمانی خویان،
 کہ لہ (خدمت) پیغہمبہر (صلی اللہ علیہ وسلم) چووبوونہ دہری، بو (شہر)
 ﴿وَقَعَدُوا﴾ ٔ ھوان دانیشتن، نہ چوون ﴿تَوَاطَا عُونًا﴾ ٔ ھگر ٔ ھو برایانہ
 (إطاعة) ی ٔ ھمہ یان کردبایہ، دانیشتبان، نہ چووبان بو (حرب) ﴿مَا قُتِلُوا﴾
 نہدہ کوژران ﴿قُلْ﴾ (علی تقدیر التسلیم) ﴿فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾
 (دفع) ی مردن لہ (نفس) ی خوتان بکن ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۱۱۸) ٔ ھوا لہ
 (قتل) (نجات) بوو، خو لہ مردن (نجات) نابی، بہو (ذلت) ھ نہ کوژران، قورتار
 بوون، لای پیایوی بہ (غیرہت) لہ مردن ناخوشرہ، ٔ ھو چہند رُوژی (حیات) ھ با
 بپوا لہ رپی (شرف)، کہ وابی ٔ ھو قسانہش لہ سووی (نفاق) ھوہ ٔ ھکن، تا
 خوتان بہ (مُدبّر) بی (صائب النظر) بنوینن، تا خہلکی بہ (تجربہ) دیدہ تان
 بزانی چاکتر (وثوق) تان پی بکا، ٔ ھوجا (مسلمان) یش زیاتر لہ بال یہک بہیننہ
 دہر ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ و (حساب) مہکہ، ٔ ھوانہ ی لہ
 ری ی خودا کوژران، مردوون، ژینی راستی بو ٔ ھوانہ، ٔ ھوانہ ی (عمر) بہ حیزی
 پائہ بویرن، بہ (حقت) مردی ٔ ھوانن ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (۱۱۹) و تئ

مہ گن، بہ لکھو ئہ وانہ زندوون، لای خوی خویان، (حیات)ی بہ (شُبہ) ہ وہ ک (تعارف) دا ئہ لَین: (فلان) کہ س مردوہ یہ کئی شارہ زا ئہ لَی: نا، (بل حیُّ یُرزَقُ) (إِشارہ) بُو (صَحَّت) و (عافیہت)، وہ ئہ و (رزق) ہی ئہ یاندریٹی، ہہر خوا ئہ زانی چہیہ؟ ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (کیف) خوش بہ و (شہادہت) ہ، کہ خوا لہ (فضل)ی خوی پیئی (کرم) کردن، کوژرانی بہ (قُصور) نہ بوو، لہ (أدا)ی (خدمت) بوو، بہ خورایی نہ چوو، بوہ (باعث)ی (حیات)ی (أُمَّت) ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ (کیف) خوشن بہ (بَقا)ی ئہ وانہی مانہ وہ، نہ گہ یشتنہ ئہ وان بہ کوژران، بہ (کمال)ی (عزّ) و (شرف) ئہ زینہ ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿۱۷۰﴾ لہ دوژمن ترسیان لہ سہر نیہ لہ بہر (فوات)ی (أمل)، (حزین) و غمناک ببن ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ خویان و خوا ئہ زانن چہیہ؟ ﴿وَفَضْلٍ﴾ زیدہیی، کہ (تقدیر) نا کرئی لہ (حُسبان) دانہ بوو ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿۱۷۱﴾ (فرق)ی مامی پیغہ مبهر (صلی اللہ علیہ وسلم) و (أجنبي) نیہ، تہ ماشای (ایمان) و (عمل)ی چاکہ ئہ کا. خوی (تعالی) (أجر)ی ئہ و (ایمان) دارانہ بہ خوریا نادا ﴿الَّذِينَ﴾ ئہ و (مؤمن) انہی ئہ وتو، کہ ﴿أَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (أمر)ی خواو پیغہ مبهریان (قبول) کرد، بہ دلّ و گیان ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ (ابو سفیان) لہ (وہقت)ی گہ رانہ وہ لہ (حرب)ی (أحد) بانگی کرد: "یا مُحَمَّد" (صلی اللہ علیہ وسلم) (میعاد) مان (موسم)ی (بدر) بیّ لہ سالی (آتی) ئہ گہر (حظ) ئہ کہی، پیغہ مبهر (قبول)ی کرد، پیغہ مبهر (صلی اللہ علیہ وسلم) لہ (میعاد) (تشریف)ی چووہ دہر، لہ (مدینہ) بُو (موعد)، تا گہ یشتہ (حمراء الأسد) کہ ہہشت (میل) دوورہ لہ (مدینہ)، (معبد)ی (خُزاعی) ہیشتا (ایمان)ی نہ ہینا بوو، (أما) (خُزاعہ) (مُسلم) و (غیر)ی (مُسلم) یان لہ گہل پیغہ مبهر (صلی

اللہ علیہ وسلم) (خالص) بوون، لہو (وہقت) ہ بہ لای پیغہمبہردا(صلی اللہ علیہ وسلم) تیپہری، (عرض) ی کرد: " (واللہ) زورمان پیئاخوش بوو، ئہو (مُصیبہت) ہ کہ تووشی یارانئ توو بوو، وہ زور خوش (حال) بووین، لہسہر (سلامہتی) توو " رویی بو لای (مکہ)، لہ (موقع) ی کہ پیئ ئہلین (روحاء) تووشی (ابوسفیان) بوو، بہو (فکر) ہ کہ ئہ مجارہ بہ جاری (مسلمان) ان بیرنہوہ، (أبوسفیان) (خبر) ی پرسئ لہ (معبد)، گووتئ: " (محمد) و یارانئ (جماعت) ی ئہوہندہ زورن، کہ (مثل) ی ئہوہم نہدیتوہ، ہاتوونہ دہر، لہ (مدینہ) لہ (حق) ئیوہ، ئہوہندہ بہرقن، چی وام نہدیوہ! " (خلاصہ) لہ قسہئ (معبد) (أبوسفیان) و لہشکری ترسیان لہ (قلب) ی نیشئت، جلہویان باداوہ لای (مکہ)، چہند سواریک لہ (عشیرہت) ی (عبدالقیس)، بو لای (مدینہ) ئہہاتن، بہ لای (أبوسفیان) تیپہرین، ووتئ: "ئہچنہ کوئ؟" ووتیان: " (مدینہ) " ووتئ: "بوچی؟" ووتیان: "بو (زاد) ووتئ: "کہ چوونہ (مدینہ)، (خبر) بدہنہ (محمد) و یارانئ، وہ بہہاتنی ئیمہ و (کثرہت) ی لہشکر، بیان ترسیئن " ئہوانیش ہاتن، گہ لئ ترسیان پیدان، (اصلاً تأثیر) ی لئ نہکردن، لہ (خدمت) پیغہمبہر(صلی اللہ علیہ وسلم) چوون بو(مَوعِد)، لہ پاش ئہو برین و شکستہئ لہ (أحد) کہ بہسہریان ہاتبوو ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۷۲ ﴿ بؤ ئہو کہسانہئ چاکہیان کردوہ، لہ ئہوان، وہ (تقوی) ی خویان کردوہ، (أجر) یکی گہورہئ ہہیہ، ئہوانیش کئین؟ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴿لَٰمَنَٰش (روایہت) (مُختلفہ)، (تعین) (لازم) نیہ ﴿إِنَّ النَّاسَ ﴿ (قریش) گہ لئ لہ (قبائل) ی (عرب) ﴿قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ ﴿ گردبووینہوہ بو (شہر) لہ گہ لئ ئیوہ ﴿فَأَخَشَوْهُمْ ﴿ لئ یان بترسن، مہچنہدہر، لہ دہرہوہئ (مدینہ) شکان، ئہ مجارہ دور برؤن (محو) ئہبنہوہ، چہند (وسوسہ) یان دان، گوئ یان نہدانئ ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴿ قسہئ ئہوانہ (ایمان) ی (مسلمان) ہکانئ بہ (قوہت) تر کرد

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ ئہیان فہرموو: "خوا (کافی)یہ بو ئیوہ ﴿و﴾ ئہیان
 ووت: ﴿وَيَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (۱۷۳) (اَنہ) جیاوہز جیاوہز ئہو (کلام)ہیان
 ئہفہرموو: (حسبنا الله)، (نعم الوكيل)، یاخود (مجموع)ی (حسبنا الله ونعم
 الوكيل)یان ئہفہرموو، کہ (واو)ی سہر (ونعم)ہ لہ (کلام)ی ئہواندا بی، ئیش و
 کاری خوْمان (تفویض) ئہو کردوہ، (زام)ی (إدارة)مان لہ دەست ئہوہ
 (اعتماد) و (توکل)مان بہ (لطف) و (وعد)ی ئہوہ، ئہویش (وکیل)یکئی
 (غایت)چاکہ، (أصلاً) درئیغی (عنايت) لہ ئیمہ ناکا، ئہوی چاکہ، بوْمان ئہکا،
 پیْمان ئہکا. ئہو (مسلمان)ہ (متوکل)انہ، بہ (کمال)ی (شوق) و (شطارهت) لہ
 (خدمت) (حضرت)ی (رسالت) چوونہدہر، (ابوسفیان) لہ ترسان گہرایہوہ
 ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ (مسلمان)ہکان ﴿بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ لہ گہل (نعمت)ی زور گہورہ
 ﴿وَفَضِّل﴾ قازانج، لہ (تجارهت) و (معامله) کہ لہ ری یہ چہنگیان کہوت،
 بہ لام (تفسیر)ی (نعمت) بہ (سلامتی) (فضل) بہ ناوی (شرف) یا (کرم)ی
 (إلهی) گہ لی (مناسب) ترہ ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ﴾ ہیچ شتی خراپیان تووش
 نہ بوو ﴿وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ (مقصود)یان (صرف) (رضا)ی خودا بوو ﴿وَاللَّهُ
 ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ (۱۷۴) لہ (فضل)ی بی پایانی خوداوندی (عظیم الشان)
 ئہخوازین کہ (مسلمان)ان لہ پاش ئہو (حرج) و شکستہی کہ چہند سالہ
 بہسہریاندا ہاتوہ وہ دادیت، دەست لہ (شقاق) و (خلاف)ی خوْیان ہل
 بگرن، وا (فرض) بکہن ئہمرو (أحكام) لہ (صاحب)ی (دین) و ہرئہگرن،
 (نائل)ی (عفو)ی خودا بووین. پیغہمبہر (صرف)ی (نظر)ی لی کردین،
 ئہوانیش یہک (فکر) و یہک (قووت) (جمعیت)ی (مُتَّحِد)ی وا، بہقسہی
 (مُفسد)ان ناگورین، روو لہ (رؤسا)ی (فساد) و ہرئہگپرن، (بَقِيَّة)ی (ملہت) و
 (وطن) (حفظ) ئہکہن، بو (إعاده)ی (مجد) و (شرف) تی ئہکوْشن، (نائل)ی
 (نعمت)ی (إلهی) وہ (فضل)ی نا (مُتناهی) ئہبن ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ﴾ (خطاب)ہ

لہ گہل ٺہو (مسلمان) انہی کہ لہ قسہی (وفد)ی (عبدی قیس)ی ترسیان لی
 پہیا بوو بوو. لہ گہل ٺہوانہ نیہ، کہ (ایمان)یان پی (زیاد) بوو، ٺہو
 (القائت)ہی کہ کردیان ﴿الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ (شیطان)، (ابلیس) بہ
 (تبلیس) و (تزویر)ی (شاعر)انہ (أولیا)ی خوئی ٺہ ترسیئی، (خاصۃ) بہ ناوی
 (دین) بیئہ پیش، پیشی ھموو کہس (ملا) و (شیخ)ان ھل ٺہ خہ لہ تیئ،
 ٺہ گہر خوانہ خواستا ٺیوہ ھموو چوون، کی ٺہو (دین)ہ (حفظ) ٺہ کا؟ ٺہو
 (ہدایہت) و (إرشاد)ہ ھمووی بہ (هدر) ٺہ چی، ٺہوانیش بہ دل (إعتماد)ی
 ٺہ دہنہ سہر، بہ لکو بہ (إلھام) و (وحی) (إلھی) تی ٺہ گہن ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ لہو
 خہ لکہ مہ ترسن، گوئی مہ دہنہ (تسویلات)ی (ابلیس) ﴿وَخَافُونَ﴾ خوا
 ٺہ فرموی: "لہ من بترسن، لیك و ریك و پیک بن، (أوامر)ی من بہ چی بہینن"،
 ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۱۷۵) بہ راستی و دروستی و بی (غل) و (غش) ﴿وَلَا يَحْزَنكَ﴾
 ﴿الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ با (عاجز)ت نہ کا، ٺہوانہی لہ ناو (کفر) و (ضلال)،
 (سعی) و پیشرہوی ٺہ کهن. بو (کفر)، بو تیکدانی ئیش و کارت، بو
 وەرگیڑانہوی (مسلمان)ان، بو (منع)ی (عالم) لہ (ایمان)، (لاشک) ٺہوانہ
 (أبالیس)ہی (أهل)ی (کتاب)ن، (مہرہد)ہی (شیاطین الإنس)ن (تسویلات)ی
 (مُنافق)انی (عہرہب)، (شدہت)ی (بُغض)ی (قُریش) و (سائر)ی (عشائر) و
 (قَبائل)، لہ (طُرف) ٺہوانہیہ، کہ وابی (فی) لہ چیی خوئیہ تی بہ (معنی) (إلی)
 نیہ، (حقاً) بہ چییہ، پیغہ مہر (صلی اللہ علیہ وسلم) لہ دہستیان (عاجز) بی،
 وہ خواش (نہی) بفرموی ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ ٺہوانہ ہیچ، (أبداً)
 (ضرر) بہ خوا ناگہیہنن، (أنتُ سعی) ٺہوان، لہ (ضرر)دان بہ ئیوہ (سعی)یہ لہ
 (ضرر)دان بہ خوا ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ (إرادہ)ی خوا
 وایہ، ہیچ (نصیب)یان نہ داتی لہ (قیامت) بویہ (إمھال)یان ٺہ کا، وہ ٺہ وھایان
 لہ دوا ٺہ دا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۷۶) (مأیوس)ن لہ (رحمہت)ی خوا، بہ لام لہ

(عذاب) و (عقاب)ی خوای، به شهکی زور گه وره یان بۆ ههیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا
الْكَفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ له جیاتی (ایمان) (کفر)یان (إختیار) کردیه، یا ئه وانه ی
(مسارع)ی (إلى الكفرن) ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ (أبدأ) ههچ (ضرر) به خوا
ناگه یه نن، ئه مانه ی پیشوو که (ضرر) نه گه یه نن، ئه مانه ههچ بۆیه (حاجت) به
(تأکید)ی (عبارت)ی پیشوو نیه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۱۷۷) به ئیشه، (أما)
(عذاب)ی ئه مانه له (عظمت)دا ناگاته (عذاب)ی (أنمه)کانیان ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (مُسارع) و (غیر)ی (مُسارع) ﴿إِنَّمَا نَمَلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ﴾ و اتی
نه گن، ئه وه ی ئیمه بۆیان ئه نووسین له (طول)ی (عمر) و (إمهال)یان له
(كُفر)، چاکه یا چاتره، بۆ (ذات)ی ئه وان، یا (روح)ی ئه وان، زور خراپه،
(نفس) (ترکیه) ناکه ن، (غافل) و (مغرور) ئه بن، (إقدام) له سه ر گوناها ن زیاتر
ئه که ن ﴿إِنَّمَا نَمَلِي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِثْمًا﴾ (طول)ی (حیات)یان ئه ده ینی، بی
(به لا)، به س (خاطر) ئه وه ی گوناها ن (زیاد) بکه ن له گوناها ن (زیاد) بکه ن،
تا وه کو له (اخرت) (نصیب)یان نه مینی.

ئه مپۆ ئه وه له (بین)ی (مسلمان) و (غیر)ی (مسلمان) بوویته (فکره)یه ک
ئه وه ی (به لا)یه کی بیته سه ر، ئه لئین: "ئه وه خوا خوشی ناوی، خوا رقی لی
ئه بیته وه، بۆ (خاطر)ی (شیخ)ی یا قه شه یه یا (مال)ی" ئه وه ی بی دهر د و
(به لا) بزیه، قه له و بی و مل ئه ستووری، قونکه هه وجاری (مال) و (ده ولت)ی
زۆری، ئه لئین: "ئه وه خوا ئه یه وی، له به ر (خاطر)ی ئه و (ذوات)ه (مُقَدَّس)ه،
(کرم)ی له گه ل ئه کا "گه لی قه شه له و (اخر)ه ئه یان ووت: "دیاره (دین)ی ئیمه
(حق)ه، چونکی (دول)ی (ئاو روپا) که (مسیحی)ن، به سه ر (دول)ی
(مسلمان)اندا، (غالب) بووین، ئه گه ر (دین)ی (مسلمان)ان (حق) بوایه،
(مغلوب) نه ده بوون". (مع أنه) (غلبه)ی (ئاو روپایی) به (علم) بوو، نه ک
(مسیحیه تی)، ئه گه ر له سه ر (مسیحیه تی) بمانا یه وه، تا (ابد)

سه رنه ئەكهوتن، به و قسه پرپووچانه (عالم) مال و یران بووه، گونا ه سهر گونا (زیاد) ئەكهن، (أصلاً) ترسی خواو رۆژی (جزا) یان نیه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (مقابل) ی ئەو (غرور) ه بۆ وان ههیه، له (اخرهت) (عذاب) ی (رهزیل) کوننده، ئەوه بۆ (کافر) ان، (أما) بۆ ئیوه وانیه خوا (إمهال) تان ناكا، (إمتحان) تان ئەكا، به (به لا) و (مُصیبهت)، تاكوو پاك و پیس به ده ربهكهوی.

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لیتان بگه ری ﴿عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ له (کیفیات) ی (خفیه) ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ پیس جودا بکاته وه له پاك ئەوانه ی له دلدا (غل) و (غش) یان ههیه، هه لاو یرد رین، (أنه) (سائل) ی ئەلی: "عجبا" ئەوه (ممکن) نه ده بوو، که خوا ی (تعالی) بی (حرب) و (به لا) و (إمتحان) (بیان) ی بکا ئەوه به (غش) ه، ئەوه بی (غش) ه؟! (جواب) ئەفه رموی: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ ئەوه نابی، خوا ئیوه ناگادار ناكا، له سهر (ما فی الضمیر) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِۦ مَنْ يَشَاءُ﴾ كه سیك (أختیار) ئەكا، له (بین) ی (رسل) به (فكر) و (عمل)، له (تجربه) و (إمتحان)، پیس و پاکی پی لیک ئەکاته وه، تا که س قسه ی نه مینی، نه لی: "ئوه (إدعا) یه، (فرق) ی ئەم و ئەو چیه؟" ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هه موویان، بی (تفریق) ی (أعاضم) ی (رسل) وهك (جناب) ی (رسالهت) په نا ه (صلی الله علیه وسلم)، (قوم) ی خویان (إمتحان) کردووه، ساغ و چروکیان به ده رختوه، به ساغه کان - با که میش بووبن - ئیشیان پیکهاتوه ﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا﴾ ئەگه ر (ایمان) بهینن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ به (ایمان) هینان (مغرور) نه بن ﴿فَلَکُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (أما) بلین: "ئیمه (ایمان) دارین لای خوا نازدارین، به (کیف) ی خومان ئەکهین، خوا ئیشمان بۆ ئەکا". بی (شك) (خسر الدنيا والاخره ت) ئەبن ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا

﴿آتَلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ واتی مهگن، ئەوانەیی مالداران و (بخیلی) ئەکەن بەو (مال)ەیی، کە خوا لە (فضل)ی خوئی پئی داون ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ ئەو (بُخل) و (ثقیلی)یە چاکە یا چاترە، لە (إحسان) و بەخشین بۆ ئەوان، ئەوانیش (مغرور) نەبن بڵین: "خوا ئیمەیی خووش ئەوی، ئەو هەموو مالەیی داووتە ئیمە، نەیداووتە خەلکی، ئەگەر پئی خووش بوایە، ئەوانی دەولەمەند ئەکرد، (مادام) خوا پئی (کرم) نەکردینە، ئیمەش نایاندەینن" ﴿بَلْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ﴾ ئەو (مال)ەیی (إدخار)یان کردیە، (بخالەت)یان پئی کردیە، ئەگێردی بە (طوق) ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ رۆژی واپەسین، (یعنی) (وبال)ی (ما) بخلوا بە)ی یان ئەخستریتە ئەستۆ، وەک کوردی ئەلی: "ئوبالەت بە ملم" (شاعر) لە (حق) ئەوانە ئەلی:

مالی خودرا خود نەخوردی (طوق) شد زوگەردنەت

مەردەهارا زیندەکەردی، ئافەرین بەرموردەنەت

﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (میراث)ی ئاسمان و (أرض)ان ئی خوایە، نای خوئی، نای بەخشیی، چی لی ئەکەیی؟ کە کەلکت نەگرتی، لە (قامەت) بیی بە (طوق)، (حقیقە مۇوجب)ی (حسرت) و (ندامەت)ە، ئیرە جی (زەکات) نیە، ریی (جهاد)ە، وە جی (بُخل) بە (بیان)ی (أوصاف)ی (نبوی)ش نیە، (خاصە تفسیری) (فضل) بە (تورات) لە (غایەت) دووری یە ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ئەی (مسلمان)ینە ﴿خَبِيرٌ﴾ ﴿۱۸۰﴾ خوی (تعالی)ن بەوہی ئەی کەن ئاگادارە، ئیوہش ئاگاداری (حال)ی خۆتان بن، (بُخل) مەکەن، (لدى الإيجاب) لەسەر و (مال) هەپوونە دەر ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ لە (أهل)ی (کتاب) ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ کە (تکلیف)یان لی ئەکرا، بە (إنفاق)ی (فی سبیل الله) ئەوہندە (بخیل) بوون، لە (حُب)ی (مال) ئەو (نوع)ە (هذیان)انەیان ئەکرد

﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ به (تحقیق) ئه ی نووسین، له (دهفته‌ری (أعمال) یان (ثبت) ی ئه که یین ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ﴾ ئه وهش ئه نووسین، (قتل) ی (انبیا) یان (قط) به (حق) نابی، له (فرض) ی (محال) ئه گهر (مستوجب) ی (قتل) بوون، (قصاص) ئه کرین، ئه مه (عین) ی (معدلهت) ی (إلهی) یه (إغماض) له (رسول) ی خو ی ناکا ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١٨١) وه پی یان ئه لئین: "بچیژن (عذاب) ی سووته نی، بسووتین، به (مُقابل) ی (حُبّ) ی (مال)، که جهرگ وه ه ناوتانی سووتاندبوو، سه بارهت به وه (كُفْرِيَّات) تان له (حق) خوای ئه گووت، وه (انبیا) تان ئه کوشت". ﴿ذَلِكَ﴾ ئه وه (عذاب) ه ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِكُمْ﴾ به وه (أعمال) ه ی که دهستی ئیوه پیشی خستبوو، دهستی خو تان به ست، له (إنفاق) ی (خیر)، به ره لاتان کرد له (شه‌ر) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (١٨٢) وه به ئه وه ی که خودا هیچ (ظلم) له (خدمهت) کاران ناکا، ئیوهش (خدمهت) تان نه کرد، که ئه وه ی پاداش بی، وه ری بگرن، (بناءً علیه) به ته واوی (جزا) ی (لایه ق) و (موافق) ئه بینن.

(ملا) یان زور ه رایان له وه (مقام) ه هیه، ئایا بو خودا دروسته، بی گونا ه (عبد) ی خو ی (عذاب) بدا، یان نا؟ ئه وه ئه لئ: "دروسته" ئه م ئه لئ: "نابئ" ئه وه باسه، لای من زور بی (معنا) یه، ئه گهر (نظریه) ی (شیخی أشعری) (نظر) به (مقام) ی (ألوهیتهت) بی، باشه، که (دائره) ی (تصرفات) ی (کبریائی) ته نگ نه کرئ، (لکن أتباع) ی ئیش له ئیش تی ئه په رینن، وه (نظر) به (مقام) ی (تشریعی) و (ترکیه) دیاره (جوان) ی نیه ﴿الَّذِينَ﴾ ئه وان ه ی رابردوو ئه وان ه ن ﴿قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ كَاذِبًا﴾ ئه یان گووت: "خوای (تعالی) (عهد) و (میثاق) ی داوه ته ئیمه، (أمر) ی پی کردووین ﴿أَلَا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ﴾ ه هرکه سی (ده عوا) ی (رسالهت) بکا ﴿حَتَّىٰ يَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ و

(مشہور) ہ ئوہ (علامت) ی (صدق) ی (مدعی) (رسالہت) بوہ، (قوربان) ی
 ئہ کرد، ئہ گہر ئاگرئ ہاتبا، لہ ئاسمان ہلئ لووشیبا، ئہ یان ووت: "راست
 ئہ کا"، وہ (إلا) ئہ یان ووت: "درو ئہ کا"، ئوہ لہ (دین) ی (رسول) ی (خاتم)
 نیہ، (أما) ئوہ ی لہ (تورات) ی (مقدس) یان بہ دہرئہ کہ ویئ ئوہ یہ: ئہ گہر
 کہ سینک گوناہی کردبا، بو (کفارہت) (قوربان) یہ کی (تقدیم) ئہ کرد، لہ پاش
 کوژرانہ وہ، پارچہ پارچہ ئہ کرا، ئہ یان سووتاند، ئوہ ش لہ (دین) ی
 (اسلام) دانیہ، (علی کل) ئہ یان کردہ بہ ہانہ، بو (ایمان) نہ ہینان، بہ
 (حضرت) ی (محمد) (صلی اللہ علیہ وسلم)، (أما) ئوہ ش (عہد) نیہ، مہ گہر
 (دوام) ی (حکم) ی (تورات) یان لایہ پہیمان (حساب) بی ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ
 رُسُلٌ﴾ (جمع) ی، نہک یہک و دوو ﴿مَنْ قَبْلِي﴾ لہ پیش من، لہ خوتان
 ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ﴾ بہو (معجزات) و بہ ئوہ ی ئیوہ و تتان ﴿فَلِمَ
 قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ (فضل) لہ (غیمان) ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۱۸۲) ئہ گہر راست
 ئہ کہن لہ (إدعا) ی ئوہ (عہد) ہ۔
 ئہ گہر (قول) بہ (مفہود) ی (مُخَالَفَهُ) ی (حَتَّى) نہ کریئ، ئوہ (جواب) ہ
 ہلئناستی ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ سہ خلّات مہ بہ، (أهمیہت) ی مہ دہریئ ﴿فَقَدْ
 كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (حَتَّى) (بعض) ہکیان کوشتن، (أما) خوا توو (حفظ)
 ئہ کا، دہ سہ لاتیان بہ سہر توودا ناشکیئ ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ بہ
 (معجزات) ی ئاشکرا، وہ (کُتِبَ) ی (حکم) و (مواعظ) و (زواجر) ﴿وَالْكِتَابِ
 الْمُنِيرِ﴾ (۱۸۴) بہ (کتیب) ی کہ دل و (عقل) رووناک ئہ کا، (ظلمات) ی (شکوک)
 ئہ با، (تفسیر) ی بہ (قورئان) لام وہ یہ (مِنْ قَبْلِكَ) لئ ناگہریئ، ئہ گہرچی لہ
 ہموو (کُتِبَ) (خیر) ترہ، دیارہ (تکذیب) ی (رُسل) بوویتہ (عادہت) لای ئہ وانہ،
 کہ وائی توو بہ (تکذیب) یان عاجز مہ بہ، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ئوہ

(حیات) ه ئه برپیتته وه، (إنسان) چه ند بژیه، هه ر ئه مری، به (مال) (نجات) ی نابی، (مؤمن) و (کافر)، (مُکذَّب) و (مُکذَّب)، (مُصدِّق) و (مُصدِّق) یه کسانن، که س (إمتیاز) ی (فطری) نه دراوه تی، دلّ به (دُنیا) و (حُبّ) ی (مال) مه به ستن، به (حُبّ) ی (دُنیا) خو له خوا رووره ش مه که ن، زور بی (معنا) یه، وه گه لی (حُکما) خه ریک بوون، بو (إدامه) ی (حیات)، لام وه یه (مأیوس) بوون، (مُخترع) ی (شهیر) (یأس) ی دانئ ﴿وَأِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ له روژی (قیامت) (أجر) ی خو تان به ته واوی وه رئه گرن، (غدر) تان لی ناکری ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ﴾ ئه وه ی دوور ده خریتته وه له ناگری (جهنم) ﴿وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازٌ﴾ قورتار بوه، (نائل) ی (سعادته)، له (فوق) ی ئه وه، ئه وی بی له (فضل) ه ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ کووتالیکه، مالیکه، عه مباره پۆ، وه ک (ته له فون)، که (نوع) ه قوماشیکه له (نهایه) تی چرووکی، وه (غایه) ت جوانه، (مُشتری) پی ی هه لّ ئه خه له تی، ئه وه ی پی ی بدا، له قیسی ئه چی، (خساره) ت مه ند ئه و که سه یه، (ده ولت) ی پایه داری (اخره) ت بدا به و (ماله) (مُزخرف) ه، (نفس) ی (حیات) ی (دُنیا) (حقیقه) وایه، (حیات) یکه پر (تعب) و ناخوشی، نه خوشی، تال و ژال، (حَتَّى) (مُعَرِّی) ئه لی: "ئه وه ی له سه ره مرگ ئاوزینگان ئه دات، ئه وه تالایی (حیات) ه، قه ی ئه کاته وه". ده رده دیده یه کی وایه، ده رمانی مردنه، ئه وی (أحمق) نه بی، پی ی هه لناخه له تی، به (حُبّ) ی پایه ند نابی (خاصّه) ئه وانه ی لایان وایه، که (حیاه) ی (اخره) ت هه مووی خو شی و (سعادته) ه (خاصّه) ئه وانه، ئه بوایه (أصلاً) (إلتفات) به (حیات) ی (دُنیا) نه که ن، (دائماً) ئاره زوی مه رگ بکه ن، (مال) ی (دُنیا) کو نه که نه وه، ئه وه ی هه یانه، بیته خشن و بیبه خشن ﴿تَتَّبَلُّونَ﴾ ئه ی (مسلمان) یه، به ئه وه نده قورتار نابن، که له و (حرب) ه تووشتان بوو، (من بعد) یش (إختبار) ئه کرین ﴿فِي أَمْوَالِكُمْ﴾ (خساره) تان

لِئَلَّهَ كَوَيْدٍ لِّدَلِّ لَه دَوای به ردهن، بۆ پاتال (شه) مه كهن ﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾
 لیتان ئه كوژری، ئه مرن، نه خوش ئه بن، به لكوو ئه كه ونه (أسارهت) یش
 ﴿وَلْتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ گویتان لی ئه بی، له
 (طرف) ئه وانه ی (كتاب) یان دراوه تی له پیش ئیوه، (علما) ی (بنی اسرائیل)
 ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وه له ئه وانه ی (شريك) بۆخوا په یدا ده كهن له
 (عَرَب) و (غیر) ه (عَرَب) ، (تَنَوِي) و (وَتَنِي) ﴿أَذَى كَثِيرًا﴾ قسه ی
 ناخوش، (طعن) له (دین) تان، له پیغه مبهرتان له (كتاب) تان ئه دهن، (حالا)
 ئه مه (دوام) ئه كا، (مُبَشِّرِينَ) ی (مسیحی) (قصور) ناكهن - (على الإطلاق)،
 (تكرار) ی ئه و قسه چرووكانه ئه كهن، كه هزار سال پیش ئه ورو گو تراوه، وه
 (جواب) ی درایته وه، (إفترای) یان نایه ته (حساب) ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا﴾ ئه گهر
 (صبر) بکهن، له سه ر ئه و (شدائد) و (بلا) و (أذیة) ه ﴿وَتَتَّقُوا﴾ خو پاریزن له
 (کید) یان ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ﴾ ئه و بیژراوه، له (صبر) و (تقوى) ﴿مِنْ عَزْمٍ﴾
 ﴿الْأُمُورِ ۱۸۶﴾ له و کارانه یه، كه مه ردانی (عالی همّته) (قرار) ی له سه ر بدهن،
 (قرار) ی له سه ر بگرن، (أَنَّهُ) (جناب) ی (حق) (میثاق) ی وه رگرت له
 (أصحاب) ی گوزین، كه (ثابت) بن له (مُقابل) ی (شدائد) وه په ره یزکاربن،
 (إشارة) ئه كا، بۆ نه شكاندنی ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
 (ظاهر) ه له (بنی اسرائیل)، (شامل) ی ه موو (أهل) ی (كتاب) ه، له هر
 (مله) تی بی ﴿لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ﴾ ئه وه ی له (کتیب) ه كه دایه، بۆ خه لکی (بیان) ی
 بکهن ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ هیچی بزر نه كهن (عهد) یان به جی نه هینا ﴿فَبَدَّوْهُ﴾
 ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ زور نه چوو، فری یاندا پشتی خو یان، (إلتفات) یشیان
 نه کوردی، کوردی ئه لی: "هاویشته پشت گوی یان" ﴿وَأَشْرَوْا بِهِمْ مُمَّا قَلِيلًا﴾

ئوه پیشه‌ی به‌د(أصل)انه، (خاصه) که برسی بن ﴿فَيْتَسَّ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (۱۸۷) شتی پیس و خراپه، به‌ده، ئوه‌ی ئه‌ی کپن به (آیات)ی (کتاب)ی (إلهی)، ئیوه نه‌که‌ن و ابن، ئه‌و (کتیب)ه‌ی خوا ناردووویه‌تی بۆ ئیوه، (بیان)ی بکه‌ن بۆ (عالم)، هیچی مه‌شارنه‌وه، یه‌ک (حکم)ی (إلهی) به‌ه‌موو (دُنیا) مه‌فرۆشن، هه‌رچه‌ند (طعن) و (عیب) و (عار)ی تیا‌بی، بۆ ئیوه، (آیات) مه‌گۆرن، (حتی) مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى (مقصد)ی (إلهی) چیه، تی‌ی بگه‌ن، (عمل)ی پی‌ی بکه‌ن ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ (یا رسول)ی گوزین ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا﴾ و مه‌زانه ئه‌وانه‌ی (کیف) خو‌ش ئه‌بن، به‌وه‌ی پی‌ی یان (كِرْم) کراوه ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ پی‌ی یان خو‌شه، (مدح) بکری‌ن به‌شتی که نه‌یان کردوه، (بخیل) زۆری (کیف) پی‌ی دی (مدح)ی بکه‌ن، به (سخا)، (تدریس) ناکا، (کیف)ی دی بلی‌ن: "ماشاء الله شه‌وو رۆژ خه‌ریکی (ده‌رس)ه". (تحریف)ی (کلام)ی خودا ئه‌کا، زۆر خو‌شنووده بلی‌ن: "أَمِين)ی خودایه، (عماد)ی (دین)ه، (حافظ)ی (کلام)ی خواجه". ئه‌و (نوع)ه که سه له هه‌موو (ملّه)ت ان زۆرن، ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (حساب) مه‌که ئه‌وانه (نجات)یان و قورتار ببن له (عذاب)ی (معلوم) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (عذاب)ی نایه‌ته (تقریر)، ئه‌وه‌ندی نه‌بی، ناگری زۆر به‌ئیشه ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ په‌کی به (کفر)ی که س ناکه‌وی، به (ایمان)ی که س قانزاجی پی‌ی ناگا ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (غنی)یه، (عالم) (إحتیاجی) به ئه‌وه‌یه، له هیچ شت (عاجز) نیه، ئه‌توانی (عذاب)ی (الیمی) (الی الابد) به ئه‌وانه بچیژی ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ له (إيجاد)ی ئاسمان و (أرض)، (عُلویات) و (سُفلیات) ﴿وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ که له (أثر)ی (وضع)ی رۆژ و زه‌مینه، (نورانیه‌ت)ی

ئەم (کشافەت) ی ئەو ﴿لَا يَتَّبِعُ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آیات) ی (لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى) ی تیا یه، بۆ ئەوانه ی (صاحب) (عقل) بن، پووچەل نەبن، ئەوانه له (آیات) ی (عدیده) ئەزانن (خالق) ی ئەوانه، له (نهایەت) ی (غنا) و (کبریائی) و (علم) و (قدرەت) و (رأی) یه، (خصوص) کەسی ئەمپۆ، شتی له (علم) ی (طبیعەت) و (کیمیا) و (تشریح الابدان) و (فلك) بزانی، ئەزانن خوا چی (خلق) کردوه، (عجابیات) ی وای تیا یه، کە به (خیال) ی (أولین) دا نەهاتوو و ئەزانن (سەعت) ی (مُلک) ی خوای (عبارەت) نیه، له سیژده (کره) ی وه ک قەپیلکە پیازی به سەریه کدا هاتوه، وه ئەزانن (منظومە) ی (شمس) ی ئیمه، به هەموو (سیارات) و (أقمار) ی، (جُزء) ی (مُحَقَّر) ه، له (منظومات) ی (لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى) ی، (شمس) و (سیارات) و (أقمار) ی دی ﴿الَّذِينَ﴾ (ساحب) ی هوش و (فکر) ی ئەوتۆ ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ یادی خودا ئەکەن به (حضور) ی (قلب)، (ذکر) ی ئەکەن به (صفات) ی، به (أفعال) ی شوناسیان پی ی ئەبی، لی ی (غافل) نابن، له (حال) ی راوهستان، دانیشتن، سەرته نیشتن ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ چیه؟ چۆنه؟ چی تیا یه؟ (تفکر) ی تی ئەکەن به (نظر)، ئەگە نه (غور) ی، ئەزانن ئەو (صنع) ه (مُتَّقِن) و (مُحْكَم) ه به خوایه ئەکرئ، (علیم) و (قدیر) و (عزیز) و (حکیم) و (مُدبِّر) و (مُسَخِّر) بی بۆ ئەو (قوا) ی (هائله) - (بالخاصه) - ئەوه ی ئەورۆ (کشف) کرایه، (مُحِیر العُقُول) ه (أوائل) ئەیان ووت: "تافتاب سەد و شەست و شەش هەزار هەند و (کسور) ه کی (ارض) ه" (حُکما) ی (عصر) ئەلین: "یه ک ملیۆن و دووسەد و پەنجا هەزار هەندئ (ارض) ه، (گە لاویژ) سی ئەوه نده ی (أفتاب) ه". (قُوّه) ی کاره با، (رادیوم)، (أعصاب) ی (مُتفکِّر) سست ئەکا! ئە ی (ألهی) (قَوِي) و (متین) ئەوه چ (قُوّه) ه، چ (خارقه) یه؟ ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً﴾ خوداوه نندا ئەمەت به خۆپایی (خلق) نه کردوه، بی هووده و بی (فائده) نیه، (لاشک) ئەوه ی

(استفادہ) بکا لہ (خلق)ی ئاسمان و زہمین بہ (علم) و (عمل) (اہل)ی (علم)ہ
 لہ (بشر)، (حیات)ی (بشری) کہ (مبدأ)ی (علم)یہ تی (الان) (موقت)ہ، چہندی
 ئہژیہ- (نظر)- لہ (حرکات)ی (فلکیات) و (خواص)ی (بسائط) و (مرکبات)
 و (تحریر)ی (علوم) و (فنون) و (اختراع)ی (الات) و (أدوات) ئہکات- کہچی
 ئہمری وہک کہر بؤگن ئہبی، ئہپزی، ئہو (حیات)ہ ئہگر بہ (ہدر) بپروا،
 (خلق)ی (سائر)ی (موجودات) پوچہ، (لہذا ایقان) ئہکہین، ئہبی (بشر)
 تووشی (حیات)یکی (أبدی) بی، (خلق)ی (حیات) لہو (نقص)ہ (نجات) بدری
 کہ (جمادات) بہو (کمال)ہ، بی ئہبی (أحیا) (أکمل) بی، ئہزانی ئہو (خالق)ہ
 (عظیم الشان)ہ، (قابل) نیہ (عصیان) بکری، (طبیعت) بہو (طغیان)ہی کہ
 ہہیہ تی، بؤ ئہو (مُسخر)ہ، (إنسان) بہو (ضعف)ہ چون (مُسخر) نابی، کہ سیك
 لہ (جہل) و نہزانی (عصیان) بکا، شایانی (عذاب)ہ، بؤیہ ئہلین: ﴿سُبْحَانَكَ﴾
 (ألہی) تو (منزہ)ی لہ (نقص) ئہبی ئہم (حیات)ہ (إکمال) بکہی ﴿فَقِنَا عَذَابَ﴾
 النَّارِ ﴿۱۱۱﴾ لہ (عذاب)ی ئاگرمان بیاریزی، (حفظ)مان بکہی، (أول) لہ (نار)ی
 (جہل) دووہم لہ ئاگری (جہنم) ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ﴾
 خوداوہندا توو ئہگر کہ سیك بہاویہ ئاگری، بہراستی (إہانت) کردوہ، (حقا)
 ئاگری (جہل) بؤ (نفس)ی (ناطقہ) لہ ئاگری (حسی) ناخوشرہ، (لکن) ئاگای
 لئ نیہ ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿۱۱۲﴾ بؤ (ظالم)انی (متجاوز) لہ (حدود)ان،
 ہیچ کہس (نصرہت)دہر و یاوہری نیہ، نہ بہکہس (ہدایہت) ئہدرین، نہ
 بہکہس لہ ئاگر (نجات)یان ئہبن، ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾
 پەرہردگارا، ئیمہ گویمان لئ بوو، بیستمان بانگی (منادی)، بانگی ئہکرد، بؤ
 (ایمان)، ئہوانہ ئہمانہن: لہری (فکر) و (نظر) (ایمان)یان بہخوا بووہ، لہبہر
 (کمال) خویمان بہ (ناقص) زاناندوہ، (حس)یان کردوہ، کہ (إحتیاج)یان بہ
 (مرشد)یک ہہیہ، وہک (بعض) و (أهل)ی (عقل) نہبووون، بلین: " (عقل) لہ

(نُبُوَّة) (أستفتا) په‌یا ئەکا " ئەو (مُنَادِي) یه (رسول) ه، بۆ ئەوانه‌ی (حاضر) ی (زمان) ی (رساله‌ت) په‌ناه بن، به‌لام بۆ ئیمه (قرآن) ه، ئەویش (لازم) ه که‌سی (ندا) ی پێ بکا، خۆی هه‌وار ناکا. ئەو (مُنَادِي) یه (ندا) ئەکا ﴿أَنْعَامِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ (ایمان) به‌ په‌روه‌ردیگاری خۆتان به‌ینن، ئەو خوایه‌ی که‌ ئیوه‌ی (خلق) کردوه، به‌خۆی کردوون، (تربیه) ی داون ﴿فَعَامِنَا﴾ (بلا تَوَقُّفُ) بێ (طلب) ی (خارقه) و (شوان)، (ذاتاً) (مُعْجَزَه) وه‌ك (شَيْخ ابو علی سینا) ئەفه‌رموی: " بۆ (جَلْب) ی (عَوام) ه، رام کردنیانه، بۆ (تعلیم) و (تربیه) بۆ (خواص) (علم) (مُعْجَزَه) یه " (علم) (مُعْجَزَه) یه (نافع) ه‌ی به‌ (ثمره) یه، ئەمرۆ ته‌ماشای بکه‌ن، (علم) چی ئەکا؟ چ (أثَار) یك له (قُدْره‌ت) ی په‌روه‌ردگار، به‌ده‌رئه‌خا، که‌ی (مُعْجَزَه) و (خوارق) ئەمه‌ی کردوه؟ ئەو (فوائد) ه‌ی داوه؟ ئەو (نوع) ه (أهل) ی (لُب) و (ایمان) ه، له‌سه‌ر ئەو (حال) ه، (دُعا) ئەکه‌ن ئەپارینه‌وه ﴿رَبَّنَا﴾ په‌روه‌ردیگاری ئیمه ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ لیمان خۆش بیه، گوناهمان بزریکه، (أثر) ی نه‌میئێ ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ (أهمال) ی ناپه‌سندمان (إسقاط) بکه، تووشی (مُجازات) مان مه‌که ﴿وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (١١٣) له‌گه‌ل پیاوی چاکانمان بمیینه، به‌ (ایمان) ی (کامل) بێ گوناهو (سَيِّئَات) له‌ (دنیا) بچینه‌ده‌ر ﴿رَبَّنَا وَعَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ په‌روه‌ردیگاری ئیمه پیمان (إحسان) بکه، ئەوه‌ی (وه‌عه‌ده‌ت) پێ داوین له‌ زوبانی پیغه‌مبه‌ران، چ (عائِد) به‌ (دُنیا)، چ (عائِد) به‌ (أخره‌ت) ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ئابروومان مه‌به، (په‌زیل) مان مه‌که، له‌ رۆژی (قیامه‌ت)، ئەمانه زۆر له‌ (نفاق) ترساون، زه‌نده‌قیان له‌ (شرك) ی (خفی) چووه، که‌ (پیا) یه، (قابل) ه (إنسان) (عه‌یب) ی به‌خۆی (شك) به‌ری، (عَالَمُ الْأَسْرِّ وَالْأَخْفَى) ئاشکرای بکا، (حیا) ی پێ ببا، ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ (١١٤) ئەزانن (خُلُق) ی (وعد) (ممکن) نیه، (مقصود) یان

ئەو هیه، له و گروھانه (حساب) بکرین، که (وه عده) یان له گه ل دراوه، وه
 (ممکن) ه، (عبارت) بی له زیندوو بوونه وه، له (قیامت) بو (حساب).
 (أهل) ی (علم) (إتفاق) یان ههیه، درۆ له (وه عده) به چاکه، بوخوا (مُحال) ه،
 (رهزیلی) یه، (نقص) ه، خوا (مُقَدَّس) ه له که مایه تی، (خلاف) یان ههیه له
 (خُلف) ی (وعید)، (یعنی) به شتی (خراپ)، (جَمهور) لایان (محال) ه (بعض) یك
 (تجوین) یان داوه، (شیخی عربی) له (فصوص) زۆری (تَقویه) کردوه.
 روژئی (عرض) ی (شیخ علی فندی) م کرد: "ئیهو چی ئەفه رموون، له
 (خُلف) ی (وعید)؟" فه رمووی: " (سبحان الله) که سیك خوئی به (عبد) ی خوا
 بزانی (إدعا) ی (أدب) ی (مع الله) بکا، (مسئله) یهك (عنوان) ی (خُلف) بی چۆن
 (نسبت) ی بو خودا ئەدا؟" من ئەلیم: "ئەگەر ته ماشای (قهر) و (غلبه) ی
 بکه ی، هه ردوولای (جائز) ه، (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) ئەگەر ته ماشای (هدایه ت) و
 (عدالت) ی بکه ی، هیچیان (جائز) نیه، وه (تفرقه) ی (نظر)، (تفرقه) یه "
 ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ خوی (تعالی)، خوی ئەوان (دعا) ی ئەوانی (قبول)
 کرد، بو (خاطر) ی خویان بی (شُفعا) و (توسّط) ی ئەم و ئەو ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
 عَمَلٍ مِّنْكُمْ﴾ پی ی فه رموون به دوستی: "من به خو پایی نابهم، کرده وه ی
 کارزاری له ئیهو" ئەو کار په ردازه ﴿مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى﴾ (فرق) ی نیرو و می نیه،
 ژن (رُكن) ی (عظیم) ه، له گه لی (غزا) هونه ریاتیان کردوه، که (موجب) ی
 (رضای) خوایی، ژنیش (عامل) ه، وهك پیاو، وه بو (اساس) ی (تربیه) له
 (فوق) ی پیاوه، (معدن) ه، کانی یه، (مُربی) یه، گه لی جار ئەلیم: " (دقه ت)
 بکه ن هه ر (عشیره ت) یك ئازابن و جهنگ أوه ر، ئەوه ژنیان ئازان، دل (قوی) ن
 و به (غیره ت) ن، هه ر (عشیره ت) ی حیز بن و ترسنۆك، ئەوه ژنیان به ترسن دل
 (ضعیف) ن، بی (غیره ت) ن"، وه له (مجالس) (عرض) ی براده ران ئەکه م:
 " کورد بی دایکن، ژن لای ئەوان بی (قدر) ه، ژنه کان بنه لۆکن، بی (عزّه ت) و
 (حُرمت) بوو ون، بویه (کورد) نابنه (إنسان)، هه زار (ناصح) ی وهك من،

(شاعری وه کی (حاجی قادر)، بۆ (تربیه) ی (قوم)، نابئ به دایکیکی چاک".

﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ ههردوولا له یه کین، ئه بی له (أعمال) و (مُکافات) وه ک یه ک بن، ئه وه وایه، بۆ هه موو (على السَّوَاءِ) یه، به لام (بعض) ی له گه ل (بعض) ی فرقیان هه م به (نسب)، وه شتی وانا ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ ئه وانه ی (ترك) ی (دار) و (دیار) یان کردیه، بۆ (نصره) ی (دین) ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ (خاصه) ئه وانه ی ده رکراون له مه فته نی خۆیان ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِ﴾ (أذیه) ت) دراون، له پئی ی من ﴿وَقَاتِلُوا﴾ (شه پ) یان کرد ﴿وَقَاتِلُوا﴾ کوزران، لی یان کوزرا ﴿لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ به جاری (محو) و (إزالة) ی (قبایح) یان ئه که م، نه له (دُنیا)، نه له (عُقباً) (أثر) ی نه مینی، (ولو) (ضرر) یش (عام) بووبی، وه ک (فرار) ی (سابق) و (ترك) ی (موقع)، (لكن خدمات) یان هه یه، (حق) ی ئه مه کیان هه یه ﴿وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّةٌ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ئه و به هه شته ی و ﴿ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (عطا) یه که له (طرف) خوا، له (وصف) ی ئه و (ثواب) ه، زوبانی (مدح) لاله ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ﴾ بی (نقص)، بی (کدر)، بی (من) و (أذى) بی (إنقطاع) ﴿لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (إنعام) ی (إلهی) له (دنیا) (عام) ه، وه بۆ ئه وانه ی (إيمان) یان به خوا و به روژی (قیامهت) نیه زۆتره، زیرا ئه وان به (غیر) ی (دنیا) هیچ (أمل) یان نیه، ئه گه ر (ایمان) یشیان به (قیامهت) هه بی، به (أمنیه) ی (شفاعهت) و (نسبهت) ی (أبا) یان (إعتنا) یان پی نه ماوه، بۆیه (دائماً جولان) ئه که ن، له و شار بۆ ئه و شار، له و (مملکهت) بۆ ئه و (مملکهت)، به (تجارهت) به (قومار) به (حیله)، (أموال) کۆئه که نه وه و ئه بی (غیرهت) ی (قومیهت) یان، (إتحاد) یان ئه کا، به (حرب) یش (إستیلا) ئه که ن، خوا ئه فه رموی: "تو نه خه له تینی، (جولان) و هات و چووی ئه وانه ی (کفر) یان کردیه، له (مملکهت)،

نہ لئی ی: "ئەوانە، ئەگەر بئی (نصیر) و یاوہرن، بئی (حَظ) و (نصیب)ن، بۆ
 وایە؟" ﴿مَتَعٌ قَلِيلٌ﴾ (تَقْلُب) و (تَغْلُب) ی ئەوانە (متاع) یکی کەمە، (مال) ی
 کەم (قیمەت) ە (عَمَّا قَرِيب) ئەبرپتەوہ، ئەگەر (مسلمان) ان بۆ (صلاح) ی (دین)
 و (دنیا) تی بکۆشن، بە قسە ی (رؤسا) ی (خائن) نە کەن، ئەمپۆ (دُنیا) یە،
 سبە ی (قیامەت)، گوریسی (طمع) ی راخستوہ، ئە لئی ی: نامری! (توکل) بکە
 سەر خوا، خوا (رِزاق) ە، کەس (رزق) ی کەس ناخوا، (تقسیم) ی خوا
 برپاوەتەوہ، بەو فیلاویانە لە (کسابەت) سست نە بان، دەوڵە مەند ئە بوون، بە
 ریک و پیکی ئە یان توانی، (منع) ی (تجاوزات) ی (أجانب) بکەن، لە (تجارەت)
 لە (حرب) بیان شکینن، ئەو (متاع) ە کەمە شیان، لە (أجانب) ئە کردە،
 قوزە قورت و سندان ﴿ثُمَّ مَاؤُنْهَمَّ جَهَنَّمَ وَيَبُئْسَ الْمِهَادُ﴾ (۱۱۷) ئەو (مقام) و
 (مرجع) و جیگای (مُهیّا) کراوہ، بۆ (کافر) ان ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ بە
 (حق) ی (تقوی) (ایمان) یان ببی، ھەر ئەو (مالک) ی رۆژی (جزا) یە ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ قەد دەرنانچن، ئەو بەھەشتە خوۆشە ی نا
 (مُتناھی) یە ی ﴿نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (نُزُل) بە دوو (ضمّة) بە (منزل) وە بەشتی
 (حاضر) کرابی، بۆ میوان، لە (أَن) ی (نُزول) ی (تقديم) بکری، وە بە (طعام) ی
 بە (برکەت)، وە بە (فضل) و (عطا) و (برکەت) ئە لئین، ھەمووی جوانە،
 (خاصّةً) (معنی) ی دووہم ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ (۱۱۸) ئەو (وقت) ە
 ئە زاندری، کە خوا لە بەھەشت، بە (أهل) ی (تقوی) و (إحسان) (کرم) ئە کا
 ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (یہود) و (نصاری)، با (نجاشی) ش یە کیک بی
 لە وان، (طبیعی) ئەو (أُمَّت) ە (عظیم) انە یە ک (نسق) نابن، (دوام) لە سەر
 (کفر) و (سیئات) ناکەن ﴿لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ بە (ایمان) ی (مُکمل)، (مُطابق) و
 (موافق) ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾ بە دل ئە ترسن لە خوا

﴿لَا يَسْتَرْوْنَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ﴿١١٩﴾ وهك (سائری (ملا) یانی ترناکهن
 ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ﴿١٢٠﴾ ئهو (أجره) (معهوده)، که دوو
 چه ندانه یه، (عبدالله غبنی سلام) (رضوانی خوی لى بى) (أصلاً) (مُزخرفات) و
 (خرافات) ی (اسرائیلی) نه هیئا ناو (إسلام)، (أجرى نایه ته (حساب) ﴿إِنْ﴾
 اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٢١﴾ (أعمال) یان له ههردوو (دین)، وه (جزا) یان له خوا
 گوم نابی، که م و زور وردو درشت ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ﴿١٢٢﴾ خودا (دُعا) ی
 (قبول) کردن، رى ی راستی نیشان دان، (أهل) ی (سعادهت) و (شقاوهت) ی بؤ
 (بیان) فہرموون، رق لى گیراوو گومپراہتان لى (معلوم) بوو، (نصرهت) ی دان،
 خۆتان (فشل) تان بوو، ئه مجاره تى شکان و دووباره خۆتان گرتہ وه، ئه و جا
 ئه گہر ئارہ زوو ئه کهن، به (قطع) ی (نائل) ی (فتح) و فہیرۆزى ببن ﴿أَصْبِرُوا﴾
 له (زمان) ی (إبتلا) به (نقص) ی (أموال) و (أنفس) (صبر) بکهن، (نفس) ی
 خۆتان بگرن، بى ئارامی مه کهن ﴿وَصَابِرُوا﴾ ﴿١٢٣﴾ له (مُقابل) ی دوژمن (زیاد) له
 ئه وان خۆتان رابگرن، به (صبر) ی چاره (سعات) ی (غلبه) (تحقق) ئه کا،
 به خۆنه گرتنى (مُدّه) یه کی که م، (تُوردو) یه (محو) ئه بیته وه ﴿وَرَابِطُوا﴾
 (علاقه) ی (إيمان) له (بین) ی خۆتان به (قوّهت) بکهن له یه کتان ببه ستى، به
 (شدّهت) نه کریتته وه، به ئه فسوونہ ی (فتنه) بازان نه پسى، به (خیر) خواهی یه ک
 (غایهت) (مُنْتَظَم) بن، (مع الاسف) ئه م (رابطه) به (قوّهت) هیان سست کرد،
 گوړی یان به (رابطه) ی (حضرهت) ی (شیخ): چاو بقووچینه، (صورهت) ی
 (مُبارک) ی (حضرهت) پیر بیئه بهر (خیال)، که پووی به رانی یه، نیوچاوانی
 زه قه، مووی زه رده، چاوی شینه، رهنگی سووره، ددانی گرہ، ریشی پانه،
 ملی ئه ستووره، وهك قوونکه هه و جاره، (قُبّه، قُبّه) (ظلمات) ی (إبلیس) ی
 به سه ردا ده بارى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿١٢٤﴾ خۆتان به (إيمان) ی (مُزخرف) هه ل

مه‌خه‌له‌تینن، ئه‌وه‌ی دهر (عهد)ی ئیوه‌ی کردوه، بیکه‌ن، به‌دی مه‌که‌ن،
 (أسباب) (مُکْمَل) بکه‌ن، ئه‌وجا دل به‌خوا بیه‌ستن ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٠٠)
 (کَيْتَ) ه و (لَيْتَ) ی خوا (قطعی)یه، ئه‌گه‌ر و مه‌گه‌ر به (نظر) ئیوه‌یه، ئه‌گه‌ر
 ئه‌وه‌ی فه‌رمووی به‌جی ی بهینن، (لاشک) (نائل)ی (مَقصد) ئه‌بن، به (فتح) و
 (نصره‌ت) ئه‌گه‌ن، (بیتُ الحرام) له (لَوْث)ی (أصنام) پاک ئه‌که‌ن، (مَقام)ی
 (إبراهیم) (إِتْخَان) ئه‌که‌ن به (مُصَلَّى)، ئه‌و (سوره‌ت)ه زۆر پر (حکمه‌ت) و
 (سیاسه‌ت)ه، (مُتَحَمِّم)ی (سُور)ی (سَابِقَة)، (متشابه)ه، (وَقْعَة)ی (أُحَد)ی
 (غایه‌ت) (مه‌مه‌ه)، له (حرب)ی (مَادِي) و (مَعْنَوِي)، (إِنْسَان) (مُوفَّق) ئه‌کا،
 له‌به‌ر (إِهْتِمَام) به (مَسْئَلَة)ی (عِيسَى)، پی ی ئه‌لین: " (سُورَة)ی (أَلْ عِمْرَان) "
 له‌گه‌ل (سوره‌ی) (بقره) ناویان (زُهْرَاوِيْن)ه، وه پيشی ئه‌لین: " (سُورَة)ی
 (أَمَان) "، " (سُورَة)ی (إِسْتِغْفَار) " (مجموع)ی (آیات)ی دووسه‌ده، له (مدینه)
 (نازل) بوه، دیاره ئه‌و (وَقَائِعَة)ی باسی ئه‌کا، پاش (هَجْرَة)ه پاشی
 (حرب)ی (بَدْر)ه، به‌ناوی (خوداوه‌ندی) (عَالَم) (جَلْد)ی (أَوَّل) له (تفسیر)ی
 کوردی ته‌واو بوو، ئیواره‌ی رۆژی سی شه‌موو شازده‌ی (صفر)ی مایسی رۆمی
 ١٣٥٣هـ - ١٩٣٤م. الحمد لله رب العالمین.

سورہتی (نساء)

تہوجا (نوبہت)ی (تفسیر)ی (سورہ)ی (نساو)یہ، وہقتاکی (جناب)ی (حق) (دُعا)ی (داعی)یانی (قبول) کرد، (إعانه)ی دان، ریّی راست و چہوتی نیشان دان، رِق لّی گیراوو ریّ گومبووی بیّ (بیان) کردن (نصرہت)یشی دان، (لکن فشل) یان بوو، بہ (مقصد) نہگہیشتن، (بیت الحرام) وہك خوّی مایہوہ، لہپاش شکست، بہ (عناہت)ی (إلهی) خوّیان گرتهوہ، (أمر)یان پیّ کرا، لہ (نہاہت)ی (سورہت)ی (سابق) بہ (صبر) و (ثبات) و (إرتباط) و لیک و پیکی بوّ (نیل)ی (ظفر)ی (قطعی)، لہ (أول)ی تہو (سورہت)ہ (إظهار) تہفہرموی: (إتحاد) و پیکہوہژیان بہخوشی، نہ تہنہا لہ (مسلمان)ان (مطلوب)ہ، بہ لکوو لہ ہہموو (بنی بشر) (مقصود)ہ، پاش ،

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

(ندا) تہکا بہ (ندا)یہ (عام) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (عام) لہ (مؤمن) و (کافر)، (برّ) و (فاجر)، (قروی) و (بدوی)، گہورہ و گچکہ، نیرومی، بہندہ و نازاد، تہوی تیّ بگا، گوئی مہدہ (نزاع)ی (بعض)ہ (أصولی)یان، ئیرہ جیّی (تألیف)ہ، ریک کہوتنہ، ریّی شہری (ملا)یان نیہ، خوّتان لہخوای بیاریزن، (شريك)ی بوّ پہیا مہکن، (غیر)ی تہو مہپہرستن، مہی کهن بہ (حیوانات)ی (مُتَطَوَّرَة)ی (داخل)ی (قاعدہ)ی (توالد)، (ملعبہ)ی پروپیریژنی (إسرائیلی)، (مسخرہ)ی (أوامر)ی (رؤسا)ی (جہلا)، ہہمووتان دہر (حق) بہ (مقام)ی (الوہیت)، (خاضع) و (خاشع) بن، ہہر (نقیصہ)یہکی بوّ (عالم)ی (ممکنات) ہہیہ، لہ تہوی (تنزیہ) بکهن لہ (سورہت)ی (سابق) فہرموی: (تَعَالَوْا إِلَى

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... (الآية) ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (ربّ) یکی
ئەوتۆیه، ئیوهی په یاکردوو، له (ذات) یکی ته نها، له یهك (شخص):

(بنی آدم) (أعضاء) ی یه کدیگه رند

کی دهر ئافهرینهش زویهك گه وهه رند

ئەگەر به (أسباب) ی (خارجه) له (لون) و (قدر) و (نسج) و (ترکیب) ی
(دهماغ)، (تفاوت) تان ههیه، (أما) له (أصل) و (خلقهت) و (فطرهت) هه مووتان
(مساوی) ن، ههچ تان له (حیوانات) و (جمادات) که متر نین، که بیانکه نه
(ربّ) ی خۆتان، خواتان یه که، (مصدر) ی (إشتقاق) ی (حیات) تان یه که، ئەم
(خلاف) و (شفاق) ه بۆچی؟ (عرق) زهره، (عرق) سپی، (عرق) پهش، (عرق)
سوور، هه موی له یهك (شخص) پاشه کهوت بووین، ئەوهی (تفریق) ی
(أصلی) تان ئەخانه (بین)، (فکر) ی باش نیه، (بشر) له گه ل (اتحاد) ی (اصل)
ریک نه که ون، له گه ل (إختلاف) ی هه ر ههچ گه ل جار وتوومه: (بعض) ه
(نظریة) ی (إلهیون) (ولو) (غلط) یش بی، باشتره بۆ (بشر)، له (بعض) ه
(نظریه) ی (طبیعیون) (ولو) (موافق) یش بی، ﴿وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ له و (نفس) ه
(إيجاد) ی کرد، (رفیق) ی جووتی، نیر له می وه می له نیر بۆ هه ردوو له
(قبیله) کی بوون، (علم) ی (طبیعهت) (کشف) ی نه کردیه، له و (وهقت) ه ی (علم)
له (بشر) په یابوو، تا (زمان) ی (داروین)، (إتفاق) یان بوه، که خودای (تعالی)
(شخص) یکی نیری (خلق) کرد، له (أعضاء) ی ئەو یا له (جنس) ی ئەو،
(ره فیق) یکی بۆ (إيجاد) کرد، (بعد المعاشره) (أولاد) یان بوو، ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا﴾ پیاوی زۆر، (أما مع الاسف) مه ردی که م ﴿وَنَسَاءً﴾ (حاجهت)
ناکا، بلّین: "زۆر" ئەوان (مصدر) ی ئەو بلاویه و زۆریه ن، (أما) (داروین) به
(قاعدە) ی (نشأ) و (تطور) و (ارتقا) که (الان) (مُشاهده) ئەلی: " (أول)
(إنسان) له (حُسن) و (تقویم) و هۆش و (کمال)، وهك (إنسان) ی ئیستا نه بوه،
شتی بوه، (شبيهه) به مه یموون، ورده ورده، به (إنتخاب) ی (طبیعی) (تفوق) ی

کردوه، پاش چه‌ند (نسل) گه‌یشتیته‌ئو (مقام) ه " گه‌لی له (علمای) (طبیعت) وه‌ک (علمای) (دین) ئه‌وه‌یان (إنکار) کردوه وه (إنکار) ئه‌که‌ن، (بعض) ئیک (تأیید) یان داوه، له (أعظم) ی ئه‌و (زُمره) (هکسل) ی یه، (حتی) له (ملاً) ی زُور گه‌وره – (بلا) په‌روا ووتی (إنسان) و مه‌یموونی (راقی)، به (غیر) ی (نسج) ی (دماغ) (فرق) یان نیه (بعض) ی (علمای) (کیمیا) به (تحلیل) ی خوین، ئه‌و قسه‌یان، گۆی یا، گه‌یاندۆته (درجه) ی (یقین)، (علی کلّ حال)، ئه‌و قسانه لیڤه (ضرر) ی ئیمه‌ی نیه، ئیمه (غرض) مان (ده‌عوته) ی (بشر) ه، بۆ یه‌کیه‌تی، ئه‌گه‌ر ئه‌وه راست بی، با (سعی) بکه‌ن، بۆ (إتحاد) له‌گه‌ل (حیوانات) ی (راقیه)، تا (ممکن) بی، (خلاف) له (بین) ی (عالم) ی (حیوانات) دا نه‌هینن، گه‌لی (رجال) ی (عظیم) ئه‌و (فکره) ده‌یان بوو، وه (سعی) شیان بۆ کرد، سه‌ری نه‌گرت، وه‌ک له (أیه‌ت) یکی (سابق) فه‌رمووی: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) گه‌یاندی که یه‌گانه، (سبب) ی (شقاق) و (شه‌پ) و شوپ، پاش (بعض) ه (أسباب) ی (خُلُقِی)، (إختلاف) ی (ملا) یانه، له‌به‌ر (حسد) و (بُغض) و (عداوت) ی خۆبه‌خۆیی، به (فساد) چوون، (عالم) یان به (فساد) دا، (بشر) یان له (نعمت) ی (إتحاد) (محروم) کرد، ئیستاش له‌و (نسق) ه ئه‌پۆن زیاتر (علمای) (دین) ی (ئاورویی)، (صد) ی (عالم) ئه‌که‌ن، له (دین) ی (أسلام)، که (دین) ی (توحید) ه، (مُصِیبه‌ت) ی گه‌وره، (سیاسیون) ن (حُبّ) ی (رئاسه‌ت) و (إستیلا) و (إستعباد)، لی یان ناگه‌پئی، (دائماً) خه‌ریکی (فتنه) و (فساد) ن، (بعض) ه (علمای) (طبیعت) (حسره‌ت) ئه‌خوا ئه‌لی: " (علمای) (دین) مان (تهوین) کرد، ئه‌مپۆری ی (ترقی) (بشر) ناتوانن بگرن، (أما ظُلمات) ی (سیاسه‌ت) (مانیعه) ".

(أهل) ی (علم) له‌هه‌موو (مله‌ت) و (ده‌وله‌ت) یه‌ک بگرن، (إستفاده) له (علم) ی یه‌ک بکه‌ن، ئه‌و (وه‌قت) (إکتشافات) و (إختراعات) ی (بشر) ئه‌گاته (درجه) یه (مقبول). ئه‌بوایه (علمای) یانی (أسلام) بکه‌وتبانه‌ئو (فکر) ه، (عداوت) و (حساده‌ت) یان له (بین) نه‌مایا، خۆیان (مُتحد) بان، هیچ نه‌بوایه

ئەو (عداوت) ه به (قُوَّة) هیان له (بین) ی (مسلمان) ان (تهوین) ئەکرد، به لام ئەوه هەر له (إمكان) ی (خیالی) دایه، هاتنی بۆ (ساحه) ی (ظهور) نهزیکه (محال) بی، وائە زانم، چونکه (بعض) ه (أهل) ی (علم) ئەوه یان به (محال) زانیوه، (خاصه) له (زمان) ی (رسول) (صلی الله علیه وسلم)، (واسطه) ی (ملاقات) له (بین) ی (بشر) نهبوه، تا (دهعوه) یان پی بگا، (فضل) له (نیل) ی (مقصود)، فهرموویانه: " (مقصود) له (ناس)، (عره) ه " خۆزی ئەوانیش (إتحاد) یان کردبا، ههرباش بوو، ئیمهش (إستفاده) مان ئەکرد

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (تقوی) ی ئەو خوایه بکهن که هه مووتان سویندی پی به یه کدا ئەدهن: تووخوا، توو ئەو خوایه ی به (حق) ی ئەناسی، (سؤال) ت لی ئەکه م، بۆ خوا (جواب) م بدهوه، ههروهکو (رابطه) ی (ایمان) ه، بیکه ن به (رابطه) ی (وحدت) ی (ایمان) یه کی بلی: " به یه زدان " یه کی بلی: " به ئەهرمه ن "، یه کی بلی: " به ئافتاب "، یه کی بلی: " به (قمر) "، یه کی بلی: " به ئاته شگه ده "، یه کی بلی: " به بوتخانه " یه کی بلی: " به (عیسی) "، یه کی بلی " به (عوث) "، یه کی بلی " به شاهی نه قشبه ند " ئەوها، ئیش و کارتان (قط) ریک ناکه وی، وه هه م (حفظ) ی (أرحام) بکهن، خو بپاریزن له پساندن، چ دوور، چ نزیک (خاصه) له (بین) (رسل) ان، (اسماعیل) و (إسحاق) بران له یه ک باوکن، هه ردووکیان کورپی باپیره گه وره ی هه ردوولامان، با دایکیان جیاوه ز بووبی بۆچی (قطع) ی (نسب) ی (اسماعیل) ئەکه ن؟ (محروم) ی ئەکه ن، له (إرث) ی باوکی، رقتان له (اسماعیلی) یان ئەبیته وه ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ (جناب) ی (حق) (مُنْتَظِر) بوو، ئە ی نواری بزانی ئیوه چی ئەکه ن؟ (خاصه) له پاش (بعث) ی (رسل)، ری ی چاکی پیشاندان، وه زور (أمر) ی کردنی به (تربیه) ی (أیتام)، (مال) پیدانیان، ئەمهش ناکه ن، باریه ﴿وَأَتُوا

الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ (مال) ی خویان بدهنه وه، (حفظ) ی بکهن مه ی خۆن ﴿وَلَا تَبَدَّلُوا

الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ ﴿ (مال)ی پاکی ئەوان به (مال)ی پیس، ئی خۆتان، یا (غیر) مه گوین **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ** ﴿ (مال)ی ئەوان به دوا، (مال)ی خۆتان مه دەن **إِنَّهُ كَانَ حُوبًا** ﴿ ئەوهی گوترا، (به لا)یه، (هلاک)ی، یا گوناھی **كَبِيرًا** ﴿ گه ورهیه، (أما تعبیر) له گونا به (حوب) لی ره (فائده)یه (خصوص)ی تیایه، له (لوعهت) (حوب)، (حوبهت) به دایک و باوک ئەلین، (حوبهت) به خزمایهتی لای دایکیش ئەلین، به (رقهت)ی دلای داک ئەلین، کهوا هیتییوی له (قضا) ئەخوازی، ئیوه وهک باب و داک بن، بو هیتییو دلتان گه لای نهرم بی، وهک دایک له گه لای جیگه رگۆشه ی خوی چ جایه (مال)یان بخۆن و (استهلاک)ی بکهن **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ** ﴿ ئەگه ترستان له (عدالتهت) نه کردن له (حق) هیتییوان بوون به (واسطه)ی زوری ژن و مندالتان، بلین: "چی بکهین: چی بکهین؟ خیزانمان زۆرن، نا (علاج)ین، (مال)ی هیتییوان ئەخۆین". به (قاعده)ی (سدّ الدرائع) خۆتان له (کثرهت)ی (مائله) بپاریزن **فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** ﴿ ماره بکهن ئی پاک و (تمین)، (موافق) و (مال) و بالتان، له ژنان، ته ماشای (حُسن)ی (مزاج) و (معامله)یان بکهن، تیک بگه ن، ئەوجا پیک بگه ن **مَثْنٍ وَثُلَّةٍ وَرِيعٍ** ﴿ دوو، سئ سئ، چار چار، به گویره ی (حال) و بالی خۆتان که سیک (موافق)ی (میل)ی بی، (فطر)ی (صحیح) بی، له خوی رابینی به ریک و پیک گوزه ران بکهن، دوو ژنان بینئ، زیاتر (ایجاب)ی کرد تا چار، زیاتر دروست نیه، (علی الاکثر) نه (مال)یان ئەوه نده ههیه (إداره)یان بدهن، دایان مه زینن، نه (قوهت)ی (بدن)یان ههیه، ئاگری (شوق)یان دامرینن، لی ره پری یهک یهک نیه، چونکی نیونیو نیه لهو (نوع)ه (عبارهت)ه هه ر ئەو (معنا)یه (فهم) ئەکرئ، دوو و دوو، چوار، دوو سئ، شهش، دوو چوار، ههشت، (جمعا) هه ژده، دوو دوو سئ سئ چوار چوار، نو، یان دوو چوار ههشت، لی ره ئەمه نایه ته (حساب)، (وَلَو) (فهم)یش بکرئ -

(بالأولی) - که ههژده و نو بوو، ههشت ههه ئه بی (ممکن) ه ههه ئویه که بی، یه کی لئ فری ئه دهه له بهه (خاطر) ی (حضره ت) ی (رساله ت) په ناه، (مقصد) (حُسن) ی (إدارة) یه، پئی برینی (طمع) ه له (مال) ی (أیتام)، بیست و یه که، یان بیست و نو ژن (ولو) بیئه (حساب) به (حساب) یکی ورد، به کارخانه چیان نه بی، (إدارة) نا کرین.

ئه وه ی (خط) ی له نا (إنتظامی) یه، (أول) (نظم) ی (قرآن) ته ماشا نا کا به لکو تیکی ئه دا، تا (معنا) یه نا (منتظم) ی بو بی، ئه مرؤ (بحث) ی (تعدد) ی (زوجات) (أذهان) ی (عالم) ی (مشغول) کردیه، (بعض) ی (حق) ناشناس، یا نا (حق) شوناس، (سبب) به (تعدد) ی (زوجات) (جنس) ی (لطیف) ی (ئاو روپی) له (دین) ی (إسلام) (تنفیر) ئه کهن، ئه زانن (زمام) ی (إدارة) ی (جنس) ی (خشین) له ده ست ئه واندایه (بعض) ه (ده ولّه ت) پاش (حرب) ی (عمومی) (فائده) یان زانی، (حکم) یان کرد، به (لزوم) ی (تعدد)، تا (ضایعات) ی (نُفوس) پر بکاته وه، وه (بعض) ه (أهل) ی (أنصاف) ئه فه رمون ئه گه ر (تعدد) ی (زوجات) له (عموم) ی (بشر) (قبول) کرابان قه حیه خانه له (دنیا) دا نه ده مان گه لئ (أدبیه) ی (ئاو روپی)، (حسره ت) به (خادمه) ی ماله گه وره ی (مسلمان) انی (شرقی) هه لئه به ن. (حاصل) ی (تعدد) ی (زوجات) به (نسبه ت) (مصلحه ت)، بو هه ردوولا (واجب) نیه، به لکو بو (أمّه ت) (سُنّه ت) یش نیه، وه (أساساً) ژن هیئان له (دین) ی (إسلام) (واجب) نیه، (مسئله)، (مسئله) ی (طبع) ه، (تعديل) ی (عائد) ی (شرع) ه ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ئه گه ر ترسان (عدالته ت) نه کهن له (بین) یان ﴿فَوَاحِدَةً﴾ (میل) تان هه یه، یه که ژن بهینن، مه ی کهن به دوو ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یا خود (قضا) ی (وَطَّر) (دفع) ی (دغدغه)، به (مَلِكُ) الیمین) ی خوتان بکهن، (یعنی) به (جاریه)، (جاریه) (مصرف) ی که مه، وه هه موو که سیش ناتوانئ (جاریه) بکری، وه (أحرار) زور (مائل) ی (تَقَرُّب) نین له گه ل (جاریه) یان ﴿ذَلِكَ﴾ ئه وه ی (بیان) کرا، له ئیکی و دووی ﴿أَدْنَىٰ آلَا﴾

﴿تَعُولُوا ۳﴾ وهك (شافعی) ئەفه رموی: "ئەو نه زیكه له زۆر نه بوونی (عائله)" كه (عائله) زۆر نه بی، (مصرف) یشتان زۆر نابی، (قوهت) ی (بدن) یشتان كه م نابی، (میل) ی (جور) و (ظلم) له (مال) ی (أیتام) نامینئ، (إلا) به (هوا) ی (نفس)، (حقیقه) معنا) ی (شافعی) زۆر (صحیح) ه، (مُوافق) ی (مقام) ه، گه لئ قیره قیرپان کردیه، گۆی یا ئەو (معنا) یه (مُوافق) ی (لَوْغَت) نیه، (أما) بی (إنصاف) ن، (شافعی) خۆی له (أئمه) ی (لَوْغَت) بوه، ههروه کوو له (فقه) (إمام) بوه، (أدبا) (إستشهاد) به (كلام) ی ئەو ئەكهن، له (لَوْغَت)، له (أبوعبیده) زیاتر نه بووی، كه متر نیه، (سیدی الووسی) (نصرهت) ی (إمامی) شافعی) داوه ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (فريضة) ی (ماره) ی یان بدهنئ، بی كه م و كورتی، یا به (طیب) ی (نفس) ماره ی یه كه یان بدهنئ، با بی (عوض) و (مُقابله) چونکی هه ردووك (لذّهت) یان لیک دیوه، وه پیاو (نفقّه) ی داوه (أته قهر) ئە بیته به خشرایئ، بی پاداش ﴿إِن طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ ئەو (نوع) ه (ترکیب) ه له کورده واری دا نیه، بویه له گه لئ جئ به (خُلاصه) ی (معنا) (تفسیر) ی ئەكهین (لفظ) و (باللفظ) زۆر ناشیرین ئەبی، ئەگه ر به خووشی خویان شتیکیان دانئ، له (مهر) ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (عافیت) ی بکه ن نۆشی گیانتان بی، له گه رووتان نه مینئ، له (معهده) تان (هضم) بی، گرفتئ نه بی، (لومه) تان له سه ر نیه ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (مال) ی خۆتان مه ده نه: (شراب) خۆر، (قومار) کهر، بی (عقل) و (مصلحهت) نه زانن، ئەوانه (حق) ی (تصرفات) یان نیه، گه وره بن، گچکه بن مئ بن، نیر بن، هیتئو بن بی باب بن، (مال) ی ئەوانیش له بهر دهستی ئیوه به (مال) ی خۆتان (حساب) ه، له (مُحافظه) ی (مسؤول) ن، (خاصة) مندال له دوا ی بدرئ، (خراب) فیر ئەبی، که گه وره بوو، له سه ر ئەو (حال) ه ئەپوا، (کسابهت) ی پی ناکرئ، ئە بیته (شر) ی (محض) به ملی (عالم) ه وه به هر (نوع) یك (مال) ی چه ند که وی (وَلَوْ) (مال) ی

هیتییوی (شهیدی) ی (بدر) و (أحد) بی، قووتی ئەدا.

(عرض) کرا (حفظ) ی (مال) له (أهم) ی (مقاصد) ی (شرع) ه، (خاصةً) ئەمپۆ، بۆیه زۆر (إهتمام) ئەدهن به (علم) ی (اقتصاد) (أساس) ی (اقتصاد) دوو (قاعده) یه، (قاعده) ی پهیاکردن، (قاعده) ی (خرج) کردن، ئەوه (أهم) تره، وه (میل) ی (إنسانی) (حفظ) ی ناتوانی، بۆیه له (قرآن) له هه موو

جئ یه (بیان) ی (جهت) ی (صرف) ی ئەفه رموی، نهك (إستحصال) ی ﴿الَّتِي

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ كهس ناتوانی بهو (نوع) ه (بیان) ی (قیمهت) ی (مال) بكا،

(جناب) ی (حق) (مال) ی گێپراوه، به (مدار) ی (حیات) بۆ ئیوه، به (مال) پائه وهستن، (وَالَا) وهك (بی) پزیو پائه قه نین، كهسئ (إصراف) بكا، (كأنه)

تالووکه له فهوتانی خۆی ئەکا، (فی الحقیقه مدار) ی (صلاح) ی (دین) و (دنیا) (مال) ه، هیچ (مهام) ئی (دینی) بی (مال) ناکرئ، ئەوهی (ذم) ی (مال) بكا،

(غلط) ئەکا، (مال) ذم ی پئ ناوی، (لومه) بۆ (صاحب) ی (مال) ه، كه (قدر) ی نه زانی، بۆ پۆژی لی قه ومان، دای نه ئی ئەلین: " (مال) (ظلل) ی (زائل) ه "

نه (خیر) سایهیی (أبدی) یه، كهسئ (أهل) بی، ئەتوانی به هه شتی، كه (أول) (مزات) = (مزد) ی ئاسمان و (أرض) ه، به (درهم) ی بی کپئ، (خُلاصه)

(مال) ی چاک بۆ پیاوی چاک، (تفسیر) ی (سفییه) بهو (عموم) ه، (مُختار) ی (إبن جریر) ه، ئەوانی تر، (خاصه تفسیر) یان کردیه، به هیتییو لیڤه زۆر (مُشوش) ن،

(خاصه) ئەوهی (سفییه) بی (مال) یان نه نه مست، خۆیان (تصرف) ی تی

بکهن، خۆتان ته ماشایان بکهن ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ له ناو (مال) ه كه،

(كأنه) شتیکی تیڤا پهیا ئەبی، به (معامله) و (مُرابحه)، له وهی (رزق) یان بدهن

(لباس) یان بۆ بکهن برسی نه بن، روت نه بن، ئەوهنده (كافی) یه ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا﴾ قسهی خوشیان پئ بلین، ئەگه (مندال) بن بیان لاویننه وه، رۆله

ئو (مال) ه بۆ تووه، ئی تووه، سبهی گه وره ئەبی، به (عقل) و به هوش

ئہبی، ئہو (وہقت) ہ (مال) دکہت بہ (زیادی) (تسلیم) ئہکری، کوری گہورہم
 (عزیز) م بہسیہ، وەرہوہ سہرخۆ (حُرمت) ی (مال) بزانه، لہ (شہراب) و
 (قومار) و (قہچیہ) ی (صرف) مہکہ، مال ویرانی (دنیا) و (قیامت) ئہبی، بہ
 برادران ہل مہخہلہتی، تا (مال) ت ہہیہ، لہدواتن، دواہ (مرحبات) لٰ ناکنہ
 ہرہوقتی ہاتیہوہ سہرخۆ، لہو (سیئات) ہت دہست ہل گرت، مال، (مال) ی
 خۆتہ، کہس (حق) ی بہسہرہوہ نیہ، ئہگہر ژنہ (عرض) ی بکہ: (عزیز) م
 (رفیقہ) ی (حیات) م، تو (صاحب مال) ی، من پہیای ئہکہم، تو (خرچ) ی
 ئہکہی، ناگات لٰ بی، بہولاو بہولای دامہدہ، بہپیریژنہکانی زوبان لوس
 مہفرہوی (أولاد) ت بہخیوکہ، تو لای خوی زور بہ (حُرمت) ی، (خدمت) یکی
 گہورہی پی سوپاردوو وی، (إنسان) پی ئہگہیہنن ئہمہ (قیاس) لہہیچ
 (عبادت) ناکری. (حاصلی) ئہوہ بزائن چاکہ - بہ (عقل) یا بہ (شرع) -
 دہبارہیان بی بیژن ﴿وَابْتَلُوا لِيَنظُرُوا﴾ لہ (أمر) ی (سابق)، (مقصد) (حفظ) ی
 (مال) یان بوو لہ (سوء) ی (تصرف)، لیژہ (بیان) ی (شرط) یك ئہفہرموی، بو
 (مال) دانہوہیان، ئہو (وہقت) ہی کہ ئہو (آیہت) ہ (نازل) بوو، نہ (إمام) ی
 (حنفی) ہہبوو نہ (مالک) نہ (شافعی)، ئہشیان زانی (إمتحان) ی ہیتیوان چؤن
 بکہن، تا (حق) ی (مال) دانہوہیان بی، وہ ئہو پؤش ہہر (صاحب) ہیتیوہ،
 بہ گوپڑہی کارو (کسب) و (معاملہ) ی خوی، ئہزانئ (إختیار) ی ہیتیو بکا
 (صلاح) ی (دین) یشی پی ئہوی، لای (إمام) ی (شافعی)، بہلئ (حقیقہ) باشہ،
 ذاتاً صلاحی (دنیا) و (دین) پیکہوہ (مربوط) ن ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ دیارہ
 ئہو (إختیار) ہ پیش (بلوغ) ہ، پیش (حد) ی (نکاح) ہ (یعنی) ئہو (إختیار) و
 (تجربہ) (دوام) بکا، تا ئہگہنہ (سد) و (حد) ی ژن ہینان، ئہو (وہقت) ہ
 تہماشا بکہن ﴿فَإِنِ انْتَسَمَ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ ئہگہر لہ ئہوان ری بردن بوو، (ربط) و
 (ضبط) ی (مال) تان لٰ دیتن (کأنتہ) (میل) و (رہغبت) ہکتان لٰ (مشاہدہ)
 کردن ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (مال) ہکہیان بدہنہوہ، لہسہرخۆتانی (دفع)

بکهن، (أَنْه) ئه وه (وبال) هکه (طوق) هکه (به لا) یه که، له خۆتانی لاده دهن، نه وه ک دلیان له دووبی.

(زمان) ی (نکاح) (معلوم) ئه بی، به (إحتلام)، وه (محدود) ه به یازده سال، لای (إمام) ی (شافعی) وه (ابو یوسف) وه (محمد)، (ألوسی) ئه فه رموی: "ئه وه (روایهت) کراوه، له (أبو حنیفه)، وه (فتوی) ی (حنفی) یان له سه ر ئه و (روایهت) هیه " ئه و (تعیین) ه به (عادهت) (إثبات) ئه کهن.

ئه گهر (بلوغ) بوو، (رشد) نه بوو، (حال) چۆنه؟ ئه وه ی (قول) به (مفهوم) ی (شرط) بکا، ئه فه رموی: "نای دریتته وه، (إلى الرشد)، (ولو) نه بی، تا ئه مرئ" ئه وی (قول) ی پی نه کا، ئه لی: "که گه یشته (سن) ی (یأس) له (رشد)، یعنی بیست و پینج سال، (مال) هکه ی ئه دریتته وه، خوی ئه زانی چی لی ئه کا؟ با بیکا. لی ره (علما) یان زور (خلاف) و (طعن) یان لیک هه یه، (إنسان) (رشد) بزر ئه کا، فه رموی: "له (مال) ی (سُفها) (رزق) یان بدهن، جلکیان بو بکهن، مه بادا، ده رگه ی (واسع) بکهن، به (بعض) ه (خه یالات) ی (فاسده)" ئه فه رموی:

﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ (مال) ی خۆتان مه خۆن، (هدر) ی مه کهن ﴿إِسْرَافًا﴾ به (تجاوز)

له (حد) ﴿وَبِدَارًا﴾ تالووکه کردن ﴿أَنْ يَكْبُرُوا﴾ بو (خاطر) ی زوو گه وره ببن، ئه گهر به (ره زیلی) به خیو بکرین، خواردنی زور باشیان نه بی، جلکی چاکیان نه بی، ئه چه له مین، گه وره نابن، (صحته) و (عافیهت) یان زور باش نابی، له (زمان) ی (بلوغ) یش (عقل) یان نابی، (خاصة) ئه و (دسائسه) له (طرف)

ژنانه وه (إلقا) ئه کرئ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا﴾ له (أولیا) ی (أمور) ﴿فَلَيْسَتْ عَفْفٌ﴾

خوی (منع) بکا، به (دوله مهندي) نه خه له تی، زور ئاگادار نه بی، له دهستی ئه چی، قه لاش ئه بی، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ له گه ل (حال) ی (فقیری)، چه ند جوانه به و (نوع) ه (مال) ی (صرف) بکا، خوی بو چاو شه کر و توتن و قاوه خانه قه ردار نه کا، (حقا) (أوامر) ی (إلهی) (رعایهت) کرابا (إداره) ی

(عمومی) زور باش دہبوو، بو (حفظ)ی (مال)ی بی دہسہ لاتان ئہبوہ (حاجز)ی (منیع).

دوستیکی باشم ہہبوو، لہ (ملازم)انی (ردیف) لہ (أهل)ی (خہریوت) بوو، ناوی (علي رضا)، ئہی فہرموو: " (معاش)ی خوم ئہکہمہ سی (قسم) (قسم)یک دائئیم (کائنہ) نیہ، (قسم)یک بو نہساغی، بو (حوادث)ی کہ لہ (حساب)اندا نیہ، (قسم)یک (صرف) ئہکہم". زوری پی نہچوو (نقل)یان کرد، بو لای (تورکیا)، پیم ووت: " (مصاریف)ی (نقلیہت) ہہیہ؟ " (تبسم)ی کرد ووتی: " بہئی، لہو پارہی کہ (کأن لم یکن) دام ناوہ، بیست و یہک لیرہم ہہیہ، (کافی) و (وافی)یہ". بہ (شرف) روئی شرت و پرتی (مزد) نہکرد، دایہ چاوش و ئونباشی خوی ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ کہ (تحقق)ی (رشد)یان بوو، وہ (مال)ہکہتان دانہوہ ﴿فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (شاهدی)یان لہسہر بگرن کہ

ئہوا (تسلیم)مان کردن وہ وہریان گرت، بہتہواوی ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ۶ ئہو (ب)ی یہ (موقع)ی بلندی ہہیہن وہک ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا﴾، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ لہ (غیر)ی ئہو (نوع)ہ (مقام)ہ، (ولو فاعلی) (کفی)، (الله)ش (بی)تیا (ذکر) ناگری، (بعض)ی ئہئین: " (زیادہ)یہ " (أما) ئہو قسہ زور (زیاد)ہ (حسیب) بہ (شہید)، بہ (محاسب) (تفسیر) ئہکہن، (یعنی جناب)ی (حق) ئاگادارہ (حساب)تان لہگہل ئہکا، (محاسب)ی (کافی)یہن ہیچی لی بزر نابی، ئاگاداری (جزی)ی (کلی)یہ، (ظاہر) و (باطن) لای ئہو ئاشکرایہ، (حذر) بکہن (بالفرض)

لہ (حساب)ی (دنیا) دہرچن، لہ (حساب)ی (قیامت) دہرناچن ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ بو نیران ہہیہ - چ گہورہ چ گچکہ چ (سفیہ) چ (رشید) - بہش لہوہی دایک و باوک و خزمی نہزیک (ترك)ی ئہکہن لہوای خویان بہجی ی ئہہیلن، مہئین: " گچکہ، یا (سفیہ) (مال)ی بو چیہ؟ بو گہورہو پیواوی (رشید) باشہ " (حق)ی پیواوی (رشید) ئہو لہ (خدمت)ی بی

نه اوو بی دهسه لاتان بکا، ئەو که سی (مصالح) ی خوی نه زانی ئەو (حسب
المصالح) (تصرفات) ی بو بکا ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
وه بو می یان - چ که وره، چ گچکه، چ به هوش، چ بی گۆش - به شی ههیه له
ئوهی دایک و باوک و خزمانی نزیك (ترك) یان کردیه، مه لئین " ژن بو چیا نه؟
(حوائج) ی (بشری) زۆره، خۆتان ئەلئین: (عومر) ی درئژ شهرم له کهس ناکا،
پیری یه، کوپیری یه ده رده داری یه، (عوارن) زۆره " ئەوانیش له (ارث) وه رگرتن،
(مُستَقِلِّنَ، بۆیه له (عبارت) یش (مُستَقِلًّا) (بیان) ی فه رموو ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرًا﴾ (نصیب) یان ههیه، هه ردوولا، له (متروک) ی (مذکور) - که م بی یا زۆر
﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (نصیب) ی (فرض) کراو، وه یا خود لیک جودا کراو و
داندراو له (طرف) (جناب) ی (حق)، (فرق) له (بین) ی (واجب) و (فرض) ههیه؟
یان نا؟ لیره بی جی یه ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ (حاضر) بوون ﴿أُولُوا
الْقُرْبَى﴾ (غیر) ی خزمی (وارث) له بهر (حجب) به (ورثه) ی نه زدیکتر ﴿وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ به (حُسن) و (رضا) ی خۆتان شته کیان بده نی،
له (مال) ی (متروک) ه، (أما) له (حصه) ی هیتیوی نا ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾ (۸) قسه ی خۆشیان له گه ل بکه ن، دلتان نه مینئ، هه ر هه نده ی تی
هه ل دئ، ئەگه ر که میش بی، به (لطف) ی خۆتان لیمان (قبول) بکه ن
﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ وه بترسین
ئەو که سانه ی ناگایان له (حال) ی خه لکی نیه، خۆیان له (ترفه) دان، (مال) ی
زۆره، (أولاد) ی پی گه یشتون، (خیال) ی (تقلبات) ی (زمان) هیان به دلدا نایه،
(فرضاً) أَنَّهُ فَرَضَ ی (مُحال) ه، ئەگه ر (ترك) بکه ن دوا ی خۆیان (أولاد) ی
(ضعیف) و خۆشیان بوین، (ممکن) ه بلئین: "له بهر خۆشه ویستی (ترك) یان له
(مُحالات) (حساب) ئەکه ن، ئەترسن به (ضایع) بچن، مادام وابی له چی

ئەترسن، (أولاد)ی خەلکی ئەوانە چیان پێ خۆشە؟ لەسەر ئەو (فرض)ە، لە (حق) (أولاد) و (ذریەت)ی ئەوان بکری، لە (حق) (أولاد)ی خەلکیش حقه وایان پێ خۆش بی، ئەوانە، چ (ولی) بن، چ (وصی) بن، چ (قاسم)ی (ترکە)، چ (ترکە) وەرگر بن چ (رؤسا)ی (دین) بن، رەهەبەری (مسلمان)ان ئەکەن، ئەببینی بەرپەری بن نەخۆشیان پێ ئەکەنە (وہصیەت)، بۆ مزگەوت و (أهل)ی (جماعەت)، با (وجود)ی، پایزان ساواری لەسەر ھەل ئەخەن، ھیتتیوہکانیش بێ (حصیر) لەسەر عاردی ئەنوون ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ با لەخوا بترسین، ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ئەوانە با قسە ی راست و (عدل) بلین، خوارەکە و پیچەکە نەکەن، بە (وعظ)ی (منافق)انە (مسلمان)ان لەرێ لانەدەن ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَمَى ظُلْمًا﴾ ئەوانە ی (مال)ی ھیتتیمان ئەخۆن بە (ظلم) و (تجاوز) لە (حق) ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (سابقاً عرض)کرا، خواردنی بەراستی لە (معدە)دایە، (معدە) (هضم) و (هلاک)ی ئەکا، ئی ناو زار قیمە کردنە، ئەگەر ددانێ نەبی پەلکۆ کردن و قووت دانە، ئەوانە لەناو زگی خۆیان ناگر ئەخۆن، (مثال)ی لە (قیامەت) بەدەر ئەکەوێ.

﴿وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ (داخل)ی ئاگری بە بلێسە ئەبن، یا پێی ئەبرژین یا ئەی چپژن، ئەمرو (درک)ی (ألم) ناکەن، (أما) ئەوێ دەمێ زۆر بە (قوہت) (حس)ی ئەکەن ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (مال)ی خۆتان تەخشان و پەخشان مەکەن مەیدەن بە (فلان) و (فلان) (رابطه)ی (فطری)تان لەگەڵ کێ یە؟ (رابطه)ی (شرع)یش (زیادە) لەگەڵ ئەوہ، خوداوہندی (کریم) لەسەر ئیوہ (فرضی) ئەکا، دەربارە ی (أولاد)تان - چ نیر، چ مئ - (حرمان) نیە، بۆ مئ، (غایەت)ی (زیدە) (رعايەت) ھە یە بۆ نیر، لەبەر چەند (إيجابات)ی ﴿لَذَكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ بۆ نیر بە (قدر) پشکی دوو مئ، (مثلاً) کورپەک و دوو کچ، لە چوار دووی کورپەکە یە، کچەکان یەکی یەک، (شریعت)ی

(إسلامیہت) وہك (فطرہت) (ترجیح) ی لای نیری بهسہر می یه دا ئه دا، وه به (مُقابل) ی ئه وانہ ی (میل) ی می یه تی (زیاد) ئه کەن، (حتی) له (خه یالات) یان، (أكثر) ی (ألہه) به (مؤنث) (تصویر) ئه کەن، وه (عہرہب) یش له لایهك (عار) یان به می یه، وه له لایهك (ملائکہ) ئه کەنہ (بنات اللہ)، (ایجاب) ئه کا (جَنب) ی (ذکورہت) (ترجیح) بدری لهسہر (جنب) ی (انوئہت)، (مع أنه) ژن له گه لی (جہت) (حصہ) مہندہ کہ پیاو له و (جہت) ه، بی به شه، (مال) ی پیاو بو کئی یه؟ ہر بو ژنان نیہ؟

ئہ وہ ئه گہر (ورثہ) نیر و می بن ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ئه گہر (أولاد) هکانی (میت) ژن بوون، نیریان تیدا نہ بوون، وه له دوان زیاتر بوون ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ﴾ دوو (ثلث) یان هہ یه، هہرچہ ندی بن ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ هہریهك بوو ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ نیوہی ئی ئہ وہ. ئہ دی ئه گہر دوو کچ بن چہ ندیان ئه دریتی؟ (جمهور) ئه فہرموون: "دوو (ثلث)" وه (بعض) ه ئه فہندی یه (بلا توقف) ئه لئین: " (کلمه) ی (فوق) (زائدہ) "، (جسارہت) ئه مہ یه بلین: " (زیادہ) بو (حُسن) ه " قسہ ی وا ناشیرین کہ مہ، (ابن عباس) ئه فہرموی: "دوو وهك یهك (نصف) ی بو هہ یه " دیارہ (قول) به (مفہوم) ی (مخالفہ) ی (ظرف) ئه کا، (مع ذلك) دوورہ، ئہ و (حکم) ه به (تفریع) هاتووه، لهسہر (توریث) ی (مذکر) و (مؤنث)، ویکرا، له (أیہت) ی (سابق) ئه فامریتہ وه، یهك خوشك له گه لی یهك برا، (ثلث) ئه با، له گه لی خوشك (رُبع) ی بدریتی (داخل) ی ہیچ (حساب) یك نیہ، أما ثلث داخلی حسابہ، کہ وابی وهك (بعض) و (مُحقق) ئه فہرمون (حُکم) ی دوو کچ له (أیہت) ی پیشوو ئه زاندری، هہریهكہ ثلاثکہ، (إحتیاجی) مان هہ یه به (بیان) ی (فوق الأثنتین)، (حاصل) ی (معنی) ئه گہر دوو و (فوق) ی دوو بن، دوو (ثلث) یان هہ یه، ئہ وہ ی (قول) به (مفہوم) نہ کا ئه لئین: " (حال) ی دووان (مسکت) ه، (حُکم) ی له (حدیث) وهرگیراوه " .

﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ بۆ دایک و باوکی مردوو هه یه ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ هه ریه که شهش یهک ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ زۆر یا که م ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ نیر یا می، یهک یان زیاتر، (مثلاً) له شهش، یهک بۆ باوک، یهک بۆ دایک، چوار ئه مینتی بۆ (ولد)، ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ﴾ (غیری) داک و باب میراتگری نه بوو ﴿فَلِأُمَّهِ﴾ **الثُلُثُ** سئ یهک بۆ دایکی، (باقی) بۆ باوکی به (عصبیهت)، (دهمار) نه به (فرض)، (ولوکی) (باقی) دوو هندی پیشکی دایکه، له (سورهت) ی پیشوو، له (فرض) (مساوی) بوون زیپا داپیر و باپیر، (حظ) ئه کهن (مال) ه که بۆ (حفید) یان بی، چونکه (ملحمه) ی سه برپینه (أما) به گویره ی (بعض) ه (أحوال)، (جناب) ی (حق) (محروم) ی نه فه رموون، (حصه) یهکی نه ختی که م و (مساوی) بۆ دانان ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ برا، خوشک، براو خوشک، دوو نیر ﴿فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ﴾ باقی بۆ بابه، ئه وانه به شی دایک که م ئه کهن، خووشیان ناگرن (ابن عباس) (نقصان) ه که ئه داته ئه وان، (إخوة) (جمع) ی (أخ) ه (أخت) به (اخوات) (جمع) ئه کری، وه (جمع) (حقیقهت) ه له سئ یان، بۆ دوو (مجان) ه، بویه (ابن عباس) ئه لی: "ئه گهر دوو بن، یا هه موو می بن، داک (ثلث) ئه با ئه وانه ناگرن" له و (خصوص) ه له گه ل (إمام) ی (عثمان) (مجادله) ی کرد، به لام پاش (نشر) ی (حکم) و (اتفاق) ی (اصحاب)، (رأی) (ابن عباس) (سقوط) ی کرد.

ئهو (أحكام) و (تقسيمات) ه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا﴾ له پاش (وصیهت) ی (أنه) (معروف) و (معتاد) و (مقبول) بی، (یعنی) له پاش (وصیهت) ی دروست ﴿أَوْ دِينٍ﴾ یا (قرض)، پاش (أدی) ی (وصیهت) و (قرض) ئه وه ی مایه وه، (تقسیم) ئه کری ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا﴾ باوکتان، (أولاد) تان، یا کوپتان، نازانن کامیان چاکه یان بۆ ئیوه

نہ زیکترہ؟ (مقصد) لہو (ایہت)ی (کریمہ)، (بیان)ی (حکمت)ی (وضع)ی (أصول) و (قواعدہ) بۆ (إرث)، وہ (إلا) ہر یہک بہ (فکر)ی بہ (خیال)ی، شتیٰ ئہکا، نا (مضبوط) و نا (منتظم)، یہ کئی ئہلئی: " (مال) بۆ باب چاکہ، (أولاد) بۆچیہتی؟ خوی (سعی) بکا، (مال) پہ یا بکا " (حتی) یہ کئی لہ (أغنیاء)ی (ئاوروی)ی (أولاد)ی خوی (محروم) کرد، لہ (وصیہت) نامہی نووسیوی: " لہ (تقالید) و (عادات)ی (عائلہ)ی ئیمہ نیہ، کہ کہ سیک لہ ئیمہ دولہ مہند بی بہ (جد) و (سعی) خوی، بیداتہ (أولاد)، بہ خیوم کردن، (تعلیم)م دان، پاش ئہوہ (واجب)ہ لہ سہر ئہوان (سعی) بکن " . یہ کئی ئہلئی: " باب بۆچیہتی؟ بۆ کئی یہ تی؟ ئہ مرؤ یا سبہی ئہ پروا " لہ (أولاد): پیاوی نان دہر، جہنگاوہر، بی ہیژ و بی (قوہت) با بمری، (مال)ی بۆچیہ؟ بۆ کاکم چاکہ، ئہی بہ خشی، ئہی تہ خشی، بۆ نیران بی، می چیہ؟ ئہ مرؤ لہ مالی باوکیہتی، سبہی ئہ چیہتہ مالی میردی، (مال) لہ (عائلہ)یہ (نقل) ئہکا بۆ (عائلہ)یہ کی تر ئاوو بہ راویان لی داگیر ئہکن، (فلاحت)یان لی تیئہ دہن!

(بعض)ی ئہلین: " نہ خیر بۆ کچ باشہ (خاصة) کہ سی ناشیرین بی، (مال) نہ بی، ئہ مینیتہ وہ، (کسابہت)ی پی ناکری، پیاو بہرہ لایہ، لہ ہر کوئی بی خوی بہرپوہ ئہبا " . (خاصة) ئہ مرؤ گہ لی (قوم) (ترجیح)ی کچان بہ سہر کوراندہ ئہکن، (أفکار) و (أرا)یہ (مُتخالف) و (متباين)! (أما جناب)ی (حق)، (رب)ی ہموانہ، (میل)ی بۆ ئہم و ئہو نیہ، (قواعد) و (قوانین)ی (معقول) و (مقبول)تان بۆ دائہنی، تہ ماشای (حال)ی (قوی) و (ضعیف)، ساغ و ناساغ، نیرو می، دایک و باوک، کور و کچ، ئہکا، بہ (عدالت)ی (نسبی) (حصہت)ان بۆ دائہنی ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ لہ (طرف) (جناب)ی باری ئہو بہ شانہ داندراوہ، (تقدير) و (تعین) کراوہ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (علم) و (حکمت)ی ئہو (دائمی)یہ، ناگورپی بہ (میل)، خوا بی (غرض) و (عوض)ہ، ہر شتہ لہ (مقام)ی خوی دادہنی، (إفراط)ی نیہ، ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا

تَرَكَ أَزْوَاجَكُمْ ﴿ بۆ ئیوه ههیه ئه ی میردینه، نیوی (ترکه) ی ژنتان ﴿ **إِنْ لَمْ**
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴿ ئه گهر هیچ (ولد) یان نه بی نیر یا می له ئیوه یا له (غیر) ی
 ئیوه ﴿ **فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ** ﴿ نیر یا می یه ک یا دوو، له ئیوه یا له یه کیتر
فَلَکُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ ﴿ چواریه ک ﴿ **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا**
أَوْ دَيْنٍ ﴿ (وصیته) ی ژنانیش (مقبول) ه وه ک پیاوان ﴿ **وَلَهُنَّ الرُّبْعُ** ﴿ بۆ
 (أزواج) تان ههیه، چواریه ک، لام وهیه (شرکهت) ی (زوجات) ی (متعدده) له
 (رُبُع) یا له (تُمن) له و (جمع) ه (فهم) ناکری، با (جمع) ی (زوجات) یش بۆ میر
 دروست بی ﴿ **مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَکُمْ وَلَدٌ** ﴿ ئه گهر هیچ مندالتان نه بی
فَإِنْ كَانَ لَکُمْ وَلَدٌ ﴿ له ئه وان، له (غیر) ی ئه وان ﴿ **فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا**
تَرَکْتُمْ ﴿ بۆ ئه وان ههیه، ههشت یه ک له (متروکه) ی ئیوه ﴿ **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ**
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿ (جناب) ی (حق) (إعتنا) به و دوو (قهید) ه ئه فه رموی،
 تا (إهمال) نه کری ﴿ **وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ** ﴿ ئه گهر مرویه که، پیاو بوو، یا ئه گهر
 پیاویک بوو ﴿ **يُورِثُ کَلَالَةً** ﴿ (میرات) ی لی ئه گیرا، خوی (کلاله) بوو، بی
 باب و (ولد) بوو، یا (صاحب) (کلاله) بوو، که میرات گره کان ئه بن له (کلاله)
 زیرا (کلاله) له (لؤغهت) به و (نوع) ه که سه ش ئه لئین، به و (نوع) ه میرات
 گرانه ش، که خوشک و برای دایکی بن، پی یان ئه لئین: " (کلاله) " (وکذا،
 سائر) ی (میرات) گر، (غیر) ی (أصل) و (فرع)، (حتی) خوشک و برای دایک و
 بابی، یا بابی، (أعمام)، (أبناء الأعمام)، (إطلاق) ی (کلاله) یان ئه کریته سه ر،
 وه خزمی (ملاصقُ النسب) نه بی، ئه ویش پی ی ئه لئین: " (کلاله) " ﴿ **أَوْ أَمْرًا**
وَلَهُنَّ ﴿ بۆ پیاوه که، (فکذا) بۆ ژنه که، (إفراد) ی (ضمیر) له بهر (کلمه) ی
 (ئه وه)، یا بۆ مرویه که - نیر یا می - ﴿ **أَخٌ أَوْ أُخْتٌ** ﴿ برایه کی یا خوشکیکی

داکی ھے بوو، ئەوانیتر باسیان لہ (آخری) (سورہت) دئی ﴿فَلِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ﴾ ئەوانەش لہ (ذوی الفروض)ن، ھەریە کە شەش یەکی بۆ ھە یە، نیرو
 مئی (مساوی)یە ﴿فَإِنْ كَانُوا﴾ ئەگەر زپخوشک و زپ برایەکان ﴿أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ﴾ زیاتر بوون، لہ ئەو ھەندە ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ھەموویان
 (شریک)ن لہ سئی یەک، بئی (تفضیل)ی نیڕ لە سەر مئی، ئەمە (قربابەت)ی دایکە،
 ئەو ھە لہ (إيجابات)ی (صله)ی (رحم)ە، کە (تَسَائُلُونَ بەا)یە، لام وایە، ئەو ھە
 لای (عرب) زۆر گران بوە، و ھە ئەزانم لای کورد، زۆر گرانە ئەبب بۆ (رابطە)ی
 (فطری) (إنسان) (تحکم) لہ خۆی بکا ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾
 لەبەر ئەو گرانیە، لیترە ئەفەرموی ﴿غَيْرَ مُضْكَارٍ﴾ بە (إقرار) بۆ (غیری)
 (ورثە)، (أغلب) ئەو (نوع) ھە کە سانە ئارەزوو ئەکەن ھەموو (مال) ھە کە
 بھەوتینن، میراتە کە یان نەبیتە ئی زپ خوشک و زپ برایان (خاصة) زپ خوشک
 ﴿وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (وصیەت)ی زۆر (أكیدە) لہ (طرف) خوا، ئیو ھەش زۆر
 (إعتنا) بکەن، بە میرات دان بە (کلالە)، (نَخْوَةَ)ی (جاهلیەت) (ترك) بکەن،
 تەماشای (قربی)ی (تکون) بکەن، ھەردوو کە لہ یەک (معمل) دروست کراون
 (مادە)ی (أصلی)یە کە، لہو (شخص) ھە (إستحصال) بکری، یا لہ (شخص)ی
 تر؟ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ ھەر ئەو خوا یە زۆر (عالم) و زانایە، ئەو (شرع) ھە دانایە
 ﴿حَلِيمٌ﴾ (صرف)ی (نظر) ئەکا لہ گە لی شت، (ولو) پییشی ناخوشە،
 ئیو ھەش (حَلِيم) بن (تحکم) بکەن (عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)
 ﴿تِلْكَ﴾ ئەو ھە (نکر) کرا لہ (أحكام)ی (أیتام) و (میرات) ﴿حُدُودُ
 اللَّهِ﴾ ناوانی خوا یە، (حُدود)ی خوا ی مە بە زینن، (حفظ)ی بکەن ﴿وَمَنْ
 يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ لہ ھەر (حکم)یک بئی ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿۱۲﴾ یهك و دوو، نا زیاتر ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ (سعی) بکهن،
 بۆ چوونه ناویانن چونه دهر، نیه ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (دُخُولِ) (دُخُولِ)
 (خُلُودِ)، (فلاح) و (نیل)ی (خیر)یکی گه وره یه، له (حَقَّتْ)دا، (نسبته)ی
 له گه ل (ترکه) و (مهریکه) نیه ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ له (إِجْرًا) و
 (قُبُولِ)ی (أَحْكَامِ) ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ تیپه ری له (حُدُودِ)ی خوا، بیشکینئ
 ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ ئه وه ی (تجاوز)ی بۆ کردیه، له گه لی نیه، ته نها خوی ئه هاوینه
 ئاگر ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ به ته نها ئه مینیتته وه، وای له و (حسرهت)ه! ﴿وَلَهُ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (جزا)ی (أهل)ی (کبر)، (عذاب)ی ره زیلاننه یه
 ﴿وَالَّتِي﴾ ئه و ژنانه ی بی (أمر)ی خواو پیغه مبه ره کهن ﴿يَأْتِيكَ الْفَحِشَةُ
 مِنْ نِسَائِكَ﴾ (فاحشه) ئه هینن، (یعنی) (زنا)، به (رأی)ی (جمهور)، پان
 پانوکئی، به (رأی)ی (ابو مسلمی اصفهانی)، له ژنانی ئیوه که (صاحب) میړ
 بن ﴿فَأَسْشَهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ چوار (شاهد) له خوتان، (یعنی) پیاو
 (طلب) بکهن، (شاهدی)یان له سه ره بدهن، دیاره له (زمان)ی (تشریح) ژن و
 پیاو زور تیکه لآو بوو ون، (قابل) بوه پیاو ئاگادار بن، له سه ره (زنا) و (سحاق) و
 (سیئات)ی (خفیه)ی ژنان، ئه مرپوش له شاران، نا (أُمَّا) له لادی یان وایه، وا
 ئه بی پووبه پروو به سه ریان دا ئه چن ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ ئه گه ره (شاهدی)یان دا،
 له سه ره ئه وان چوار (شاهد) ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (حپس)یان بکهن له
 مال خویان، یا مالی (مُخْتَارِ) یا (محبس)ی (حکومهت)، (مَنَعِ)ی (إِخْتِلاطِ)یان
 بکهن له گه ل پیاو، یا له گه ل یهك، له سه ره (رأی) (أبومسلم) ﴿حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ
 الْمَوْتَ﴾ تا ئه مرن، ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (۱۵) یا خوا ری یه کیان بۆ
 ئه کاته وه، (بنا) به (قَوْلِ)ی (جمهور) به (حَدِّ)ی (زنا)، (بنا) به (رأی) (ابو

مسلم) بہ (شفا) لہ (مَرَضِی (سحاق)، (أَكْثَر) نُهَلِّين: نُهَو (حُكْم) ہ (نسخ) بُوہ، بہ (حَدِّی (زنا)، (ابوسلیمان) ی (خطابی) نُهَفَرَمُوئِ: " (نسخ) نیہ، لہبہر (غایہت) " نُهَمَش قَسَہِیہ جَوَانِہ ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ﴾ نُهَو دَوو کہسہی نیر و می، (بکر) لہ (قول) ی (جمهور)، کہوابی لہ (الَّذَانِ) (تغلیب) ی (مُذَكَّر) کراوہ لہسہر (مُؤَنَّث)، (حقیقہ) جئِی نیہ، (مقام) ی (التباس) ہ، یا نُهَو دَوو پیاوہی لہ نُیُوہ، کہ (فاحشہ) نُهَہِینن، (یعنی لواطہ) نُهَکَہن، (بنا) بہ فہرموودہی (ابو مسلم) ﴿فَعَاذُوهُمَا﴾ بہہر (نوع) یِک کہ (مُوافِق) ی (حال) یان بزائن، کہ بترسین و (توبہ) بکہن ﴿فَإِنْ تَابَا﴾ نُهَگَہر (توبہ) یان کرد ﴿وَأَصْلَحَا﴾ (إِصْلَاح) ی (حال) ی خُوَیان کرد، لہو (دنائت) ہ، (نفرت) یان (حاصل) کرد، کہ جاریر نہ چنہوہ سہری ﴿فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا﴾ لَی یان بگہرین، (أُذِيَّت) یان مہدہن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ ﴿١٦﴾ نُیُوہش پہپرہوی وا بکہن، لہ (رأی) ی (ابو مسلم) (نسخ) نیہ، وہ لہ (رأی) ی (جمهور) یش (ممکن) ہ بلین: (نسخ) نیہ، بہ (حَدِّی (زنا) (تعیب) ی (عذاب) و (أُذِيَّت) نُهَکا " نایا لہ (رأی) ی (جمهور) و (رأی) ی (ابو مسلم) کامیان باشترہ؟ (سواد) ی (أعظم) لہ (مُفَسِّرین) - (حَتَّى) (سَيِّدِی أَلُوَسِي) - (ترجیح) ی (رأی) ی (جمهور) نُهَدَہن، (أَمَّا مُجَدِّدِی (مصری) و (تلمیذ) ی (عصری)، (تأیید) ی (قول) ی (أبو مسلم) یان کردوہ، (حَقُّ الْإِنصَافِ) (ظاہر) ی (عبارت) ی (قرآن) زُور (مُوافِق) ہ لہ گہل (رأی) (ابو مسلم)، (جَارٌّ) (مجرور) لہ (بَین) ی (طرفین) دَوورو دریزہ، لای نُیِمہ (مُہم) (بیان) ی (مناسبہ) یہ، (فاحشہ) چ (زنا) بی، چ (سحاق)، چ (لواط)، (إِحتِیاجِی) مان بہ (بیان) ی (نظم) ہ یہ، (سابقاً) (أمر) ی فہرموو: " بہ (تقوی) ی (أرحام) و پاراستنی وہ (حفظ) ی، وہ (أحكام) ی (أیتام) و (تقسیم) ی (تَرکة) ی لہسہر (صلہ) ی (رحم) دامہزاند " (وارد) ی (خاطر) نُهَبِی کہ سیک - چ نیر، چ می - لہ (أساسا رحم) تیک بدا، رپی

(نسل) بگری (مناسب) وایہ، (هتك) ی (حقوق) ی بگری، له (میرات) (محروم) بی، (آنہ) (جناب) ی (حق) ئہ فہرموی: "ناء"، "ئوانہ (محروم) نابن، (جزا) یان ئہدری، تا (إصلاح) بین، له سہر ئیوہش (لازم) ہ (تربیہ) یان بدہن، له (میل) ی (فحشیات) پاکیان بکہ نہوہ، نہک له (مال) (محروم) یان بکہن " زیرا ئوانہ، له گہل (مورث) ی خویمان (قطع) ی (رحم) یان نہ کردوہ، ئوہ (سیئہ) یہ کہہ، له (میل) ی (نفسانی) و کہم (قوہت) ی (ایمان) (ارتکاب) یان کردوہ.

(جناب) ی (حق)، ہہرچہ ند (توآب) ہ، بہ لام (قبول) ی (توبہ) ناکا، بہ ہہر (طرن) ی بی، بہ لکوو (تائب) سی (قسم) ہ، (أول) یان ئہ مانہن: کہ له و (آیہت) ہ وہرئہ گیری ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (قبول) ی (توبہ) له سہر خوا، بہ (وجہ) ی (لزم) ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ﴾ ہہر بؤ ئوانہ یہ، خراپہ بکہن، له رووی نہ فامی و نہ زانی (کأنہ) (جاهل) ن، کہ ئو (فعل) ہ گوناہہ ئہ کہن، له بہر (غضب) یا (شدت) ی (میل)، (غافل) ئہ بن، بہ دلشیان دا نایہ، کہ ئو کارہ (خراپ) ہ، گوناہہ ﴿ ثُمَّ ﴾ کہ بہ خوہاتنہوہ ﴿ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ (تأخیر) ی (توبہ) ناکہن، دہر (حال) (انابہت) ئہ کہن، (متأثر) ئہ بن، (خجالہت) ئہ یان گری، (قبول) ی (توبہ) ی ئو (نوع) ہ (تائب) ہ بہ (إتفاق) ی (سنی) وہ (معتزلی) (واجب) ہ، (إختلاف) یان له (جہت) ی (وجوب) ہ، (بیضاوی) و وان، (تفسیر) ی (من قریب) بہ (قبل حضور الموت) ئہ کہ نہوہ، (حقاً) ئہ مہ زور دوورہ، (رہونہق) ی (توبہ) نایہ لی، (روح) ی (آیہت) ہ کہ ئہ با، فہرموودہ ی پیغہ مبہر " (خوا (قبول) ی (توبہ) ی (عبد) ی خوئی ئہ کا (ما لم یغرغر) " (دلالت) له و (مدعی) یہ ناکا، (ظاہر) ہ کہ (مراد) (غرغرہ) ی مردن نیہ، بہ لکو (مقصود) ی ئوہ یہ: (توبہ) (مادام) بہ دل بی، غہ لده غہ لده ی زوبانی نہ بی خوا (قبول) ی ئوہرموی. (بعض) یکی ئوہرموون: " پیش ئوہ ی (محبہت) ی گوناہ، له دلیان (سرایہت) بکا، (راسخ) بی. " ئہ مہ ناشیرین نیہ زیرا

(محبّت)ی گوناھ، لہ دِلدا کہ شین بوو، زور دوورہ، (صاحب)ی (توبہ) بکا،
 ئە گەر بیشیکا، کہ م وایہ بہ دلّ بی ﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (جناب)ی (حق)
 (وفا) بہ (وعد)ی خوئی ئە فہ رموی، (تخلف)ی (وعد) - (بالاتفاق) - بؤ خوای
 (مُحال)ہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بہ ہموو شت، ئەز (جُمْلہ) (إخلاصی) ئەو
 (تائب)انہ یہ لہ (توبہ) ﴿حَكِيمًا﴾ (خلق) لہ (حکیم) ناوہ شیئہ وہ، وہ
 کاری نابہ جی ناکا.

(قسم)ی دووہ م لہو (ایہت)ہ وەرئہ گیرئ ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ (مُبالات) ناکہن، (أنواع)ی گوناھ ئە کەن، گوئی نادەنہ
 (توبہ)، (أهمیّت)ی نادەنئ ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ هتا کہ مردن
 (حاضر)ی سہر یہ کیك بوو، لہ ئەوان (طبیعی) (مقصد) ئەمہ نیہ، ہموو ویکرا
 بمرن ﴿قَالَ إِنِّي بُبْتُ الْأَكْنَ﴾ خویہ پە شیمانم روو پە شم، شہرمہ سارم، (توبہ)
 ہزار (توبہ)، ئەوانہ (توبہ)یان بؤ نیہ، (توبہ)یان، (توبہ) نیہ، (بالفرض)
 ئە گەر چاک بیئہ وہ، کۆنہ گورکہ کہی جارانہ ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
 كُفَّارٌ﴾ (توبہ) بؤ ئەوانہ ش نیہ، بہ (کافر)ی ئەمرن ئەو (نوع)ہ (تائب)ہ
 لہ گەل (کافر) (فرق)ی نیہ، ئەو (توبہ) بؤ (ہیئت)ی (اجتماعی) و (إصلاح)ی
 (نفس)ی (تربیہ)ی (روح) بی (فائدہ)یہ، ئەو (نوع)ہ گوناھکارانہ، بؤ (أُمَّت)
 (ضرر)یان لہ (کافر) زورترہ، (مقصد)مان ئەوہ نیہ، (قَبْلَ الْمَوْتِ) (توبہ)
 (قبول) نیہ، بہ (قطعی)، بہ لکوو (مقصد) ئەوہ یہ، لہ سہر خوا (قبول)ی (لازم)
 نیہ.

(قسم)ی (ثالث)، (بین القسمین)ہ، ئەویش وەك (مُجدد)ی (مصری) ئەلئ: تا
 نہ زیکتر لہ گوناھ (توبہ) بکەن، ئومیدی (قبول) زورترہ، تا لہ گوناھ دوورتر
 (توبہ) بکەن ئومیدی (قبول) کہ مترہ، گوناھکار وەك نہ ساغ وایہ، سی (دور)ی

ههیه، له (دَوْر)ی (أَوَّل) (علاج) (قطعی)یه، له (دَوْر)ی سئیه م (هلاک) (مُحَقَّق)ه لازم ئه بئی له سهر خوا، ئهوی مه یانهیه، له (تَحْت)ی (أَمَل)ه، به (قَوَّهت) یا (ضعیف) ﴿أَوْلَتِيكَ﴾ ئهوانه ی که (توبه)ناکهن تا (حضور)ی(موت)، زبیرا قسه لهوانهیه ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾ (مهیا)مان کردیه بوئهوان ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (عذاب)ی، (جفا)یه به ئیش، (أیهت) زور (ظاهرة) لهمه، که ئهوه ی بمری بی(توبه)، (عذاب) ئه چیژی (تأویل)ی (أیهت) له بهر (مُخَالَفَه)ی (مُعْتَزَلِي)یان، (قیمهت)ی (أیهت)ه که نایه لی، ترسی گونا هکاران که م ئه کا، (لاشک) گونا ه (قاطع)ی (رَحْم)ه - (بَيْنَ الْعِبَادِ) - (قاطع)ی (رحمهت)ی (إلهی)یه، (توبه)، (رابطه)، گری ئه داته وه، تا زوو بی، چا تر گری ئه خوا (وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) ئه و (أیهت)ه (کریمه)، به (مُنَاسِب)ی (أیهت)ی (إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا) که وته (بین)، و(إِلَّا) قسه (حالا) هه ر له (إِثْر)ه ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ (حُر) - چ می، چ نیر- نابی به (موروث)، له (زمان)ی (جاهلی) دوو (عادهت) هه بوه، که سیک بمردایه، خزمانی ده ستیان به سهر ژنه که ی دا ئه گرت، (حظ)یان کردبا، یه کیان ماره ی ئه کرد، یا ئه یاندا به شوو، یا نه یان ئه دا به شوو، ئه مایه وه، ئه وان خو یان به (أحق) ئه زانی له (أولیا)ی ئا فره ته که، که سیک ژنیکی هه بوایه، وه خوشی نه ویستبایه، (طلاق)ی نه ئه دا، به لکو بمری (میرات)ی بگری، (جناب)ی (حق) له هه ردوو (عادهت) (مسلمان)ان (نهی) ئه کا، ئه ی (ئه هلی) (ایمان)، بو ئیوه دروست نیه، به تو بزی و (غلبه)ی خو تان، ژن وه ربگرن به (میرات)، بیانکه نه (مال)ی (موروث)، وه بو تان نیه، ژن دابنن هه تا ئه مری وه (میرات)ی لی وه ربگرن، ئه و (جبر)ه و (شدهت)ه، له سهر ژنان بو ئیوه نیه ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ئه ی (أهل)ی (ایمان) (تضییق)یان مه کهن، (جفا)یان مه دن ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ تَيْتُمُوهُنَّ﴾ تا کو (مجبور) بین، (فدیة)ی (نجات) بدهن وه (راضی)

ببن، به ناچاری به (خُلِع)، ئەو (تضییق) ه ئەكەن، تاكو (بعض) ه شتهكى، كه پیتان داون، ببهن، ئەمه (لأمة ت) ه، (سبحان الله) ئەو (لأمة ت) ه (الآن) یش دهوام ئەكا، ئەگەر چی زۆر ئەبی، ژن (جفا) ئە دا، ته نگه (نفس) ی ئەكا، تا هەرچی پی ی دراوه، لی ی بسه ندریته وه، (أما قرآن) ئەمه به دوور ئەزانئ، (أنته) ئەمه له گه ل (انسانیهت) نابئ، ژن به (نظر) خواو (رسول) ی خوا (خزمت) یان زۆره، (لازم) ه لای میردی (مُحترم) بی، به هیچ (وَجَه) ره نجیده ی نه كا ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (فاحشه) لی ره، به (معنا) ی (نُشون) و (سوء) ی (خُلُق) و به دره وشتی یه، لای (قتاده) و (ابن عباس) و (جماعت) یك له و (حالات) ه، بۆتان هه یه (تضییق) یان بکهن، تاكو به (بدل) ی (طلاق) یان بدهن، (مع أنه) له (قرآن) ده باره ی (ناشیزه) (تفصیل) ی هه یه، وه لای (أبو علی جُبائی) (مُراد) له (فاحشه) (زنا) یه، وه لای (أبو مسلم) پان پانوکئی یه، وه (جزا) ی (حپس) ه، وهك رابردوو، (ذاتاً تفسیر) ی (عُضل) به (حپس) کراوه ته وه ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ﴾ گوزه ران له گه ل ژنان بکهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ به خووشی، له (دُنیا) له وه خووشتر نیه، كه ژن و میرد له گه ل یهك ریك و پیک بن، یه کتریان خووش بوئ، یه کتریان لا به (حرمت) بی، له که م و کورتی یهک ببورن، لام وه یه (إنسان) له ده ره وه، هه ر غه میکی هه بی، كه هاته وه ناو چوار دیواری خوئی، له گه ل (مال) و مندالی به (صُحبهت) و (تولفهت) رایان بوارد، هیچ (کدر) ی له دلدا نامینی، (خلاصه)، خووشی، خووشی (عائله وی) یه ناخووشی، ناخووشی (عائله وی) یه ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ ئە گه ر (صُحبهت) و (مُعاشره) ی ئەوانتان لا ناخووش بوو، هه روا به (میل) ی دل، بی (میل) بوون له گه لیان (تحکم) له خووتان بکهن، پی له (نفس) ی خووتان بنین (إظهار) نه گه ویستی مه کهن ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ وهك (أیهت) ی (قتال)، (حقیقه) ئە وهش (قتال) یکه له گه ل (نفس)، گه لی شت وایه، (انسان) پیی ناخووشه، (مع أنه) که کردی، (خیر) ی لی ئە بینئ، نه زیکه ئە وهش وایی،

﴿وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (۱۹) گہ لیکنان دیت لہ ژنہ نہ گہ ویستہ کہی، گہ لی (خیری) زیاتر دیت لہ ژنہ خوشہ ویستہ کہی یا ژنیکی (گرہ) اندوہ، دواہیہ گہ لی چاکہی لی دیوہ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ ئہی (ئہل)ی (ئیمان) وہ (مقصود) دیارہ، میردہ کانن ﴿أَسْتَبْدَالِ زَوْجِ مَكَانِ زَوْجٍ﴾ دانانی ژنیکی کہ (میل)تان لہ گہ لی نہ بی، لہ جی وی، ژنیکی کہ بہ (میل) بن لہ گہ لی، نہ گورپنہ وہ، وہک دہرویشہ سہرسہریہ کان، (الآن)یش ژنان ئہ گورپنہ وہ، (خلاصہ) ئہ گہر ژنتان (طلاق)دان ﴿وَأَتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (مال)یکی ژورتان دابوہ یہ کیکی لہ ئہ وان، یا لہ (ذمّہ)ی خوتان گرتبوو ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾. (ادنی)یہ، کہ می لہو (مال)ہ و ہرمہ گرن، چ جایہ ژور؟ ﴿أَتَأْخُذُونَ بِهْتَنًا وَإِنَّمَا مِثْنًا﴾ (۲۰)؟ ئایا ئہو (شئی)ہ و ہرئہ گرن، بہو بوختان و گوناہی ژور ئاشکراو (مجبور)؟ ئہ مہش (معتاد)یان بوہ، کہ ئارہ زوویان کردبایہ، ژنیکی بہینن، وہ ژنیکی (طلاق) بدہن، (افترا)یہ وایان بہ ژنہ کہ ئہ کرد، کہ (مجبور) بیی (فدیہ) بدہا، وہ بہو (مال)ہ ژنہ نوی یہ کہی پی بہینن، بہ لی (عالم)ی (بشریہت) و اتی ئہ گہن (مقصد) لہ (زواج) ہلاووتیکہ یہ، ئہ مرپو لہ گہ ل ئہو ژنہ یہ، سبہی لہ گہ ل ژنی تر، ئہ وہ یان بہرہ لآ ئہ کا، چی بہ سہردی؟ چوں ئہ ژیہ؟ گوئی ناداتی لہ ہہ زاری یہک (حقوق)ی (عائلہ) نازانی، یا بشزانی، (رعایہت)ی ناکا، گہ لیکنان دیتووون، لہ بہر (مارہ)یی نہ بوایہ، ہہر رۆژہ ژنیکی ئہ ہینا، وہ یہ کیکی (طلاق) ئہ دا. لہ (اکثر)ی (أقطار) (نوع)ہ (تنبہ)ی بوہ، بو (فساد)ی ئہو (أحوال)ہ، بہ لام لہ (ملہت)ی ئیمہ نا (شکری) نہ بی، (الآن) کان کما کان) دیومہ ئافرہ تیکی مندالہ کی بہ دواوہ بوہ، دہستی یہ کیکی گرتوہ، یہ کیکی لہ باوہش دابوہ، (حاملہ)ش بوہ، میردی (طلاق)ی داوہ، کچہ تیمیکی لینگ بہ ترشاوی یہ کیتری ہیناوہ، ئہی وا لہ (إنصاف) و (مروہت)ی (بشر)! وہ (بالعکس) لہ دہرہ وہ لہو (بین)ہ، ژنیکی ہہشت

(أولاد) ی به جی ہیشت، وه به دووکه وت. (الهی) (اصلاح) ی ئه و (بشر) ه، چؤن
 ئه کری؟! له ناو کورده واری له وه تی (کُتِبَ) ی (مَذْهَب) ی (حنفی) په یا بوه، وه
 ئه لَین: "لای (إمام) ی (أعظم) بی پرس و (رضا) ی (ولی) أفرهت خوی پی
 (ماره) ئه کری" ده رکه ی کچ و بیوه ژن به دووکه وتن کراوه ته وه ﴿وَكَيْفَ
 تَأْخُذُونَهُ﴾؟ ئه مه چؤن ئه بی؟ یا خود جی ی (تعجب) ه، ئیوه ئه و (مال) ه ی
 داوتانه، وه ری بگرنه وه؟ هه مووی یا (بعض) یکی ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
 بَعْضٍ﴾ (افضاء) (کنایه ت) ه له (جماع)، لای (أهل) ی (تحقیق)، وه (بعض) ی
 ئه ی که نه (کنایه ت) له (خلوه ت)، ئه مه زؤر جوان نیه، زیرا (خلوه ت)
 (معنا) ی وا ناشیرین نیه که به (کنایه ت) یکی ناسکانه (تعبیر) ی لی بدریته وه،
 له هه موو (لسان) ی که سیك تۆزی هۆشی هه بی، شتی ناشیرین به (عبارت) ی
 جوان و (لطیف) ئه دا ئه کا، (حتی خلوه) ئه مه نده ناسکه، (قابل) ه بیی به
 (کنایه ت) له (جماع) ئه مه فه رموده ی (علمای) ی (فقه) و (تفسیر) ه، (أما) له
 (قاموس) و (صحاح) به ده رئه که وی: (إفضاء) که به (إلی) (تعدیه) بکا، به
 (معنا) ی (جماع) یا (خلوه ت) ه، هه رچی هه یه، (مقصد) ئه مه یه، که ئه و
 (ئه حوالات) ی (أنس) و (محبته) و هه مده می و (إتحاد) و (حُلُول)، که له
 (بین) ی ئیوه (جریان) ی کردوه، (بالمَرَّه) (مُنَافِي) یه، له گه ل ئه و (طمع) و
 (لأمت) ه جای (إنکار) و (تعجب) ه، (خاصه) له ئه وانه ی که له (إسلامه تی) دا
 به (ولد) بووین، پاش چه ند (قرن) که (أبا) و (أجداد) یان (مسلمان) بووین
 چؤن ئه و (نوع) ه (سخافه ت) ه، به (خاطر) ا ئه دن؟ ﴿وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ
 مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (۲۱) ئه وان له ئیوه یان وه رگرتوه، (عهد) و په یمانی به
 (قوه ت) ئه و (ميثاق) ه ئایا (شرعی) یه، یان (طبعی) یه؟ (جمهور) له سه ر
 (قول) ی (أول) ن، ئه مه له (صُلب) ی (عقد) (نکر) ئه کرا، ئه یان ووت: "خوا
 له سه ر توو بی، به چاکی رای بگری، یا به (إحسان) به ره لای بکه ی" (بعض) یك

ئەلین: "له (أوامر)ی (الهی) وەرگیراوه، ئەهی که نه (حُسن)ی (مُعاشره)، (أما مُجدد)ی (مصری) ئەلئ: "ئەمه (فطری)یه، وهك (إفضا)یه که، ئەوه ئەو (عهد)ه (فطری)یه، که خوا کردوویه تی به (أیهت)یک له (آیات)ی خوئی، که له (نفس)ی خوټان (زوج)ی بو (خلق) کردوون، وه (مودهت) و (رحمهت)ی هاویشتیته (بین)ی ئیوه، ئەوه ئەو (أیهت)یه، که ژن له هه مووشت زیاتر (إعتماد)ی ئەداته سهه، (ترك)ی داک و باب و براو خوشک و (قوم) و (عشیرهت)ی خوئی، به لکوو دهست له (دار) و (دیار) هه لئه گری، خوئی ئەهاوئته باوهشی پیاویکی (غریب)ی (أجنبی)، ئەگەر (إعتماد)ی له سهه ئەم (عواطف)ه نه بی، بو وا ئەکا؟ "ئەوجا بیینه سهه رباسی (مارهیی)، ئایا گران بی، باشه؟ یا سووک؟ من لام وایه، به (أطوار) و به (أحوال) ئەگورپی، وهک (سابقاً عرض)م کردن، گه لئیک که سم دیتوه، له بهر زوری (مارهیی) ژنی نه بوایه، ژنی خوئی (طلاق) ئەدا بویه ژنه کورد ئەلین: " (مارهیی) کۆله گه ی ناوما له " ئەگەر ئەم ترسه نه بی، مارهیی تا سووک تر بی، چاکتره، بویه (حضرهت)ی (إمام)ی (عمر) پاش (تقرر)ی (إسلام) و (تأدب)ی (عرب) به (أداب)ی (دین)، له سهه (منبر) (نهی) له (مُغالات)ی (مهر) فهرموو، ئەگه رچی ئەلین: " پیریژنی (إعتراض)ی لی گرت وه ئەویش (إعتراف)ی به (قصور)ی خوئی کرد " به لام (نهی) (عمر)ی (مُوافق)ی (حال) و (وهقت) بووه، وه له گه ل ئەم (أیهت)ه - (یعنی) - (وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا) ههچ (مُنافات)ی نیه، لام وایه بویه (إمامیه) (روایهت)ی ئەکه ن، که (إعتراض)ی پیریژن (وارد) بی، و (طعن)ی (طووسی) (توجه) بو (عمر) بکا، (قوشه جی) له (شرح)ی (تجرید)ی (طووسی) دا (نقل)یان لی ئەکا، که فهرموویه تی: "ئەوهی مارهیی کچی خوئی زور بکا، ئەهی هاوئمه (بيتُ المال) " لای من (شبهه) نیه، ئەمه هه لئه سته، و(إلا) (مُحدثین)ی (کرام) (نقل)یان ئەکرد (وعلى كل حال) (طووسی) و (أشباه)ی (غلطن)، وه ئەو (نوع)ه (خطأ)ه (مُنافی) نیه له گه ل (منصب)ی (خلافت)، وه (عمر) (سقوط) ناکا له و (مقام)ه (عالی)یه، ئەگەر وابوایه، چۆن

پیریژن، تووانی (إعتراض) بگری له (عمر)؟ (عمر)یش له (کمال)ی (تواضع) (اعتراض)ه که ی (قبول) کرد، (علی) و (أحزاب)ی (علی) ئه یانتوانی بلین: "توو بهو (جهل)ه وه (حق)ی (خلافهت)ت نیه" که ئه وان (مجال)ی ئه و (طعن)ه یان نه بوو، (طعن)ی (طووسی) چ (أثر)یکی هه یه؟ کهر سواری و، له و (مهیدان)ه (طاقهت)ی (طعن)ی له کوئی بوو؟ به لام (ملا)ی سه رکاغه ز، ئه وی (حظ) بکا، ئه ی لی، (موسی سلامه)ی (مصری) قسه یه کی خویش ئه کا، ئه لی: (عمر) له (حقیقهت)دا، (کته)یه بوو، له (أخلاق)ی (عجیبه)، که ئه و (أخلاق)ه (غایه) الغایهت) بوو، له (متانهت) و (ثبات) و (محاسبه)ی (نفس)و گه لی شت، زور و که م، ورد و درشت، (عمر) (ملا) نه بوو، (فه یله سوف) نه بوو، به لکو (دفعه)یه خوئی به خوئی پی که نی، که ژنیك (أصلاح)ی (خطأ)ی کرد، (لکن) (عمر) له (خُلُق)دان وه ک (جبل)ی (راسخ) بوو، (سائری) (ناس) وه ک خوئی بوون، (کافی)یه بو (أُمَّت)یک، (نابغه)یه وه ک (عُمر)ی (فاروق)یان لی هه لکه وی، له چه ند سالیکی که م، (نصف)ی (عالم) (فتح) بکه ن! "به لی، وایه، مه لایه تی (صرف) و (نحو) و ئه مانه، که لکی (إداره)ی (مُلک) و (سلطنهت) ناگری، (علم)ی (إداره) و (سیاسهت) به ده ست هه موو که س نا که وی هه موو (ملا)یانی (عراق) و (حجاز) نینیوکیکی (فیصل)یان تی نابی، له (میادین)ی (سیاسهت) (خطیب)یک بوو، که (خطبا)ی سه ر (منابر) لال ئه بوون، نه یان ئه توانی (شه قه)ی (شفه) بکه ن، (مع أنه) (ملا) نه بوو، (أما) به (أخلاق) و به (سیاسهت) بوو، بوو به (زعیم) بوو به (مُلک)، (تأسیس)ی (دولهت)ی (عراق)ی کرد، (حقاً) (فیصل) ئه گه رچی (نسباً علوی) و (حیدری) بوو، (أما حسباً ومشریباً) (عُمری) بوو، (ره حمه تی خوای لی بی).

(عادهت)یکی تریش هه بوو، له (عادات)ی (جاهلیه)، که سیك مردبا، کوپی ئه و زرداکی خوئی ماره ئه کرد، (حضرهت)ی (کبریائی) (نهی) له ئه وه ئه کا ئه فه رموی: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ماره مه که ن،

ئەو ژنانە ی که باوکی ئیوێ مارەیان کردبوون، لە (أصل)، ژنی (أجنبي) (نسبەت) ی بۆ باوک و کور، وەك یەكە، گە لێ بوە، باوک بە تەمای ژنیک بوە، کورپی مارە ی کردووە وە (بالعکس) یش زۆرە، ئەو (حُرمت) ه لەبەر (شرف) ی باوکه، لەبەر (حفظ) ی (شرف) ی (عائله) یه، ئەگەر ئەو (سد) نەکرابا، چونکە (أمل) یکی (حلال) بوونی ئەبوو، زۆر نەزیک بوو، (فَحَشِيَّات) لە (عائله) دا رووبدا، (أُمًّا) که (طمع) بپرا، (میل) ی نایه لێ، لای (بعض) ی (نکاح) بە (معنا) ی (جماع) ه، لای وایه، (موطوئە) ی باب (ولو) بە (زنا) بی، لە کور (حرام) ئەبی، لام وایه ئەو (مبالغه) یه، بۆ (حفظ) ی (مقام) ی (أبوّهت) ! ئەگەرچی (زانی) و (زانیه)، لە (نظر) (شرع) بی (شرف) ن، (حق) ی (إحترام) یان نیه. وە (حُکم) ی (نکاح) ی (زانیه) لە (سوره) ی (نور) دا دی.

و (معلوم) ه هیچ (حُکم) ی (شامل) ی (ماقبل) ی نابی، (حَتَّى) ئەمه، (قاعدە) یه (بين الدول) ه، (أُمًّا) ئەگەر (أثر) یکی لێ پاشه کهوت بوو، ئەبی (حکم) ی چۆن بی؟ (حُکم) ی (إبقاء) لما کان علی ما کان) لە (سیر) و (بەدەر ئەکهوێ) (محصول) ی ئەو جۆرە (نکاح) ه لەناو (صحاب) اندە هەبوون مەبادا (تعیر) و (تعییب) بکری، وە (حکم) یان لەسەر بکری، بە (ولد الزنا) که (حکم) یکی (مطوي) یه، (إستثنا) یه کی (مُتَّصل) ئەکا، ئەفەرموی ﴿إِلَّا مَا قَدَّ سَكْفَ٤﴾ ئەو ه ی رابرد، رابرد، (شرع) بە (أولاد) ی (صحیح) یان (قبول) ئەکا، (نسب) یان (نسب) ی باوکیانە، (لکن بعد النهی) ئەگەر (معاذالله) شتیکی وا بی، (زنا) یه، (ولد) ی لێ پەیا بی، بیژی یه، (بنا) بهو (تقریر) ه (إستثنا) یه کی زۆر جوان و بهجی یه. (زمخشری) و (أتباع) ی ئەو ئەی که نه (تعليق) به (مُحال) (یعنی): زردا کتان لێ (حلال) نابی، (إلا) ئەوانه ی، که رابردوون و مردوون، وە ئەو ه ش (مُحال) ه، که وابی (حلال) بوونی زردا ک (مُحال) ه، ئەگەرچی (سید) ی (ألووسی) بهو (معنا) یه (راضی) یه، ئەی کاته وینه یی (حَتَّى) یلجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَا٥) (أُمًّا) لای من زۆر دووره، نەزیکه وەك (يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَا٥)

بی، (بعض) یك ئەلین: " (ما) ی (مَا نَكَّحَ) (ما) ی (مصدری) یه " (یعنی) ماره کردن، وهك ماره کردنی (أبا) تان، (ابن جریر) ئەمه ی (إختیار) کردوه، (لكن) لای ئیمه زۆر (تافه) ه، وه (استثنا) یه كه ش زۆر بۆ (معنا) و (قیمهت) ئەبی ﴿إِنَّهُ﴾ (نكاح) ی زرداك (مبغوض) و (مُحَقَّر) و سووكه ﴿كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ زۆر (قبح) و (مبغوض) بوه، (حتی) ئەشیان كرد وه پێشیان ئەگوت: " (نكاح) ی (مقت) " ئەگەر (ولد) یان بووبا، پێ یان ئەووت: " (ممقوت) ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٢﴾ ری یه خراپه، (معنا) ی (أفعال) ی (مدح) و (ذم)، له كوردی وهك (عربی) (أذا) ناكری، (إمام) (رازی) و (أمثال) ی، له (خیال) بازانی (مفسرین)، ئەفه رموون: " ماره كرنی زرداك ناشیرینه، به (عقل) وه به (شرع) وه به (عادهت)، ئەو سۆ (كلمه) هه ریهك، (إشارة) یه، بۆ (مرتبه) یهك، له (مراتب) ی (قبح) (فاحشه) بۆ (عقلی) (مقت) بۆ (شرعی)، (سَاءَ) بۆ (عادهت). " ئەگەر (مقت) (مقت) ی (عندالله) بی، وهك (ألوسی) ئەلی، باشه، (أما) ئەگەر (مقت) (مقت) ی (عند ذوی المروآت) بی، نا، بۆیه (بعض) یك ئەلین: " (فاحشه) (إشارة) یه بۆ (شرعی)، (مقت) بۆ (عقلی)، (سید رشید) (مرتبه) یهك له (قبح) (زیاد) ئەكا، كه (قبح) ی (فطری) و (طبیعی) یه، (قبح) ی (شرعی) له (نهی) (إستفاده) ئەكا، وه (بالجمله) شتی ناشیرینه، له (غایهت) ی ناشیرینی، (سید) ی (ألوسی) (نقل) ئەكا، له (براء) (رضي الله عنه)، ئەفه رموئ: " تووشی (خال) م بووم، ئالای پێ بوو، ووتم: " بۆ كوئ ئەچی؟ ووتی: " پیغه مبه ر منی ناردوه، بۆ لای پیاویك، كه باوه ژنی خۆی ماره کردوه، له ئەستووی بدهم، (مال) ی بهینم " ئەم (آیهت) ه (كریمه) (رابطه) یه به (قوّهت) ه، بۆ (نظم) ی (سابق) و (لاحق) ی، بۆیه پاش (تحريم) ی زرداك ئەفه رموئ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ زرداك (حرام) بی، دایکی (حقه تی) قسه ی تیا نیه ﴿وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ ﴿ دایکتان، کچتان، خوشکتان، پوورتان - چ دایکی، چ باوکی - کچانی براتان، کچانی خوشکتان، (یعنی) برازاو خوارزا، لیتان (حرام) کراوہ (کأنہ فطرہت) (حرام) ی کردوو ون، ئەگەر (إفساد) ی (فطرہت) نہ کرابا، (حاجہت) نہ بوو، (شرع) (حرام) یان بکا، (مقصد) لەو (حُرْمَت) ہ دیارہ، (حُرْمَت) ی (زواج) ہ، کہ سَک ئارہ زوو ئەکا (سَرِّی) (تحریم) ی ئەو خزمہ نہ زیکانہ بزانی، تہ ماشای (قانون) ی (زواج) بکا، چ (تألیف) ی (ألیاس غضبانی)، چ (تألیف) ی (مُحَمَّدُ السَّبَاعِي)، (حقیقۃً) دوو (کتیب) ن، شایانی (مُطالعة) ن لە ترسی دریزی نہ با، چہند (فصل) یکم (ترجمہ) ئە کرد، بہ کوردی، وہ لەو (تفسیر) ہ ئەم نووسی ﴿ **وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ** ﴾ داکی شیریش وہک داکی (حقیقی) (حرام) ہ، ئایا ژئی، جاری یا دوو، بہ لکوو چوار و پینچ، شیر ئەداتہ مندالیک، پی ی ئەلین: "داکی شیر، دایان؟" برواناکہم، ئەبی (زمان) یکی بہ خیوبکا، تا (لایق) ئەبی، پی ی بلین: "دایک" (بناءً علیہ) بہ (دفعہ) یہک، یا پینچ جار، شیردان، (حرام) ئەبی؟ لە (حدیث) وہرگیراوہ، (مع الاسف) بہ (صُرہت) ی (قطعی) ئەو (مسئله) (مُهمّہ) لە (صاحب) ی (شریعت) وہرنہ گیراوہ، بہ (إختلافات) و (إضطرابات) ہاتوہ، تا ئەمپو، (مُجتہد) ہکان (خلاف) یان بوہ، (مُقلد) ہکانیش، بہ (نصرہت) ی (قول) ی (إمام) ی خویان خەریک بووون وہ لە (عجایبات) ہ، ئەلین: "لہو (عبارہت) ہ (إستدلال) ئە کری، لەسەر پەنج (رضعۃ) " ئەگەر (عبارہت) (واللّٰئِي أَرْضَعْنَكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) بوایہ، (دلالت) ی لە یہک (تۆبہت) ئە کرد (شیخ) ی (سیوطی) ئەلئ: "ئەو (سؤال) ہ لەمن کراوہ، (جواب) ی لە (بین) ی دوو چاومہ، (أُمّا) (رَجُل) یکی (رشید)، یا کہ سیکی کہ لە (علم) دا، (قصر) یکی (مشید) ی ہہیہ، چی (جواب) داوہ تہوہ؟ ئەمہ نہزیک ی دوو سالہ، کہس کہ سیکی بہ (حرف) یک (تزیین) نہ کردووہ وہ (ناظر) ی بہقلینچکی چاو تہ ماشای نہ کردووہ، من ئەگەر (حظ) بکہم چہند (مانعات) ی لەسەر ئەنووسم... الی آخرہ " وہ (سیدی الووسی) خوی ماندوو

کردوہ، گڑی یا (کشف)ی ئو (س)ہ بکا، بہ لام چی وای نہ گوتوہ، پوولیک
 بیئی، ئویش وەك (سیوطی)، گہ لّی لاف و گہ زافی لیداوہ، خوئی بہ سہر
 (علمای) (عصر) ہہ لّشہ نگاندوہ، ئہم قسانہ لای من ئہ فسانہ یہ، ئو
 (دعوایہ)، وەك مہ تہ لّو کەن سہد ئافہرین لہو (ملا یہ، کہ (جواب)ی نہ دایہ وہ،
 (حاصلی) لہ بہر (خیالات) و (منازعات)ی خوئیان، ئاگایان لہ (تحقیق) نہ ماوہ،
 بہ (خلافی) ماوہ، (مع ائہ) ئہ بوایہ، بہ (تواتر) لہ (رسل)ی (اکرم) و یاران
 وہ ربگیری ﴿وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ﴾ خوشکی شیریش وەك خوشکی
 (حقیقی) (حرام)ہ، چ کچی راست دایان بی، چ کچی شیری، وہ (سائر)ی
 (اقارب)ی دایان، وەك (اقارب)ی دایک (حرام)ہ، (رسول)ی (مُجتبَا) ئہ فہرموی:
 " (حرام)ہ لہ (رضاع) ئہ وہی (حرام)ہ لہ (نسب) " (یعنی) لہو کہ سہی کہ
 شیری خواردوہ، (حُرمت) لہ ئہ وہ وہ، بّو (اقارب)ی (سرایت) ناکا
 ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ کچی ژنی
 (إنسان) لہ (غیر) پیئی ئہ لّین: (ربیبہ) بہ خیو کراو، ئہ گہر لہ (تربیبہ) و باوش و
 (حمایت)ی دای (بالاتفاق) - (حرام)ہ، وہ (الّا خلاف)ی تیا یہ، (جمهور)
 ئہ لّین: " (علی الإطلاق) (حرام)ہ " ئہ گہر دوا یہ میردیکی تر بکا، ئو کچی
 لہ ویش ئہ بی، (حرام)ہ، ئہ فہرمون: "ئہم (قید)ہ، لہ بہر (مُوافقہ)ی (غالب)ہ،
 چونکی (علی الأكثر) بہ گچکھی، وینہ لای میردی دایکیان ﴿مِنَ نِّسَائِكُمْ
 الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ئو (ربیبہ) آنہ لہو ژنانہ تان بن کہ (دخول) تان پی
 کردین، (یعنی) بہ (نفس)ی مارہ کردن (حرام) نابن بہ لکو پییشی نالّین:
 " (ربیبہ) " (خصوص) کہ نہ گواسترایتہ وہ، (خلوہت)یش لای (إمامی) (حنفی)
 (حکم)ی (دخول)ی ہہ یہ، وہ (کذا وطأ)ی (حرام) (لکن) لای (إمام)ی (شافعی)
 (زنا) (حکم)ی (جماع)ی (حلال)ی نیہ، (ظاهر) وایہ (حق) ئہ مہ بی ﴿فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ با بشینہ مالتان، لہ

(حمایہت) و (عنایہت) تان دابن، (مثلاً) ژنہ کہ ہات وہ نہ خووش بوو، (ممکن الدخول) نہ بوو، پاش مانگیك، دوو مانگ مرد، کچہ کہی لی (حرام) نابی ﴿وَحَلَّيْلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ ئەو ژنانہی کہ (حلال) بوو ون، بو کورتان، چ (بالفعل) (دخول) یان پی کردبن، یا مارہ کرابن، بہ مارہی یہکی دروست ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ئەو کورپانہی کہ لہ پشتی خووتانن، (سید رشید) ئەفہرموی: " (بعض) ٲك لہ (علما) ی (ملہت) ئەلین: ئەمہ (إعتراض) ہ، لہ ژنی کورپی شیری، وہ ئەوہ لہو (مقام) ہ (مُتَبَادِر) ہ " (أُمَّا) ژنی (مُتَبَنِّي) لیئرہ بہ (خیال) دانایہ، (مسئلہ) ی (تَبَنِّي) (أساساً) (هدم) کراوہ، وہ باسی لہ (سورہ) ی (أحزاب) دی، (لکن) چوار (إمام) ی (صاحب) (مذهب) لہ سہر (حُرْمَتِي) ژنی کورپی (رضاعی)، (أُمَّا) (إمام) ی (شافعی) دوو (قول) ی ہہیہ: (قول) بہ (حرمت) ی، لای (مقلد) ہکانی (معتبر) ہ، (أبن قیِّم) (عالم) ی (حرہ) - (من حيث الدليل) - (نصرہت) ی (قول) ی (سابق) ی داوہ (سید رشید) بہ (تفصیل) (نقل) ی فہرموہ، (ذاتاً) (قسم) ٲك لہ (علما) ی (أحرار) وہك: (أبن الحزم)، (أبن تیمیہ)، (أبن القیِّم) تہ ماشای (دلیل) ئەکەن، (مبالات) بہ (مخالفہ) ی (أئمہ) ناکەن، کہ سیك (نصرہت) ی (قول) ی (أئمہ) کان بدا، (حق) ی وایہ (دلیل) و (حجّہت) بہینئ، وہ بہ (دلیل) و (حجّت) (نصرت) یان بدا، نہك قسہی ناشیرین و سووک وچرووک، دہر (حق) ئەو (نوع) ہ (ملا) یانہ بکا، بہ (تکفیر) و (تضلیل)، (تنفیر) ی (عالم) بکا، لہ (علم) و (حقایق) ی ئەو (ذوات) ہ (کرام) ہ، من گہ لی جار (وصیہت) ئەکەم لہ (تلامیذ) ی خوّم: گوئ نہدہنہ (طعن) ہ ی (ملا) یان لہ (حق) یہك، بہ لکوو تہ ماشای (حق) و (حقیقہت) بکہن.

ئەوہی (مقلد) ہ، قسہی (إمام) ی خوئی بوئی (کافی) یہ، (حق) ی لہ سہر (دلیل) و (برہان) نیہ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ گرد کردنہوہی دوو خوشک، لہ ژیر (نکاح) (حرام) ہ، ئەگہر بہ (ترتیب) بی، دووہم (نکاح) ی (باطل) ہ، (أول) (إبطال) نا کرئ، چونکی (حرام) (حلال) (حرام) ناکا، کہ

(موضوع) ی (حلّ) و (حرمهت) له یهک (ممتان) بن ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
 (فائده) ی وهک (ما سلف) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (معنی) ی
 (زمخشری) له گه لّ ئه م (ذیل) ه ریک ناکه وی، چونکی (مبالغه) له (تحريم)،
 (موافق) نیه له گه لّ (مقتضی) ی (غفور) و (رحیم)، (جناب) ی (حق) به (لطف) و
 (مرحمهت) ی خوئی (عفو) مان بکا، له (قصور) مان خوش بی.

(جزء) ی (رابع) ته واو بوو، سبهینه ی شه موو، سیّی مانگی (رجب)،
 (موافق) ی (۳۰) (أيلول) ی (رومی)، وه (مُدّه) ی سیّ مانگان هیچمان نه نووسی
 له (تفسیر) له بهر (بعض) یتک (عوارض) و ناساگی، وه هه م له بهر (خدمهت) ی
 باغ و باغچه ی (چنارۆك) له (مُدّه) ی (إصطیاف) مان، (ذاتاً) (ملا) ی بیّ (مُعین)
 گه لّ (سکته) ی ئه که ویته کاروبارو (مصالح) ی (علمیه) ی، خودا (مُعین) مان بیّ
 و (توفیق) مان بدا، له سه ر (إتمام) ی (تفسیر) ی کوردی (۱۳۵۳هـ-۱۹۳۴م).

کوپ، ہموی بۆتان (حلال) کراوه (مُشرکہ) کہ (ایمان) ہیئا، (حلال) ئہبی، (جاریہ) بۆ (عبد) (نکاح)ی دروستہ، بۆ (حر) بہ (شرط) دروستہ، (مرتدہ) کہ گہ پرایہ وہ (نکاح)ی دروستہ، (زانیہ) بۆ (زانی)قسہی تیا نیہ، وہ قسہ مان لہ (عدد) نیہ، (بنا) لہ و (خُلصہ)، کہ لہ (مجدد)ی (مصری) و (تلمیذ)ی (عصری) وەرگیرا، (ایہت) ہیچ (منافات)ی لہ گہ ل (سابق) و (لاحق)ی نیہ بۆ چی (حلال) کراوه، (غیر)ی ئہ و (محرمات)ہ؟ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ بۆ (خاطر)ی (طلب) بکہن، بہ (مال)ی خۆتان، چی (طلب) بکہن؟ (ذکر)ی نہ فہرمووه، (بعض)یک ئہ فہرموون: " (یعنی) جست و جوؤ بکہن، لہ پاش دۆزینہ وہی ژنیکی (لایہق) بہ (حال)ی خۆتان، (نکاح)یان بکہن، (مال)یان ل (صرف) بکہن، ئہمہ بۆ ئہ وانہیہ، کہ دہولہ مہند بن بہ (قرینہ)ی (آتی)، (بعض)یک ئہ لاین: " (نکاح) " (یعنی) (طلب)ی (نکاح) و (تزوج) بکہن، بہ (مال)ی خۆتان، لہ (مہر) و (لوازمات)ی (نکاح) (صرف)ی بکہن، (حال)ی ئیوہش وابی ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ (مقصود)تان لہ (نکاح) (حفظ)ی خۆتان بی، لہ (خلاف)ی (مرضاتی) خوا، (مقصد) لہ (نکاح) پیڈا فسین نیہ، و ہک کہ لہ باب و مریشک، ئہ وہ لہ (معنا)دا، لہ گہ ل (سفاح) زۆر (فرق)ی نیہ بۆیہ ئہ و (نوع)ی کہ سانہ، (قرار) ناگرن، (دائماً) خہریکی ژن (طلاق) دان و ژن ہیئانن، گہ ل ژنیش ہن، (حظ) ئہ کہن، زۆر (طلاق) بدرین زوو میردی تر بکہن.

(أولاً): (مقصد تحصن)، دووہم: (نسل)، سییہم: (تشکل)ی (عائلہ)، بییہ (صاحب)ی (منزل)، ہہریہ کہ (قاعدہ)یہ لہ دوو (طرف)ی (اقتصاد) دہر (عہدہ) بکہن، (اِسْتِحْصَال) لہ میرد، (اِسْتِهْلَاك) لہ ژن.

لہ (بین)ی کوردان (مشہور)ہ، (ژن و مال)، یا (مال و ژن)، (اکثر) (ترجیح)ی (ژن و مال) ئہ کہن، (أما) لہ (واقع)دا، و ہک کوردی ئہ لی: " ژنیش ہہیہ و ژنۆچکہش ہہیہ، بۆ ژن، ژن و مال " گہ لیئک ژن ہن میردیان دہولہ مہند

ئەكەن، مال و (حال)ی خوۆش رێك ئەخەن، من زۆرم دیت، پیاویکی (فقیر) ژنیکی ئەهینا، له (حسن)ی (طالع) ژنیکی باشی به (نصیب) ئەبوو، زۆر نه ئەچوو دەولەمەند ئەبوو، باسیان ئەکردن، من ئەم ووت: "تەماشای بکەن، (إلا) ئەمانە ئەبێ ژنیان باش بێ، مالدارای بکا، به (حُسن)ی (إدارة)یی" (حقیقه) وابوو، (أما) ژنۆچکه بێ (مال) (إدارة) ناکرێ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ (مێهَن) ﴿یَعْنِي﴾ (معاش)ەتان کردن (زوجیەت) (تقرر)ی بهست ﴿فَكَاتُوهُنَّ﴾ (أجورهُنَّ) ﴿(مارهیی)یان به تهواوی بدهن،﴾ (یعنی) (تشطیر) نیه، له (طرف) شارع) (حکم) به (سقوط)ی نیوه مارهیی نیه، (کأنه) ئەو (مههه)، له پاداشتی چاکهیه که، (حق)ی وایه، ببی به (ثواب) و (جزای) چاکه ﴿فَرِيضَةً﴾ ئەو (أجور)ه (مقدر) و (مقطوع)ه ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ﴾ گوناھو گرانی له سهه ئیوه نیه له ئەوهی که خۆتان پێی (راضی) بوو، به (زیاد) له (مسمی)، به کهتر به گهردن ئازا کردن، ههه چۆنی که (عائد)ی خۆتانه (شرع)ی هیچی بۆ (تقدیر) ناکا، ئەو (ایهت)ه بۆ (دفع)ی (توهم)یکه، له (ایهت)ی (سابق)ی ههله ئەستی ﴿مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ له پاش ئەو (مقدر) و (مقطوع)ه خۆتان ههه چۆنی (راض) ئەبن (بأس) نیه، که سێک (إنصاف)ی هه بی ئەزانی، ئەو (ایهت)ه، (دخل)ی له گهه (نکاح)ی (مُتَعَه)ی (شیع) آن نیه (إستدلال)ی ئەوان جای (تعجب)ه، (سید)ی (الووسی) زۆر خووی ماندوو کردوو، (أما حقیقه) بێ جییه، له (موقع)ی (مناسب) (إنشاء الله) قسهی لی ئەکهین ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (حکم) به (مصالح)ی ئیوه ئەکا ئەوهی (شرع) دای ئەنی، هه مووی له (تحت)ی (حکمهت)ه، بۆ (إستکمال)ه له (دین) و (دنیا)، بێ (شك) (مُتَعَه) (مصلحهت) یکی گه وادی نه بێ، چی تیا نیه.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ ھەرکەسی لہ ئیوہ (مالی) نہ بوو،
 (قوہت) ی (مال) ی ئەوہندہ بوو ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ مارہ
 بکا ژنانی (حر) و (ایمان) دار، وەخۆشی (حر) بوو ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
 با مارہ بکا ئەو ژنانہی کہ لہ دەستی ئیوہیہ ﴿مِنْ فَنَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ لہ
 (جاریہ) کانی (ایمان) دار ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ﴾ ئەگەر بلّیین: " (ایمان) ی
 (آما) یان فرووتہ، (ایمان) ی ئیمہ بہ (قوہت) ہ، (کفائت) ی (ایمان) یان نیہ "
 ئەوہ خوا ئەی زانی، (سر) یکی، (نفسی) یہ، (راجع) ی (عَلَامِ الْغُيُوبِ) ہ ئەگەر
 ئەلّین: " ئیمہ (حر) یین، (ذی شرف) یین " ئەمەش چ نیہ ﴿بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾
 (أصل) ی ھەمووتان یەکە، (ممکن) ہ ژنی زۆر (کریم النفس) لہ (جاری) یاندا
 ھەبی ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ مارہ یان بکەن، بہ (إذن) و (رضای) ئەھلی
 (جاریہ) کان، (سید) یان کہ (أهل) بی، بۆ (أذن)، یا باب، یا (قاض)، (مثلاً) کہ
 (سید) (أهلیت) ی نہبی ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بہ چاکی مارہی
 یان بدەنی، ئەو (ایت) ہ زۆر (ظاهر) ہ، لہ فەرموودہی (إمام) ی (مالک)، کہ
 مارہی بۆ (منکوحہ) کہ یہ، (بنا) لہ سەر ئەو قسہ، (ایت) ہیچ (تقدیر) ی
 پیناوی، وە (تأیید) یش ئەکرئ، بہ (جہت) ی (إذن)، (مادام) (سید) (إذن) ی
 (نکاح) ی دا، (کأنہ) (إذن) ی داوہ کہ مارہی یەکە، بۆ (جاریہ) کہ بی، وەک
 (عبد) کہ (إذن) درا، (لکن) (جمہور) لایان وانیہ، (إذن) ی (نکاح) (مُستَلزِم)
 نیہ، بۆ (تملیک) (مہر)، (لاشک) ئەگەر (مہر) بۆ (سید) با، خوا ئەیتوانی
 بفەرموئ: (وَأَتَوْهُم أَجُورَهُنَّ) (ضمیر) ی (مذکر) (راجع) ی (أهل) ئەبوو،
 وە (حمل) ی (أجور) لہ سەر (نفقات)، دوورہ، (عبارت) ی ئیرہ و (عبارت) ی
 پیئشو وەک یەکن، ھەردووک (أجور) ہ، لہوئ بہ (معنا) یەک، وە لیرہ بہ
 (معنا) یەک، زۆر (معنا) ی، نیہ.

(حال) ی ئه و (جاریه) آنه ش وابی، ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ (محروس) و (محموظ) بن، له
 دنائته و (محقرات) ی (أمور) ﴿غَيْرِ مُسْلِفِحَاتٍ﴾ (زنا) کار نه بن ﴿وَلَا
 مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ (صاحب) ی دوست نه بن، زیڤا دوستایه تی ژنان، -
 (خصوصاً جاریه) - له گه ل پیاوان، (مُظَنِّه) ی (دنائته) ه، ژنی (حُرِّ) له
 (عالم) ی (إسلامی) دا، تا ئه و (عصر) ه، (صاحب) ی دوست و (صدیق) و (خلیل)
 نه بوه، بویه له (سابق) دا، ئه و (قهید) ه ی (ذکر) نه فه رموو، به لام (صداقهت)
 له (بین) ی ژن و پیاو له (غرب) (تَعَمُّم) ی کردوه، ئه گه ر (سوء) ی (أدب) نه با،
 له (حق قرآن)، که (کتاب) ی زور (نزیه) و به (أدب) ه (حکایهت) ی ئه و (نوع) ه
 دوستانه م لیڤه ئه نووسی، (لکن) ئه وانه ی ته ماشای (مجالات) ی (مصری)
 ئه که ن، ئاگیان له و باس و خواسه هیه، ئه و (نوع) ه دوستیه نه زیکه له
 (شرق) یش (سرایهت) بکا، گه لی که س (کیف) یان پی دئی، (أما) (حق الانصاف)
 دوستی و (صداقهت) له (بین) ی نیرو می (تصوّر) ناکرئی، هه رچه ند منیش
 (طرف) داری (حُرِّیهت) ی ژنانم (أما) نه به و (درجه)، (مثل) ه ی کوردی یه:
 هه مووشت به خوئی، و خویش به (معنا) ﴿فَإِذَا أَحْصَنَّا﴾ که به میڤرد کردن،
 خویمان هاویشته (حرز) ی (محکم) و قلایه (متین) ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنَاحِشَةٍ﴾ (زنا)
 وه له سهریان (إثبات) بوو ﴿فَعَلَيْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
 (مقرر) ه (شرعاً)، له سهه ئه وان نیوه ی ئه وه ی، له سهه (کچانی) (حُرِّه) یه له
 (حدّ)، (یعنی)، له سهه، په نجا، (أما رجم) (قبول) ی نیوه ی ناکا، بویه
 (رجم) یان له سهه نیه، (ظاهر) ی وایه، که پیش میڤرد کردن یان، (حد) یان له سهه
 نیه، وه (بعض) یك له سهه ئه و قسه ن، (أما الووسی) ئه فه رموی: " (فائده) ی ئه و
 (ایهت) ه، (دفع) ی (توهم) ی (زیده) یی (حدّ) ه پاش میڤرد کردن، ئه بی لایان
 (محقق) بووبی، که (جاریه) ی بی میڤرد ئه گه ر (زنا) ی کرد، (نصف) ی (حدّ) ی

لہسہر (إجرا) ئہ کرئ، وہ (إلا) ئہم (فائدہ) یہ لہم (ایہت) ہ (فہم) نا کرئ، وہ ئہ یتوانی بفہرموی: (فَعَلَيْهِنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ)۔

(أكثر) ی (علما) (قیاس) ی (عبد) یان لہ (جاریہ) کردوہ، زیرا (علت) ی (تخفیف) ی (عذاب) یہ کہہ، بہ نیرو می یی (فرق) نا کرئ، ئہ گہر کہ سیك بلی: "مقرر) ئوہ یہ، لہ (أحكام) می (تابع) ی نیر ئہ بی، بو (عکس) ی (خلاف) ی ئو (أصل) ہ (مقرر) ئہ لئین: " (ذل) ی (رقبہ) وا (أيجاب) ئہ کات، کہ (إیناث)

بینہ (أصل) بو (ذکور) ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (جوان) ی (نکاح) ی (إماء) بو کہ سیكہ لہ (زنا) بترسی، (قوہت) ی (باہی) ہہ بی، (طاقہت) ی ژنی (حر) ی نہ بی ئہ گہر (تزویج) ی (إماء) ی بو دروست نہ کرئ، زور نہ زیکہ تووشی (زنا) ببی ئہم (ایہت) ہ (صریح) ہ لہ (نفی) (متعہ) ی (شیع) آن، زیرا (متعہ) بہ یہ کدوو روپیہ ریك ئہ کہوئ، وہ ئو (شرط) ہ (شرط) ی (صحہت) ی (نکاح) ی (إماء) یہ، لای (إمام) ی (شافعی) وہ گہ لی (ظاہر) ہ، وہ لای (حنفی) (إرشاد) ہ بو

(أصلح)، (أما) ئوہ زور دوورہ، (بالخاصہ) لہ گہل ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ﴾ (ریك نا کہوئ، (جاریہ) کہم وایہ، بـ (صلح) ی بو (تدبیر) ی (منزل)، وہ لہ لای (عالم) (مُحَقَّر) و (مُهان) ن، وہ (أولاد) یان ئہ بن بہ (مملوک) ی (سید)، پاش ئہمہ زور گرانہ، (إنسان) ی (حر) - (خصوص) لہ (أشراف) - (ولد) ی ببیتہ (عبد) ی کہ سیکیتر، وہ (ممکن) ہ بہ (صوم)، بہ (إشتغال) ی (کسابہت) باہی خوئ

بشکینئ، وہ (إحتلام) یش بو ئووانہ نیوہ (زواج) یکہ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ بوئہ ئہ گہر (مارہ) شیان بکہ، (تجاوز) تان لی ئہ کات لیشتان خوش ئہ بی، (عیب) تان (ستر)

ئہ کات ﴿رَجِيمٌ﴾ زور بہ (مرحمہت) ہ، چارہ سازی دہردہ مہندان ئہ کا۔ (جناب) ی (حق) لہ (إمام) ی (حنفی) خوش بی، کہ فہرموویہ تی: "ئو

(شرط) ہ، (شرط) ی (إرشاد) یہ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ (حضرت) ی (کبریائی) (قصد) ی ئوہ یہ، لہو (إنزال) ی (آیات) ہ بو ئیوہ، (بیان) ی رہوشتی

(أقوام) ی چاک و خراپ بکا ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ بؤ
 ریگاو (منهاج) ی ئەوانی پیشینان، (یعنی) ئی چاکان (هدایهت) تان بدا
 (حاصل) ی چاکه و خراپه (بیان) ئەفهرموئ، تا له خراپه خو بپاریزن، وهپری
 چاکه بگرنه پیش خۆتان ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ به (لطف) و (مرحمهت) - (کرة) بَعْدَ
 (کرة) - روو بکاته ئیوه، (أنه) ئیوه، له گونا بگه پینه وه (جناب) ی (حق) یش
 له (غضب) رووبکاته (مرحمهت) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ئاگاداری
 (أسرار) ه، هیچ شت له (ماضی) و (حال) و (إستقبال)، له (علم) ی ئەو بزر نابی
 (حکیم) ه، (حکم) ی بی (معنا) دانانی، (أحكام) ی ئەو هه موو بؤ (إستکمال) ه،
 بی (فائده) و (مصلحهت) نیه، (تأکیداً) ئەفهرموئ ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ
 عَلَيْكُمْ﴾ وه (مقصد) ی (حِثٌّ) ه له سهر (إطاعه) و بپروا کردن ﴿و﴾ (مقابله)
 له گه له ئەوانه ی که ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا
 عَظِيمًا﴾ ئەوانه ی دواى (هوا) و هه وه سى خویان ئەکه ون، ئاره زوو ئەکه ن،
 ئیوه (میل) بؤ (سیئات) بکه ن، روو له (حسنات) وه رگپرن، (لازم) نیه بلین:
 "ئهوانه کین؟" زبیرا (عنوان) بیان (کافی) یه، هه رکه سئ (تابع) ی (شهوات) ی
 (نفس) بی، (حظ) ئەکا هه موو کهس وه ک ئەو (فاجر) و (فاسق) بی، له مه وپیش
 (شراب) خوره وه، نوپژ نه کهر، له ولاتی زور (مخجول) ده بوون، چونکی که م
 بوون، ئیستا زور بووین، قه شمه ری به (شراب) نه خوران و نوپژ که ران ئەکه ن،
 ئەو (إرادة) (إرادة) یه (تکلیفی) یه، به جئ هینانی (مراد) (حواله) ی (إختیار) ی
 (مُکَلَّف) کراوه، پاداشتی (جزا) یه، (إرادة) یه (خلق) و (أيجاد) نیه، وه (إلا)
 (تخلف) نه ده بوو ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ خودای (تعالی) (إرادة) ئەکا، له
 هه موو (أعمال) و (أفعال) ی (تکلیف) (تخفيف) تان له سهر بکا به (وجه) یك
 (شرائع) تان بؤ دانه نی، له ملتان سووک بی، له شانتان گران نه بی ﴿وَخُلِقَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ کئی (خلق)ی کردووه؟ خوا، خوئی (أحوال)ی (مخلوق)ی خوئی ئەزانئ، به (نسبەت)ی (خلق) (تکلیف)تان لی ئەکا، (إنسان) زوو (مغرور) ئەبی، به خوئی ئەنازی، (مع أنه إنسان ضعيف) ه (خیال)و (هوا) و هه وه سی، له (علم) و (قدرەت) و (إرادة)ی (واسع) تره (مقابل)ی به (میل)ی (شهواتی)، (عقل)ی زۆر فرووته، فووی لی بکه ی با ئە ی با، خوئی ناگرئ، ئەگەر ئەو خوئی بارگران نه کا، خوا باری گران ناکات، ئیوه وهك جووله كان مه كهن، مه بنه (باعث)ی بارگرانی خوۆتان، به (طماع)ی (مال)ی (دنیا) خوۆتان تووشی (دنائەت) و (لامەت) مه كهن ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (بالخاصه) (مهر)ی ژنان، به زۆر و (إفتر) و (بهتان)، دهستی به سهردا مه گرن، به هیچ (وجه)یک (مال)ی خوۆتان له (بین)ی خوۆتان، به بی هووده (صرف) و (هلاک) مه كهن، به (ربا) به (قمار) له بهردی مه دهن، (أما) خواردنی برادهر له (مال)ی برادهر—(خاصة) به (إذن) و (رضا)، (داخل)ی (باطل) نیه، كه سيك بلي: "نهو (ایهت)ه به (ایهت)ی (سوره)ی (نور) (نسخ) بوویته وه"، (غلط)ه، (أبن مسعود) ئەفه رموی: "نهو (ایهت)ه (محكمه)، (نسخ) نه بوویته وه، وه (نسخ) نابیتته وه، تا روژی (قیامەت)" (رضوانی خوای لی بی) ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (صرف)ی (مال) به (معامله) ئایا (داخل)ی (أكل)ی (بالباطل) ئەبی؟ (أكثر) ئەفه رموون: "نا" بویه ئەوه (إستثنا)یه لای ئەوان (منقطع)ه، (كأنه) ئەفه رموی: "(مال)ی خوۆتان به (باطل) مه خوۆن، (لكن) به (تجارهت) (صرف) و (تداول)ی بکه ن" له لای (بعض)یک (متصل)ه له بهر بی (توجيهی) (أبو البقا) ئەو قسه ی لا (ضعيف)ه، (أما) (مجدد)ی (مصری)، (توجيه)یکی (وجیه)ی هه یه، (في الحقيقة) (تجارهت) كه م وایه له (ضرر) (خالی) بی، (خاصه) كه به (قرض)ی بدهن، زۆری ئەهاوینه سهر، ئەگەر (مجبوریهت) نه بی، (مشتري) (راضی) نابی، زۆر وائەبی،

انسان (حظ)ی ئہ چیتہ شتیک، (مال)یکی زوری پیئ ئہدا، کہ دوو (قیمہت)ی
 خوہتہتی، (أما) ئہو (أحوال)ہ نابیتہ (سبب)ی (سد)ی (تجارہت)، چونکی لہ
 (أمر)ی (ہامہ)یہ، (حیات)ی (بشری) پہکی لہ سہر کہوتوہ، ئہ گہر بلئین:
 "(ضروری)یہ" دوور نیہ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ خۆتان مہ کوژن بہ (ترك)ی
 (تجارہت) لہ ترسی (أكل)ی (بالباطل)، مہی کہ نہ (وسوس)ہی، (مادام) خوی
 پیئ (راضی) بی، ئیوہ چۆن خوی لی ئہ پاریزن؟ بیستوومہ (الآن)یش (بعض)ہ
 (جہلہ)یہ لہ (ہندستان)، (نہی) لہ (تجارہت)و (معاملہ) ئہ کہن، نہوہک تووشی
 (ربا)و (ضرر)و (ضرار) ببن، (حقاً) ئہ مہ (جہالہت)ہ، (أمة) بہ (ترك)ی
 (معاملہ)و (تجارہت) ئہ مرئ، خویان خویان ئہ کوژن بیئ (سلاح)، یا خود بہ
 (إستہلا)ی (مال)ی خۆتان، خۆتان مہ کوژن، (قوم)یک (مال)ی خوی لہ بہرد
 بدا، رووت و پرجال ئہ بیئ، ئہ مرئ، (بعض)یک ئہ لئین: "(نہی)یہ لہ (إنتحار)"
 (بعض)ی ئہ فرموون: "(نہی)یہ لہ (مقاتلہ)ی (مسلمان) آن یہ کتر نہ کوژن"
 (بعض)ی ئہ لئین: (نہی)یہ لہ (تجارہت) لہ ناو ولاتی دوشمن، نہوہک بہ تہنہا
 بمینن، وہ مہ یان فہوتینن" (لکن) ئہوہی ئیمہ (إختیار)مان کرد، لہ ہہموان
 (مناسب) ترہ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ بؤیہ ئہو (نوع)ہ (نہی)یہ ئہکا،
 وہ (رہحم)ی خوا (لا ینقطع)ہ، بہ (زہمان) نابہ سترئ، (شرط) وایہ (إنسان)
 خوی (محروم) نہکا، (لاشک) کہ سیئک کہ سیئکی نہوی، (نہی) لہ خراپہی لی ناکا
 ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ئہوہی ئہوہ بکا، (یعنی) (قتل)ی (نفس) بہو گویرہی
 (عرض) کرا، لہ گہل (ما قبل)ی (یعنی) (أكل)ی (أموال) بہ (باطل)، یا ئہوہی
 رابورد، لہ (مجموع)ی (محرمات) لہ (یا أيہا الذین آمنوا لا یحل لکم أن تراثوا
 النساء کرهاً) یا لہ (أول)ی (سورہت)ہوہ تا ئیرہ، (لاشک) (قول)ی (أول) لہ
 ہہموان نہ زیکترہ با (ذلک) بؤ (إشارہ)ی (بعید) بی، چونکی لیئرہ (مقصد)
 (بعد)ی (معنوی)یہ (إستعظام)ی (منہی عنہ)وہ ﴿عَدْوَانَا﴾ (تجاوز) لہ

(حقوق) ی (غیر) ﴿وَوَظَلَمًا﴾ له (نفس) ی خوی ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ پاشان
 ئہی ہاویینہ ناگری، بہ ناگر ئہی سووتینین، (أَصْلًا)، (صلی) بہ (معنا) ی خو
 بہ ناگر گہرم کردنہ وہیہ، ئہوانہ زور بہ ساردی (نواہ) ی (إلہی) یان (تلقی)
 کردوہ، وا (مناسب) ہ، بہ ناگری کہ نایہ تہ (وصف) گہرم بکریئہ وہ
 ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ سووتاندنی وان بہ ناگر، با بہ دوریشی بزائن، یا بہ
 (إعتبار) ی (زمان) دور بی ﴿عَلَى اللَّهِ سِيرًا﴾ (۳۰) لہ سہر خوا ئاسانہ، ہیچ
 گرانی تیا نیہ، بو خوا، کہ سی (توہم) نہ کا خوا (غفور) و (رحیم) ہ، (ممکن) نیہ
 (عذاب) مان بداء، زیڑا (رحم) ی خوا، بو (أهل) ی (عدوان) و (ظلم) نیہ، کہ سی
 نہ لی: "ئیمہ بہ (قوت) و (قدرت) یں بہ (مال) و (خدمہ) و (حشمت) یں" ئہوانہ
 کہ لکیان ناگری، ئہ و رۆژہ تہک و تہنہایہ وہ ہموو دہم لہ بہر دہستی خوا
 دہرناچن، زور خوارو بی (طاقہت) ن، زیندوو کردنہ وہش لہ سہر خوا زور
 (سہل) ہ، کہ وایی (وجہ) ی (عسر) چیہ؟ ﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ
 عَنْهُ﴾ ئہ گہر دور کہ ونہ وہ، لہ و گوناہہ گہ ورنہی، (نہی) تان لی ئہ کری
 ﴿تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (محو) ی گوناہہ گچکہ کانتان ئہ کہ یں، لہ بہر
 (مقابلہ) ی (مقصد) لہ (سیئہ) گوناہی گچکہ یہ، نہک (سیئہ) ہر بہ گوناہی
 گچکہ ئہ لین ئہ مہش (شاهد) ہ، کہ خوی (تعالی) بو ئیوہ (إرادہ) ی (تخفیف)
 ئہ کا.

وہ خو لہ گوناہی گہ ورہ پاراستن ئاسانہ، زیڑا بہ (وجدان) و بہ (شرع)
 دیارہ گوناہی گہ ورہ و گچکہ ہہیہ، ئہ وہی (حضرہتی) باری یا (جناب) ی
 (رسول) (نہی) یان لی کردبی، ہموو لہ یہک (مرتبہ) دا نین، ئہ وہی (آثاری)
 (سیئہ) ی زیاتر بی، بو (ہہیئہت) ی (إجتماعی)، یا بو پیس کردنی (نفس) ی
 (فاعل) گہ ورہ ترو خراپترہ، کہ سیک بلی: "گوناہی (صغیر) ہ نیہ" (وہقت) ہ

بَلِّيم: "ئەو قسە لە گوناھى (كبیره) یە" چونكى (مخالف) ی (نصّ) ی (إلهی) و (أحاديث) ی (نبوی) یە، (تقسیم) ی گوناھ، بۆ (صغیره) و (كبیره) بۆ (معتزلی) یان نیە ئەو وەك (غزالی) ئەفەرموی، لە (دلایل) ی (شرع) زانانداو، وەگەرەیی گوناھ، بە گوێرە ی گەرەیی (ناھى) نیە، بە لكو بە (آثار) یەتی، ئەوانە ی (فرق) یان کردو، (تعريفات) ی (مختلف) یان ھە یە، (تعريف) (جامع) و (مانع) ئەو ھە یە: كە (سید) ی (آلووسی) لە (شیخ الاسلام) ی (بارزی) (نقل) ئەکا: (ھەر گوناھێك) (وعید) یا (حدّ) یا (لعن) ی (مُقرن) بی، لە (نصّ) ی (إلهی) یا (حدیث) ی پیغەمبەر، وە یا خود، (مفسدە) ی وەك (مفسدە) ی یەكێك لە وانە یا زیاتر بی، (كبیره) یە (مثلاً): (فرار) لە شەر (كبیره) یە، (إرشاد) کردنی دوشمن، بۆ سەر (ئوردووی) (إسلام) (مفسدە) ی زیاترە، كە وای بە (طریق الأولى) ئەمەش لە (كبائرە)، با (نھی) لێ نە كرایی، (اما لاشك) لە (حكّم) ی (منصوص) دایە، كە وای خوای (تعالی) (كبیره) ی (إخفا) نە کردو، تاكو (إنسان) لە ھەموو گوناھێك، خۆی بپاریزی، تا تووشی (كبیره) نە بی، ئەو ھە یە (شبه) یە (خلاف) ی (مراد) ی خوایە، لە (تخفيف) لە لێ خۆش بوونی (صغیره). (علما) ی (اصول) گە لێ گوناھیان (نكر) کردو، (أما) ئەوان (مقصود) یان (بیان) ی (كبیره) یە كە، كە (منافی) (عدالت) بی، ببی بە (مانع) بۆ (قبول) ی (روایەت) و (شهادەت)، (نظر) ی ئەوان و (نظر) ی (قرآن) لێك دوورن، (وعلى كلّ حال) گوناھى (كبیره) (حصر) نیە لە ھەوتان، یا لە ئۆیان، (سحر)، (قتل)، (زنا)، (مال) ی ھەتیو خواردن، (ربا) خواردن، (فرار) ی (یوم) ی (زحف)، (قذف)، (عقوق) ی (والدين)، (إلحاد) ی (فی الحرم)، (أكبر) ی (كبائر)ن، (موبات)ن، (والحاصل) (صغیره) و (كبیره) دیارن، لێك جودان، ئیو ھە گەر خۆتان لە (كبائر) بپاریزن، خوای (تعالی) لە (صغائر) تان خۆش ئە بی، بی (توبه) ﴿وَنُدِّخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ ﴿٣١﴾ ئە تان ھاوئیتە جیگایە كی خۆش ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ھەر لە (حكّم) ی (سابق) وە

له (بعضی) (أحوال) (عمومی)، (بشر) (مساوی) ن له وه وه، (طمع) ی بی
 هووده مه کهن، (تمنی) ی ئه و شته مه کهن، که خودا به و شتانه، (بعض) ی یکی
 ئیوه ی له سهر (بعض) یکان (زیده) کردوه، چ له (مواهب) ی (فطری)، چ له
 (مناقب) ی (مکتسبه)، چ له (أمور) ی (دنیوی)، چ (آخری) (طبیعت) ی
 (شریعت) هردووکیان، له سهر (قانون) (تفاوت) داندراون به (هئیهت) ی
 (عمومی) ژن ناگه نه پیاوان، وه (طائفه) ی ژنانیش وه ک پیاوان، خوبه خو
 (تفاوت) یان هه یه، (حیوانات)، (نباتات)، (أشجار)، (معادن)، (نجوم)،
 (شموس)، (أقمار) (متفاوت) ن، (فکری) (بلشفی) (حقیقه) له گه ل (فطرت)
 (موافق) ناکا، به لئ (قابل) ه، (طبقات) ی (أدنی)، به (تعلیم) و (تربیه)، (ترقی)
 بکا، له (سوییه) ی (حاضر) دانه مینی (أما طبقات) ی (بشر) وه ک یه ک (قط)
 نابی، (مادام) به (طبیعه) نه یه ته سهر (تعادل) و (تساوی)، به (قوانین) ی
 (أدیان) و (دولی)، نایه ته سهر (تساوی)، (مع هذا) به (حکم) ی (ما لا یدرک کله
 لا یترک کله) ئه بی (سعی) له (تربیه) ی (عموم) ی بکری ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ههر (مکتسبات) ه، به گویره ی
 (موهوبات) ی جیاوازه، ههر (طائفه) (نصیب) و به شی، له کارو (کسب)
 (مناسب) ی (حال) ی خو یه تی، (بعض) یك (أفراد) له ژنان هه ل ئه که وی له گه لئ
 پیاو زیاتره، (أما) قسه له (عرق) ه، له (هئیهت) ی (عمومی) یه، ئه گهر چی ژن
 له نظر ی (آروپایی) یان له (مقام) ی (ألله) دایه، (أما) ههر ژن، ژن پیر ئه بی،
 (أما) ههر منداله، ههر خه ریکی ئاوینه و پودره یه ئه بی به (عالمه)، به (کاتبه)،
 به (شاعره)، به (مأموره) یه گه وره، (أما) ههر به (غهنج) و (دلال) و نازونووزه
 ﴿وَسَّأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ههر دوو لا له (فضل) ی خودا بخوازن، (سعی)
 بکهن، خه ریکی (زیادی) بن، له (طاعات)، له (خیرات)، له (کمالات)، بو ئه و
 (تفاوت) ه دهر گای (فضل) ی خوا نه به ستراره، بو هردوو (طائفه)، (مهیدان) ی

(مسابقہ) (واسع) ہ، ہر کہس بہ گویرہی خوی ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾
عَلِيمًا ﴿۳۲﴾ (لیاقت) و (استعداد) و (قابلیت) ی ہمووشت ئەزانی، ئەزانی بہ
(تساوی) ئەگەر ببی، (نظام) ی (عالم) تیك ئەچی ہموو (عالم) بن نابی،
ہموو پادشاہ بن نابی، ہموو (مُدبّر) و (سیاسی) بن نابی، بۆیہ
(تقسیم) ی (أعمال) ی داناوہ، ئەبی ہرکہس بہ (عمل) ی خوی (راضی) بی،
(سعی) بکا، لہ (زیدہ) یی و (إتقان) ی ﴿وَلِكُلِّ﴾ لہ (طائفہ) ی (رجال) و
(نساء) ﴿جَعَلْنَا مَوْلَى﴾ (عبید) ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ لہ
(جملہ) ی (ترکہ) ی داك و باب و خزمانی نہزیک ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتِ﴾
أَيْمَانُكُمْ ﴿﴾ لہو (عبد) آنہی کہ بہ گریی دەست بوویتہ (مال) و (مملوک) تان
(لاشك) ئەو (عبد) آنہ، وەك ئیوہ (إنسان) ن، لہ (اساس) ی (خلقت) لہ گەل
ئيوہ (مساوی) ن، بۆچی بہوہ (راضی) ن؟ کہ خودا ئەوانی کردۆتہ (مال) ی
ئيوہ، وەك گاو کہر ئیشیان پی ئەکەن، ئەیان کپن، ئەیان فرۆشن بہ
(میرات) ی وەرئەگرن، ئيوہ ئەگەر (تمنیات) تان (مُنصِف) آنہیہ ئەمانہ لہ گەل
خۆتان (مساوی) بکہن ﴿فَعَاثُوهُمْ نَصِيدِهِمْ﴾ ئەو (نصیب) و (سہم) ی کہ
(عائد) ی (فطرہت) ی خویانہ پییان بدەن، (حقوق) یان (غصب) مەکەن،
ئەمەندە لاتان (محرر) و (مُهان) و (رهزیل) نہ بن وە (إلا) دیارہ (تمنا) تان
(کاذب) ہ، (استبداد)، (طُغیان) ہ، (حسد) ہ بۆ بہو (تفاوت) ہ بی (معنا) یہ
(راضی) ن؟ بۆ بہو (تفاوت) ہ ی کہ (مُقْتَضَى) ی (استعداد) ی (خلقت) و
(انتظام) ی (معیشہت) تانہ، (راضی) نین؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾
شَهِيدًا ﴿۳۳﴾ لہ سەر ہمووشت (خبر) دارہ، (ما فی الضمیر) یان لہوی بزر
نابی، (تفسیر) ی ئەو (ایہت) ہ (کریمہ) بہو (نوع) ہ، لہ (مُلہمات) ی ئەزانم، ئەو
(معنا) ی (مُفسّرین) فہرموویانہ، ہیچی لہ دلّم نہچہسپا، نہ بہ (جہت) ی

(نظم) ی (قرآن)، نہ لہ (طرف) ی (ترکیب) ی (عبارت)، (مُوافق) م نہدیت، (رجا) م لہ (عُلما) ی (کرام) ہہیہ، تہ ماشای ہہردوویکیان بکن ئہوجا بہ (إنصاف) (حکم) بفہرموون ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (شوونات) و (أمور) یان ریک ئہخہن، (سیادہت) یان (سیادہت) ی (حفظ) و (حمایہت) و بہخیوکردنہ، ئہوہش دوو (سبب) ی ہہیہ، (فطری) و (کسبی)، (أول) یان ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ دیارہ ئہو (بعض) ہ، لہ م (بعض) ہ (ممتاز) ہ بہ (خلق)، (حاجہت) بہ (بیان) ناکا، کہسئ ئہوہ (إنکار) بکا، (إنکار) ی (فطریات) ئہکا، یاخود وہک (مجدد) ی (مصری) ئہفہرموی: (إشارة) یہ بؤ ئہمہ، کہ ہہردوویکیان لہ (ہیکل) ی (إجتماعی) بہ (منزلہ) ی (أعضاء)، (أجزاء)، (تفضیل) ی (عضو) یکی، لہسہر (عضو) ہکی تر، وہکی (تفضیل) ی (بعض) ی (أجزاء) ی (بدن) ہ لہسہر (بعض) یکی، (أعضاء) ی (بدن) (بعض) ہکیان (رئیس) ن، (بعض) ہکیان (مرؤوسن)، ئہو بؤ (إنتظام) ہ، (نقص) ی (أجزاء) ی تری تیا نیہ، بہلکو (مرؤوس) لہ (رئیس) (إستفادہ) ئہکا، ئہوہ (نکتہ) یہ زؤر جوانہ، ئہلین: "لاق (فخر) ی لہسہر زگ کرد، ووتی: "من توو پرائہگرم، ئہت گیپرم، ئہگہر من نہبم، توو (مُعطل) ی "زگ ووتی: "خیر، من توو پرائہگرم، ئہت گیپرم، پراوہستانی توو بہ منہوہیہ "مہرجیان کرد، زگ نہی خوارد، تالاق سست بوو، (حرکہ) ی پی نہکرا " بہلی وایہ، ہہر (أعضاء) یہ، (قیمہت) یکی ہہیہ لہویتردا نیہ، ہہمووشی (لازم) ن، بؤ (ہیکل) ی (إنسان)، خودای (تعالی) (خدمت) یکی بہژن سوپاردوہ، لہ (فوق) ی ہہموو (خدمت) آنہ، مندال بوون و بہخیوکردن، بؤیہ ئہبئ پیاو ژن (محافظة) بکا، لہو (مسئلہ) دا پیاو وہک دختوریکہ، شریفقہی لی بدا، (مادہ) بگہینیتہ (مقر) ی (لازم)، بؤ (تکون) ی (سبب) ی (کسبی) ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ئہوہش لہ (ثمرہ) ی (موہبہ) ی (فطری) یہ. (بعض) یکی لہ نہو پہسیدہکانی (تابع) ی (خدعہ) ی

(ٹاوروپایی)، ئه لئین: ئه بوايه ژن و پیاو له (حقوق) ی (إرثی) (مساوی) بان " ئه مه زۆر قسه یه کی (معتل) ه، (ناقص) ه، (أجوف) ه ئه گهر خودا (إمتیان) ی نه دابا ژنان، (لازم) بوو ژن (إرث) وه رنه گری، له هه موو (عصر) و (زمان)، که ژن لای قه و مایی، پیاو به خپوی کردوه، (سعی) و کوشیش وته قه لای پیاو، بو (إداره) ی ژنه، پیاو خووی جانگ له بهر ئه کا بو ژن (لباس) ی ئاوریشم دروست ئه کا، ئه وه نده (میرات) پیدانه (محضاً) له (لطف) ی خودایه، دهر (حق) به (جنس) ی (لطیف)، له و (مقام) ه (مخصوص) (بیان) ی (مزیهت) ی (جنس) ه، وه (إلا) (بعض) ی ژن هه ن، هه زار پیاو ئه هینن (لکن) (مقابل) ی ئه وه، پیاوی واهیه، گه لای له (فوق) ی ئه وه، ئه وه ی (بیان) کرا له (إداره) ی ژن، به (حمایه) و (إنفاق)، (شأن) ی پیاوی چاکه، قسه له (أیمان) نیه، وه ک (سعدی) ئه فهرموئ:

مه بین آن بی (حمیهت) پرا توو هه رگیز

نه خواهه د دید روویی نیک به ختی

ته ن آسانی گوزنیه د ته نرا

زه ن وفورزه ند بگوزاره د به سه ختی

ئهدی ژنی چاک ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ له ژنان ﴿قَانِنَاتٌ﴾ له (أمر) و گوئی میردیانن به گویره ی (أمر) ی خوا ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ بو شووشه ی (ناموس) ی میرد و (شرف) ی خویان، وه هه رچی (إنسان) شه رم بکا، له (إظهاری)، وه ک (مُجَدِّد) ی (مصری) ئه فهرموئ: (خاصه) له (غهبهت) ی میرد. پیغه مبهه ر (صلی الله علیه وسلم) ئه فهرموئ: "چاترینی ژنان ئه و ژنه یه، که ته ماشای بکه ی (کیف) ت خووش بکا، که (أمر) ت پی کرد، (إطاعت) بکا، که لی پی بزر بووی (حفظ) ت بکا، له (مال) ت و (نفس) ی خووی " ئه و پاراستنه ش ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ به و شته ی که خوا ئه وانی پی (حفظ) ئه کا، چپی ئه وه؟

(مروہت) و (شہامہت) ی (إنسانیہت)، کہ ژن (حفظ) ئەکا، لە شتی (ناموس) شکہانانہ، گہ لئ (حیوانات) ئەبینن، (خصوص) بالدار، تا (ممکن) بی، خوئی (تسلیم) ی (غیر) ی (ألیف) ی خوئی ناکا، (حتی) مریشک ئەبینن، ئەوبان و ئەوبان ئەفری، هەلدی، لە بەر کہ لە بابیکی کہ رامی نہ بووی.

(قرآن) ری (وسط) ئەنوینی، لە (بین) ی (إفراط) و (تفریط)، (حکما) ی (غرب) - (حتی بعض) ێک - ، (راضی) نین پی یان بلین: " (جنس) ی (لطیف) " وہ (بعض) ێک ئەیان کہ نہ (آله) ه، (درجہ) ی ژن بلندہ (أما) پیاو لە و بلند ترہ، وہ لە و بلندی یەشدا، (حامی) ی، (سید) ێکی (خادم) ه، ئەو (نوع) ه ژنہ (قابل) ه (إصلاح) ی میرد بکا، چ (حاجت) کہ میرد (نصیحت) ی بکا، (فضل) لە (هجر) و لیدانی ﴿وَاللّٰی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ ئەو ژنانہ ی ترستان لئ یان هہ ی، لە لووت بلندی و بی فەرمانی (کأنه) خوئیان لەوانہ بہرتر ئەزانن، کہ (إطاعه) ی ئیوہ بکەن، وہ (ترفع) ئەکەن، لە (شریعت) و (طبیعت) و هک ئەو تہ پۆلکانہ ی، لە ناو ئەرزى گۆر، بلندابنہ وہ، ئەو (نشوز) ہ (مقابل) ی (قنوت) ه، وہ (مقابلہ) ی (عبارت) وائە نوینی، کہ بفرموی (والنَّاشِزَاتُ) (امأ) لە بەر (رعايت) ی (جانب) ی (جنس) ی (لطیف)، بہو (عبارت) ه جوانہ ی (تعبیر) داوہ تہ وہ (أنه) (حظ) ناکا، (نسبت) ی (نشوز) ی (بالفعل)، بداتہ ئەو خاتونانہ ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ (نصیحت) یان بکەن، (وعظ) یش بہ (نسبت) (حال) ی ئافرہت ئەگۆری، بہ (ظواہر) ترساندن، بہ لە دوژمن پی خوش بوون، بہ نہ کردنی شتی (ظریف) لە (ألْبَسَهُ) ه، لە خشل، (إنسان) خوئی ئەوہ ندہ (عقل) ی هہ ی، بزانی (حال) ی ژنی چیہ؟ لە چی ئەترسی ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

﴿الْمَضَاجِعِ﴾ لە ناو جیگا (ترك) یان بکەن، روویان لئ وہرگیپن، وہ (میل) یان پی مەدەن - (فی الحقیقہ) - ئەمە زۆر بہ (تأثیر) ه، لە (موقع) ی (أنس) و (مُحَبَّه) و هەم ئاغۆش و هاوایی و هاوایی، کہ م وایہ (تحمل) ی ئەو (هجره) بکری، زۆر

نه زیکه، (ترك) ی (ترف) بکا، له گه لی ولات ژن و میرد به ته نها ئه نوون، بو
 ئه وانه (هجر) ی جیگای (مخصوص) (معاشره) (مقصود) ه ﴿وَأَصْرِيُوهُنَّ﴾
 ئه گهر (هجر) (تأثیر) ی نه بوو، لی یان بدهن، به لی دانی (تأدیبی)، برین نه کا،
 ئیسک نه شکینی، لی دانی ژن - (شرعاً) - (مذموم) ه، که سیکی به (وجدان) بی،
 (تحمل) ی (عذاب) ئه کا وه لی ی نادا، له (حدیث) ی (شریف) دا هه یه: (ئایا شه رم
 ناکا، که سیکی، له ئیوه له ژنی خوئی بدا، وه که له (عبد) ئه دا، له (أول) ی روژ،
 دوایه (معاشره) ی بکا، له (آخری روژ؟)، من (۳۸) ساله، (صاحب) ی
 (عائله) م، لی دانی رووی نه داوه ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ پاش لی دانی ئه گهر
 (إطاعه) یان کردن ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ (طلب) ی هیچ ری (وسيله)
 مه که ن له سه ر ئه وان، یا به هیچ ری (ظلم) یان لی مه که ن (عفا الله عما سلف)
 ئه وی رابورد، رابورد، به گله یی و گازانده مه یخه نه وه ناو ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
 كَبِيراً﴾ (۳۴) بَلَنده، گه وره یه، ئیوه ی له سه ر ژنان بَلَنده کردووه، (حق) ی
 گه وره بی تان هه یه، بو (دفع) ی (ترف) ی ژنان، ئه و پیتان بو دائه نی ئه گهر
 ئه وان له (حاده) ی (فطره) لانه دهن، ئیوه ش (حق) ی (بغی) و (تجاوز) تان نیه،
 (جناب) ی (حق) له سه ر (علو) و (کبریائی) خوئی، له (تائب) آن خووش ئه بی
 ئیوه ش و ابن، په پره وی خوای خو تان بکه ن، له (انتقام) ی بترسن، (ظلم) له
 ژنان مه که ن، (علو) ی خو تان مه که نه، مایه ی (عذر) و (تعدي) ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ
 شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ ئه گهر چاره په زیر نه بوو، ئیش له (ترف) گوزه ری کرد که وته
 (دائره) ی (خلاف) و (عداوت)، هه ریه که له وان، که وتنه لایه (مُخالف)، ئیوه
 ئه ی (علاقه) داران، له (طرفین) که (علم) تان بوو، به و (حال) ه ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا﴾ بنیرن پیاوی (معتدل الميل) به (کیاسه) ت و
 (سیاسه) ت (صاحب) ی (قوه) ی (إقناعیه) له (أهل) و (أقارب) ی (طرفین).

گہ لّی جار ئہ بیّ (خلاف) و ناخووشی ئہ کہ ویتہ (بین) ی ژن و میرد، لہ سہر (أوام) و (خیال)، لہ (طرف) ی (حفظ) ی (غیب) دلّ کرمی ئہ بن، ئہ و (نوع) ی (أسرار) ہ، فاش بوونی (بین الاغیار)، ناخوشہ، وہ بہ لکو ناتوانن بویان (إظهار) بکہن (أما) بوّ (أهل) ی خویشانی خویان، ہہر قسہ یہ بیّ، ئہ توانن بیلّین، (وظیقہ) ی ئہ و (حکم) آنہ چیہ؟ (بنا) بہ (رأی) (إمامی علی) ئہ وہ ی (صلاح) یان تیدا دیت لہ (تألیف) و لہ (تفریق) بویان ہہ یہ، (طبعاً) تا (ممکن) بیّ (تألیف)، ئہ گہر (ممکن) نہ بوو، و ہک داغ، کہ (آخر) ی دہرمانہ، (قرار) لہ سہر (تفریق) ئہ دہن، بہ یہ ک (طلاق)، شایہ د پہ شیمان بوونہ وہ، (رجعہ) تان، یا (تجدید) ی (نکاح) بیّ جاش، وہ لہ (أبن عباس) (تفصیل) یّ (نقل) کراوہ، ئہ فہرمویّ: " (حکیمین) تہ ماشای بکہن، (خطا) ی کئی ہہ یانہ، ئہ گہر (خطا) ی میرد بوو، (منع) ی ئہ کہن لہ ژنہ کہ وہ (نفقہ) ی لّی ئہ ستینن، ئہ گہر (خطا) ی ژنہ کہ بوو، (جبر) ی لّی ئہ کہن لہ (إطاعہ) ی میردی، وہ (نفقہ) ی نادہ نیّ، (إطاعہ) ی ئہ کات، ئہ گہر (إتفاق) یان بوو، لہ سہر (جمع) یان لہ سہر (تفریق) یان پہ وایہ، ئہ گہر یہ ک لہ (زوجین) (راضی) بوو، بہ گردبوونہ وہ، ئہ وی تر (راض) نہ بوو، ئہ گہر یہ کیکیان مرد، ئہ وی (راضی) (میرات) ئہ گریّ لہ نا (راضی)، (أما) نا (راضی) لہ (راضی) (میرات) ناگریّ " لای (شیخ حسنی بصری) (حکم) ی (تفریق) یان نیہ، ئہ وہ ش (مذہب) ی (زجاج) ہ، (سید) ی (الووسی) ئہ فہرمویّ: "ئہ وہ (نسبہت) دراوہ، بوّ (إمام) ی (أبو حنیفہ) " لہ (إمام) ی (مالک) (نقل) کراوہ: (بویان ہہ یہ، بہ (خُلج) (تفریق) یان بکہن، ئہ گہر (صلاح) یان لہ (صلح) دا دیت " (سید) ی (الووسی) لہ (بعض) یّ (علما) ی (حنفی) (نقل) ئہ کا: ئہ گہر (خراب) ہ لہ (طرف) میرد بوو، (تفریق) یان ئہ کہن، ئہ گہر لہ (طرف) ژن بوو، بہ (خُلج) لہ سہر (بعض) ہ کی مارہ یی (تفریق) یان ئہ کہن.

(خُلَاصَه) (إِخْتِلَافِ) ی (عُلَمَاءِ) یان (رہونہ ق) ی تہو (حُکْم) ہیان بردو وہ تہ توانین بلیین: "تہ گہر (منشأ) ی (خلاف) (میل) یکی بہ (شدت) بی لہ (طرف) ژنہ کہ بؤ (شخص) یک، یا لہ بی (میلی) یہ تہ واو لہ (طرف) پیاوہ کہ بی، (حق) یان (تفریق) ہ، وہ (إِلَّا) (تألیف) ہ، زیرا لہ (صورہت) ی (اول) (تألیف) (غیر) (قابل) ہ، وہ (فتنہ) و (فساد) ی (قوی) (ملحوظ) ہ" ﴿إِنْ يُرِيدَا﴾ تہو (حکم) آنہ ﴿إِصْلَاحًا﴾ (تألیف) لہ (بین) ی میرد و ژن، ئیش نہ ہاویئہ (قومیت) و (عصبیت)، (عہ ربہ دہ) بکہن، تہو بلی: (خطا) ی تویہ "تہم بلی: نہ خیر (خطا) ی ئیوہیہ" بی (میل) و (محابا) (تحقیق) ی (مسئلہ) بکہن، (فکر) یان لہ سہر (إصلاح) بی، خوا تہ و ہندہ ی پی خوشہ، لہ سہر (حُسن) ی (نیہت) ی تہ وان ﴿يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (جناب) ی (حق) (ألفہت) و (محبہت) تہ ہاویئہ (بین) ی میرد و ژن، کہ وابی، (ضمیر) ی (یریدا) بؤ (حکمین) ہ، (ضمیر) ی (بَيْنَهُمَا)، بؤ (زوجین) ہ، لای (أبن عباس) و (مجاہد) و (ضحاك) و (أبن جُبیر) و (سدی) ہر دوو (ضمیر) بؤ (حکمین) ن، وہ (تجوین) دراوہ ہر دووکی بؤ (زوجین) بی، وکذا) (ضمیر) ی (یریدا) بؤ (زوجین)، (ضمیر) ی (بَيْنَهُمَا) بؤ (حکمین)، رہوا دراوہ.

(أمر) بہ ناردنی (حکمین) بؤ (وجوب) ہ، لای (بعض) یک، بؤ (ندب) ہ، لای (بعض) ی تر، وہ (علی کلا الأمرین) (مسلمان) آن، (إعتنا) یان بہو (أمر) ہ نہ کرد، ہر رایہ، تیک ہلڈانہ، شہ پوشپورہ، (طلاق) دانہ، مارہ بہ جاشہ، کہ س گوی ناداتہ تہو (حکم) ہ (حیکمان) ہیہ. تہو (حکم) آنہ (وکیل) ن، یا (نوعاً ما) (حاکم) ن؟ (سید رشید) تہ فہرموی: " (ظاہر) وایہ، (حاکم) ن" (علی کل حال) (حکم) یان (نافذہ)، چونکی (حکم) لہ (لؤغہت) دا، (حاکم) ہ، ئیمہش تہ لیین: "تہ گہر لہ (طرف) (نفس) ی (زوجین) بی، (وکیل) ن، تہ گہر لہ (طرف) (إمام) یا (نائب) (إمام) بی، (قاضی) ن، (حاکم) ن - (والله أعلم) -" ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾

حَیْرًا ۳۵ ﴿سرّو (علنی) ئیوہ ئہ زانی، ئہ لّین: " (ابن عباس) بہو (ایہت) ہ، (دلیل) ی ہینایتہ سہر (خوارج) ہکانی (انکاری) (تحکیم) یان کرد، لہ (شفاق) و (شہر) ی (حضرت) ی (علی) و (معاویہ)، ئہ یان ووت: " (لا حکم الا للہ) " (یعنی) (أساس) ی (تحکیم) لہ (شریعت) ی (إسلامی) دا ہیہ، لہ گہ لّ ئہ و قسہ (مُنافات) ی نیہ، وہ ہیچ (دلیل) نیہ، لہ سہر (تخصیص) ی نارذنی (حکم)، بہ (مسئلہ) ی (شفاق) ی (زوجین)، رہوشتی (عالم) (شاہدہ)، ئہ گہ نہ لّیم: "ہہ موو" ئہ لّیم: " (اکثر) ی " (شفاق) ی (بین) ی میرد و ژن لہ سہر (مال) ہ، (خاصہ) ئہ گہر ژن (أدنی) (تصرف) یّک بکا، پیاو (قیامت) ی لّی ہلّ ئہستی، زور بوہ، لہ سہر مستہ ساواریک، ہزار شہق و شؤلاق و مہترہقی خواردوہ، وای لّی دراوہ دەستی شکاوہ، ہہ موو (بدن) ی شین و مؤر بوہ، کہ ووتو تہ ناوچی، بؤیہ بہ (خطاب) (عام) ئہ فہرموی: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (عبادہت) ی خوا بکہن، لہ (إطاعہ) ی دہرمہ چن ئہ وہی (أمر) تان پی ئہ کا، بیکہن، ئہ وہی (نہی) تان لّی ئہ کا، مہیکہن یہک لہ (أموامر) ی (إلهی) (أمر) ہ بہ (بعث) ی (حکمین)، (مع الاسف) تا ئہ مرقّ کہس ئہم (أمر) ہی نہ ہیناوہ تہ جیّ.

﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ہیچ شت مہ کہ نہ (شریک) ی، ہاوبہشی ئہو، نہ لہ خواہ تہی، نہ لہ (لیاقت) ی (عبادہت)، نہ (جن)، نہ (انس)، نہ (ملک)، نہ (شمس)، نہ (قمر)، نہ (شعری)، نہ (فلک)، نہ (علی) نہ (ولی) ﴿وَيَا لَوْلَدَيْنِ﴾ **إِحْسَنًا** ﴿چاکہ بکہن دہربارہی باوک و دایکتان بہ چاکہ، (خاصہ) بہ (مال) لہ (وہقت) ی (حاجت)، بہ (اکرام) و (احترام) لہ (وہقت) ی پیری و افتادہ گی، گہ لّی کہس لہ (وہقت) ی (ہرم) (إستخدام) یان ئہ کہن، (شخص) یّک ہہ بوو، (کاتب) ی (طابور) ی (ردیف) لہ (کویہ)، باوکیکی پیری (صالح) ی ہہ بوو، شہو کہ ئہ چوہ (بعض) ی قوناغان، لہ جیاتی (خدمت) کار، (فانوس) ی پی ہلّ

۱. **وَبِذِي الْقُرْبَىٰ** ﴿۳۵﴾ بہ ئہوانہی خاوهنی خزماہتین، وہئہ زانن
 (واسطہ)ی (قرباہت) ژنن ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ ﴿۳۶﴾ چ لہ (أجانب) چ لہ
 (أقارب) خزمی ہیئتو، یا (مسکین) (حق)ی ہیہہ ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾
 جیرانی نہزیک، دراوسی، ہم سایہ ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ جیرانی دور، یا خود
 جیرانی خزم و جیرانی بیگانہ ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ ئہوہی ہاوتہکت بی،
 لہ (سفر) یا لہ مزگہوت، یا لہ (مجلس) ہام و شوت بکا ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾
 (مسافر) (سیاح) بو (نفع)ی (عمومی)، یا لہ سہر ریگا ہل گہرایہوہ ﴿وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ﴿۳۷﴾ (عبد)، (جاریہ)، (قوم)یک کہ (مکلف) بن بہ چاکہ،
 دہربارہی ئہوانہ، جیرانی، (رفاہت)ی (سفر)، ہم (صوحبہتی) ببیتہ
 (موجب)ی (إحسان) لہ (حق)یان، چون بہدی، شہرو شوپ لہ گہل ژن ئہ کہن،
 ئہ گہر (إحسان)یک بکا؟ ئہویش وہک ئیوہ، (صاحب)ی داک و بابہ، (صاحب)ی
 خزمہ، (رقہت)و (رحمہت)ی دہر (حق) (مساکین)و (ایتام) ہیہ، (خاصةً)
 ئہ گہر لہ خزمانی بی، لہ ئہوانہ زیاتر ژنہ بو میرد، وہ (إمام)ی (علی)
 (صاحب)ی (بالجنب)ی بہ ژن (تفسیر) فہرموہ، ئہ گہر لہو (جملہ) ئہویش
 (مراد) نہ بی، لہو (ألیق)ہ، چونکی ئہم ناغووشہ، ہاوسہرہ، ہاونیرہ،
 (مونس)ی (خلوہت)ہ، لہ ہموو (خلق)ی خوا (محرم) ترہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ﴿۳۸﴾ خوی (تعالی) ئہو کہ سانہی خوش ناوی، کہ
 قہ پوز بلندو بہ (دہعیہ) و خوہہ لکیش بن بہ قسہ، ئہو (نوع)ہ کہ سہ
 لہ بہد (أصل) آن زورن، کہ نہختیک دہولہ مہند بوون، یا بوون بہ (مأمور) خویمان
 لی ئہ گورپی، (حتی) (دعیہ)یان ناہینی بلین: " (فلان) کہس باوکمانہ، یا
 (فلان)و (فلان) خزمی ئیمہن " چ جایہ (إحسان)یان لہ گہل بکہن، (لاشک) ئہو

جۆره کهسه، لای خوداو خودایی یان خۆشهویست نین، ئەگەر ئەوانه (نوعاً) (إحسان) یکیان هەبی، هەر نهئیسە، خۆیان هلبدهنهوه (أما) ئەوانی بی (خیر) و بیئر ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ خۆیان (ثقیل)ن، وه (أمر) ئەکه نه خه لکی به (ثقیلی) ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ بزر ئەکه ن، ئەوهی خوا پیئی (کرم) کردوون، له (فضل) و (إحسان) ی خۆی، کهس خیریان لی نابینن، هەر (مال) کۆئه که نه وه، هیچ پیوچ و خۆپایی، وه (بعض) یك هەن چلکن، پیسی بۆری نه وتاوی، زۆر دهوله مهندن، (حظ) ناکه ن کهس بزانی (مال) یان هه یه. (شخص) یك بۆ ئیمه ی (حکایهت) کرد، ووتی: "پیاویک ووتی: " (مقدار) یکی تهواو پارهی (شخص) یکم لایبوو، له خوا به ولاره کهس نهی ئەزانی، رۆژی گوتیان: " (فلان) کهس نه ساغه، چوممه لای و وتم: " چۆنی؟ " ووتی: " زۆر چاکم، چ (بلام) لی نیه " پاش دوو رۆژ، ووتیان: " بی (صحته) ه " چوممه لای (إشاره) م بۆ کرد، ئەنگوستی هاویشته سه ر ده م: " وس " هه ستام ده نگم نه کرد، پاش رۆژیک، ووتیان: " ئەوا ئەمری، له سه ری ئەگریه ن " چووم لی ی نه زیك بوومه وه، هۆشی هه بوو، باز (إشاره) ی کرد: ده نگ مه که، منیش و وتم: " (والله) ی ئەی خۆم " کابرا مرد، نهی ویست، کهس بزانی، پارهی لای من هه یه ! " که سیکی (مقابل) ی (إنعام) ی (إلهی) به و (نوع) ه بی، ئەبی (جزا) ی چی بی؟ (آیه) یی ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (۳۷) (إشاره) ی بۆ ئەفه رموی، پاداشتی (خیا) و (فخر) و (کفر)، (عذاب) یکی به (إهانه) و (تحقیر) ه، (جناب) ی (حق) ئەوانه له (دنیا) و (قیامهت) (رهزیل) و ریسوا ئەکا ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ ئەوانه ی که (مال) ی خۆیان (صرف) ئەکه ن ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ به (پیا) یی و روو بینی خه لکی خوا ئەوانیشی خۆش ناوین، (بخل)، (إنفاق) ی به (پیا) هیچیان

لای خوا خووش نیه. ئەو که سه ی (مال) ی خووی به (ریا) (صرف) ئەکا، ئەگەر بشلی: "من (ایمان) م هیه" راست نیه، بویه ئەفه رموی: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ئەگەر به راستی (ایمان) یان به خوا به روژی واپه سین هه با، بۆ خوا (مال) یان (صرف) ئەکرد.

(إنسان) به (مندال) ی (میل) ی (جود) و (ایثار) ی هیه، ئەگەر یارو یاوه ری باشی هه بی، له گه ل ئەوان به (میل) ی باش گه وره ئەبی، ئەگەر (قرپنا) ی خراپی هه بی، ئەویش (مَشْرَب) ی ئەوان وهر ئەگری، (صُحْبَة) ی ئەوان (تأثیر) ی لی ئەکات ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (۳۸) ئەو که سه ی (شیطان) یارو هه مده می بی، ئەو که سه یه، یا (شیطان)، (رفیق) ی خراپه، ئەوه نده ی به سه، که پی ی ئەلین: "دۆستی (شیطان)" دیاره له (عذاب) یشدا هاو (نیر) یه تی ﴿وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ﴾ چیان له سه ره؟ چ (ضرر) و زیانیان پی ئەگا؟

ئەوانه ی (بخیل) ن، (إنفاق) ناکه ن، وه ئەوانه ی (إنفاق) ئەکه ن به (ریا) ﴿لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ به (ایمان) یکی (صحیح)، (شريك) بۆ خوا په یا نه که ن، نه (شرك) ی (أصغر) نه (شرك) ی (أكبر)، وه (ایمان) یان به روژی (جزا) بی، که هه ره که سه تووشی چاکه وه خراپه ی خووی ئەبی، ئەو روژه، (بیع) و (حُلَّة) و (فدیه) ی تیا نیه ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ بۆ خوا (صرف) ی بکه ن، له باوک و دایکی خویان، له (أقارب) آن، له (فقرا) و (مساکین)، له (جیران) له یاران (سفر) و (حضر)، له (أهل) و (عیال) ی خویان، (مقصد) یان (صله) ی (رحم) و (رضا) مهندی (حضره) ی (کبریائی) بی، له کوکردنه وه چ (فائده) یه کی هیه؟ ته نها ناوو ناوبانگ، بی (ثمره) ی (آخره) با ئەی با، به فیرۆ ئەپوا، ئەوه ی بۆ خوا (إنفاق) بکا، (مدح) و ستایشی ئەکری، ناویشی به چاکه ئەپوا، خووشه ویستیش ئەبی، لای خوا و (عباد) ی خوا، له (قیامه) تیش پاداشتی خووی

وہرئہ گری، چ جایہ (ضرر)؟ قانزاج لہ وہ چاتر نیہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (۳۹)

(أحوال) یان لہ خوا بزر نابی (منویات) یان ئہ زانی، لہ سہر (أعمال) ی (فعلیہ) یان (عذاب) یان ئہ دا، لہ سہر (أعمال) ی (فرضیہ) یان، ئہ گہر بیکن، چاکہ یان ئہ داتہ وہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ خوی (تعالی) (ظلم) ناکا، بہ (قدر) گیکرکہ سوورہیہ کی گچکہ لہ، کہ نہ زیك بی، چا و نہ ی بینی، (بنا) بہ (قول) ی (سدی) وہ ئہ وہ (روایہ ت) کراوہ، لہ (أبن عباس)، و لہ (أبن عباس) (نقل) کراوہ: (ذرہ)، سہری میرووہ. و لیشی (نقل) کراوہ: کہ دہستی ہاویشتہ ناو خؤل، (یعنی) لہ خؤلّی و ہردا، پاشان فووی لی کرد، فہرمووی: " (کلّ) یك لہ وانہ (ذرہ) یہ " وہ (بعض) یك ئہ لئین: " (جزء) یك لہ (أجزاء) ی (ہبا)، کہ لہ تیشکی کولاوکہ ی خانوو ئہ دیتری، (حاصلی) (جناب) ی (باری) (ظلم) ناکا، (معتزلی) و (أهل) ی (سُنّہ ت) (اتفاق) یان ہہیہ، کہ خوا (ظلم) ناکا لای (أهل) ی (سُنّہ ت) ہرچی خوا بیکا، (ظلم) نیہ، چونکی (تصرف) لہ (مُؤلك) ی خوی ئہ کا، ئہ گہر (حضرت) ی (رسالہ ت) پہ ناہ باویتہ ئاگر (ظلم) نیہ، (معتزلی) ئہ فہرموون: " (بعض) ہ شتی واہیہ، ئہ گہر خودا بیکا، (ظلم) ہ، (أما ظلم قبیح) ہ، ئہ وہ ی (قبیح) بی، بؤ خوا (محال) ہ، کہ وابی (ظلم) (محال) ہ، (ممکن) نیہ خوا (ظلم) بکا " ہر دوولا (اتفاق) یان ہہیہ، (جناب) ی (حق) (أجر) ی (مطیع) آن، بہ (ضایع) نادا، لہ بہر (وعد) لای (أهل) ی (سُنّہ ت)، لہ بہر (إستحالیہ) ی (عقلی)، لای (معتزلی)، (في الحقيقة) (ایات) (دلالت) لہ (قول) ی (معتزلی) یان ئہ کا، وہ (مُوافق) ی (قاعدہ) ی (ترغیب) ہ، تہ ماشای (ایات) ی ئیرہ بکن، چ (معنا) یہ کی ہہیہ؟ بلئین: " خوا (مثقال) ہ (ذرہ) یہ ک (ظلم) ناکا، چونکی ہرچی بیکا، (ظلم) نیہ " (عقل) لای (معتزلی) (حاکم) ہ، نہ بہو (معنا) یہ، (حکم) لہ سہر خوا بکا ئہ بی ئہ وہ بکہی، (واجب) ہ، لہ سہرت، ئہ بی ئہ وہ نہ کہی (حرام) ہ لئیت، بہ لکو بہو (معنا) یہ، (عقل) (جزم) ئہ کا، (إعتقاد) ی (راسخ) و (ثابت) ی ہہیہ، کہ شتی ناشیرین لہ خوا ناوہ شیئہ وہ، (محال) ہ

بیگا، (غرض) لہ (ایات)ی (قرآنی) (ظاہرہ)، خودا (قوی) و (قاہرہ)، (أما) گہلی شت ہہیہ، بؤ خوا (محال)ہ، (شیخ)ی (أشعری) سہیری (أصل)ی (إمكان)ی (ذاتی) ئەکا، تا (دائرہ)ی (إرادہ)ی خوداوندی تہنگ نہبی وہ (معتزلی) تہ ماشای (عنوان)ی، (شارعی) و (ہادی) و (مُرسلُ الرُّسلی) ئەکەن ﴿وَأِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا﴾ ئەگەر ئەو (زږه) یه چاکي بی، خوا گه لیکی ئەهاویته سەر، چاکه ی که میش، لای وا زور ئەبی، به (إعتباری) (مکافات) ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (کریم) ئەکا، لہ (طرف)ی خوی (أجر) و پاداشتی گه وره، که لہ (عَظْم) دا، (نسبت)ی لہ گه ل چاکه که نیه، زیده (فضل)ی خوی لہ مه به دهر ئەکه وی، ئەو (نعمت)ه (عظمی) یه ئەکاته (أجر)ی (محض) ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ (مادام) (جنابی) (حق) (ظلم) ناکا، به (قدر)ی (مثقال)ه (زږه) یه (خیر) و (شهر)، که م و زور پاداشتی هه یه، ئەبی (حال)ی (کفره)ی (یهود) و (نصاری) و (سائری) (أمم) چون بی؟ چی بکن؟ چیان به سەر بی روژی (قیامت)؟ که لہ هر (أمهت) یک (شہید) و ناگاداری (أحوال) یانمان هینا، که پیغه مبه ره کانن، ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ ئەی (خاتم الرُّسل) ﴿عَلَى هَتُّؤَلَاءِ﴾ لہ سەر (أمهت)ی خوت ﴿شَهِيدًا﴾ توو و (سائری) (أنبیا) و (رسل) چیان پی ووتن؟ ئەوان چیان کرد؟ ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ ئەوی روژی (حظ) ئەکەن ئەوانه ی (کفران)ی (نعمت)ی خویان کردوه، یا (شريك) یان بؤ په یا کردوه، یا (إنکار)ی (وجود) یان کردوه، - (خاصه) ئەوانه ی (مُختال) و (فخور) - عه ردیان پی ریک بخەن، یا لہ گه ل (أرض) یان ریک بخەن (یعنی) لہ (دنیا) (إستخدام) کرابان، بهر پیی خه لکیان (تسویه) کردبایه نه وه ک تووشی ئەو (فخر) و (مُباهات)ه بووبان، که به (واسطه)ی ئەو (کبریائی) یه تووشی ئەو

(عذاب) و (ذلّهت) و (حقارهت) ه بوون، یا له رۆژی (قیامهت) ئەگەر که ندوکۆسپه یه که هه بی، بیان هاوینه ناوی، (أرض) یان پی ریک بخری (اهل) ی (عرصات) به سه ریاندا پرۆن ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ﴿٤٢﴾ ههچ قسه له خوا بزر ناکهن، به زویانیش نه ی کهن، (أعضاء) (شاهدی) یان له سه ر ئەدا وه (شهید) یش له سه ریان راوه ستاوه، چی (خلاف) بلین، درۆیان لی به ده ر ئەخا ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (أمر) تان کرایه، به (عبادهت)، وه (أهم) ی (عبادهت) نوێژه، وه له چه ند جی یان (أمر) تان پی کرایی ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ نیزیکی نوێژ و (مقام) ی نوێژ مه که ون، هه ر چۆنی ببن ﴿وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ (حال) یش وابی، ئیوه سه رخۆش بن، به چی؟ به (شراب) (بنا) له سه ر (سبب) ی (نزول) که ئەفه رموون. (عبد الرحمنی بنی عوف) (ضیافهت) یکی کرد، (جمع) ی له (صحاب) آنی (دعوته) کرد، (حضرهت) ی (علی) یش له (مدعو) وان بوو، خواردیان و خواردیانه وه، مهستی (صهبا) بوون، نوێژیان کرد، له و (حال) هدا، (عبد الرحمن) خۆی له (روایهت) یك، (حضرهت) ی (علی) له (روایهت) ی تر، (إمام) بوو (سوره) ی (قل یا أيها الکافرون) هی خویند، (لا) یه کانی نه خوینده وه ئەوجا ئەو (ایهت) ه (نزول) ی کرد، ئەمه با وابی، به لام به (نظر) مقام چونکه ئیمه هیشتا له باسی (معاشره) ی (عائله) - به خوشی و ناخوشی - ده رنه چووین (تفسیر) به (سکر) ی نووستن، وه که له (أبن عباس) (نقل) کراوه، زۆر جوانه وه (مناسبه) ی له گه ل (جنوب)، خه یلی هوووه یدایه، ئەوه ی (إنکار) ی (حُسن) ی ئەو (تفسیر) ه بکا، لام وایه خه والوو، له قسه که زۆر چاک حال ی نه بوه لای من (تفسیر) ی به سه ر خوشی مه دامی (کبر) و (مباهات) یش، دوور نیه (حاصلی) به هه ر (سکر) یك بی، تخوونی نوێژ مه که ون ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ وه (سکر) ی خه و به ده ست نوێژ ئەپوا، ﴿وَلَا جُنْبًا﴾ نه زیک مزگه وت مه که ون،

بہلہشی پیسی، ئہوہ (بعض)ی (علما)ی (بلاغت) پیئی ئہلین: " (استخدام) " چونکی (جملہ)ی (حتیٰ تعلموا ما تقولون) (خدمت)ی (معنا)ی نویژ ئہکا، وہ (جملہ)ی ﴿الْأَعَابِرِ سَبِيلٍ﴾ (خدمت)ی (معنا) مزگہوت ئہکا، بؤ (جُنُب) دروستہ، بہ مزگہوت تئ بیپہرئی، لای (شافعی)، با (ضرورت)یش نہبی، ئہگہر (ضرورت) بی، بہ (غیر)ی ناو (مزگہوت)، چ ریگاہ تر نہبی پییدا بپروا، (حاجت) بہ (استثنا) ناکا، (تفسیر)ی (عابری سبیل) بہ (مسافر)، بی (معنا)یہ، وہ (ایہت)ی پیئی (مُشَوِّش) ئہبی. بہ (غیر)ی (عُبُور) دروست نیہ بؤ (جُنُب) ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ﴾ ئہی (جُنُب)ینہ ﴿مَرْضَى﴾ نہخوش بوون ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ لہ (سفر)دا بوون ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ﴾ یا یہکیک لہ ئیوہ (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الطَّاهِرُونَ) دست بہ ئاوی ہات، ئہوہ بؤ دست نویژ شکانہ، بؤیہ (عبارت)ہکہی گؤری ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (بشہرہ)تان بہ (بشہرہ)ی ژنان کہوت، بہ (مقام)ی بہ دہر ئہکہوی (حمل)ی لہسہر (جماع) خوی نیہ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ئاوتان چہنگ نہکہوت - (ولو) بشبئی - (قاعدہ) (أُصُولِي) وہ (أَحَادِيثِ)یش (واردہ)، وا لہ (قضا) ئہخوایئ ئہو (قید)ہ بؤ ہہموان بی، وہ لہو (تقدیر)ہ، (تصریح) بہ (مرضی)و (سفر) بی (فائدہ)یہ، چونکی بؤ (مُقِيم)و ساغیش، کہ ئاو نہبوو، (تَيْمُّم)ہ، (مفسر)ہکان گہلی ئہم بہروئہوبہریان بہو (ایہت)ہ کردوہ، زیرا ئہوہندہ کافی بوو، پاش (حتیٰ تَغْتَسِلُوا) بفہرموی: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) بؤیہ (سید)ی (آلوسی) ئہفہرموی: "ئہو (ایہت)ہ لہ (مُشْكَلَات) (قرآن)ہ " وہ (مُجَدِّد)ی (مصری) ئہلی: "تہماشای بیست و پینج (تفسیر)م کرد، نہم دیت لہواندا (غناء)، وہنہم دیت (قول)یک کہ (سلامت) بی، لہ (تکلف) " بؤیہ ئہو بہ (خلاف)ی (جمہور) ئہفہرموی: " (مرض)و (سفر)، تہنہا خویمان (موجب)ی (رُخْصَت)ن، بؤ (تَيْمُّم)، (عدم)ہ (وجدان)ی ئاو بؤ (مریض)و (مسافر)، (شرط) نیہ " ئیمہ

ئےتوانین (جواب)ی (قاعدہ)ی (أصولی) بدہینہوہ، زیڑا لہ (ایہت)ی (کریمہ)،
 (انتقال) ئےکا، لہ (سبب)ی (جناہت)، بؤ (سبب)ی بیّ دەست نوپڑی، وہ لہ
 (إفراد)ی لہ (معطوف علیہ) بؤ (جملہ)، لہ بہر ئےوہ (قید)ہکہ، بؤ (سبب)ی
 (حدث) ئےپروا، (لکن جواب) لہ بری (فعل)ی، (رسول) و (أصحاب)ی، وہ (رأی)
 ہہموو (فقہا)یان، چؤن ئےدری؟ ئےو (وقائعہ) چؤن (تأویل) ئےکری؟ ئےگہرچی
 (تلمیذ)ی (عصری) خوی ماندوو کردووہ، بہلام بیّ ہوودہیہ، وہ ئیمہ لہسہر
 (رأی جمهور) ئےتوانین بلّیین: " (مرض) و (سفر) (نوعاً ما) (مَظَنَّهُ)یہ بؤ
 (رخصت)، (لکن) پاکی لہ (نظر) (شارع) زؤر (مُهمّ)ہ، (تجوین)ی (غسل)
 نہکردن، نادا (حتی) بؤ نہخوش و (مسافر)، مہگہر ئاوچہنگ نہکہوی، نہبی،
 یانہیہتہ دەست " ئےو (وہقت) ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (یَمّ)ہ بہ (معنا)
 (قصد)ہیہ، (صعيد) خؤلی (مُطلق)، یا خؤلی (مُنبت) یا رووی (أرض)،
 (قول)ی (أخیر)، (مُختار)ی (إمام)ی (أبو حنیفہ)یہ، لایئو بہ بہردو بہ
 (لعل) و (زُمرّد) و (یاقوت) و زیوو زیڑ (تَيَمّم) دروستہ. (ملا)یہ زؤر دہولہمہند و
 (صاحب)ی (مجوہرات) و (نقود) نہبی، بہ (خیال)ی دا نایہ، (جُنُبی) بیّ دەست
 نوپڑی، پہکی لہسہر ئاو بکہوی، بؤ پاک بوونہوہ، ئےگہر ئاو چہنگ نہکہوت،
 بہ (دّر) و (یاقوت) و (لعل)ی بہدہخشانی (تَيَمّم) بکا، (جائزہ)، یا لہ (ضمن)ہ
 (وجہ)ی (أرض)یش دا بی، وہہم (حجر) و (سائر) لہ (بدل) ئاو بؤ (إستنجاء)
 (إستعمال) ئےکرین، کہوابی، (بدل)ی ئاو بؤ (غسل) و دەست نوپڑ خؤل
 ئےمیئی. (طیب) پاک یا (قابل)ی (إنبات) بی، کہوابی بہ ئےرزی سوورکہی
 گیای لیّ شین نہبی، (تَيَمّم) دروست نیہ ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ﴾ دەست لہ
 (أرض) بدہن، بہ رووتان دابینن، زؤر بہ (قوی) دەست لہ رووتان مہخشینن،
 بؤیہ (ب)ی لہسہر (وجہ) دائئئی ﴿وَأَيِّدِيكُمْ﴾ تا جومگہ، یا ئےنیشک، ئےوہش
 (مختار)ی (جمهور)ہ، وہ بہ (فعل)ی (نبی) و یارانہ (تحقق)ی کردوہ، (أما) تا

بن ہنگر، ئەگەرچی و تراوہ، بہ لآم (اعتبار) یان پی نہ کردوہ، (مُجدد) و تلمیذی (فکر) یان لہ سہر (تسہیل) ہ، (حقیقہ) (فکر) ی باشہ، (مادام) جی ی (مُسامحہ) و (تسہیل) ہ، با تہ واوی، بی (قیود) و (شرائط)، (صعب) نہ بی، بؤ ہہ مو نویتز، (تجدید) (تیمم) (لازم) ہ، یان نا؟ (خلافی) یہ، (أما) (میل) ی (مُجدد) ہکان لہ سہر (ثانی) یہ، (خلافات) و ہہ راہہ رای (ملا) یان، لہ (کتب) ی (شرعی) دا نووسراوہ، (تطویل) (تفسیر) بی (لزوم) ہ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

عَفُورًا ﴿۴۳﴾ بؤیہ (حکم) ی (سہل) تان بؤ دائہ نی، (ستری) گوناہو (عیوب) تان ئەکا، ئیوہش بہ (مُساہلہ) بن، (أحكام) ی (إلهی) گران مہ کەن وہ لہ (أثر) ی (عفو) ی ئەوہ، بؤ (جنابہت) (غسل) ی داناوہ، وہ بہ دەست لہ ژن دان دەست نویتز ئەشکی، (حقاً) ئەوہ بؤ (حفظ) ی ئاوی (حیات) و (حیا) پەرژینیکی (محکم) ہ، گہ لئ کەس زستانان، لہ ولاتی سارد، لہ ترسی (غسل)، خوی ئە پاریزی (حتی) لہ (زنا)، وہ زور کەس لہ گہ مہ و گالتہ لہ گہ ل ژنان (إحتران) ئەکا، لہ بہر دەست نویتز شکان، کەسیک (أیمان) ی راستی ہہ بی، بہ (أحكام) ی خواو پیغہ مہر، چیان فہرموہ، بہ و (نوع) ہ (متابعہ) ئەکا، (لکن) (بعض) ی کەس، (نوعاً ما) (ترفع) ئەکا، ئەلئ: من لہ (خواصّ الخواصّ) م، (عمل) بہ (عزائم) ئەکەم " (بعض) یک بہ (وسوسہ) ی (شیطان) ئەلئ: من چؤن نویتز بی تارہت، بی دەست نویتز بکہم؟ بہ (عورہت) پیس روو بکہمہ خوا؟" ئەوہی (أیمان) دار بی، ئە بی زور ناگاردار بی خوی (تسلیم) ی (إرشادات) ی (إلهی) بکا، گوئی نہ داتہ، ئەو (وسواس) (خطرات) ہ پیسہ، وہ (أصلاً) (إتباع) ی ئەو (شیاطین) آنہ نہکا، بؤیہ ئە فہرموی: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ئەی (رسول) ی گوزین، (لاشک مقصد أمّہت) ہ ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ بہ شہکیان دراوہ تی، لہ (کتب) ی (إلهی) ن (أما) تہ واو نین ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى﴾ بؤ خویان (إختیار) ی (ضلالہت) ئەکەن لہ سہر (ہدایہت)، (کأنہ ہدایہت) ئە فرۆشن،

وہ (ضالالت) وہ ٹہ گرن له (بہا) ی ٹہو له سہر ٹہوہ ندهش پاناوہ ستن، بہ لکو (شرری) (فساد) ٹہاویں ﴿وَيُرِيدُونَ﴾ له گہل (سعی) و (اجتہاد) تی ٹہ کوشن، تی کوشینی تہاوا، وہ کو: (مبشر) ہکان و (قادیانی) یہکان و (بہائی) یہکان ﴿أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ ﴿٤٤﴾ ٹیوہ ری بزر بکن، گوپراہ ببن، (الحذر، الحذر) له نیمچہ (ملا) و نیمچہ (حکیم)، ٹہو (ایمان) ٹہاوا ٹہو (روح) ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ ٹہو (عالم) ی (أسرار) ہ، ہموو شت بہ تہاوی ٹہزانی، ٹیوہ گہلی جار له (صورہت) ی (ظاہر) ی ہل ٹہ خہ لہ تی، له ٹہوہ ٹاگادارتان ٹہ کاتہوہ، تا ہوشیار بن، بہ (حیلہ) و (دسیسہ) ی ٹہو (نوع) ہ کہ سانہ نہ گورپن ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ بؤ ٹیوہ، (ادارہ) ی (شوون) تان ٹہکا، ٹاگادارتان ٹہ کاتہوہ، خوا (کافی) یہ، کہ سیتی پی ناوی، پاش ٹاگاداری خوی، خوتان ببن بہ (صاحب) ی (نظر) و (حدس)، چاکہ و خراپہ بزائن، (تمییز) ی (حیلہ) کاران بکن، دوست و دوژمنی خوتان بناسن ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ (طلب) ی (نصرہت) له (غیر) ی ٹہو مہکن، مہلین: "خوا (جواب) ی ٹیمہ نادا ٹہ بی (واسطہ) یہ کمان ہہ بی" (غیر) ی ٹہو ہر کہ سی، (خیال) ی بکن ٹہویش وہکو ٹیوہ (محتاج) ی (إمداد) ی (إلهی) یہ:

دہرویش و (غنی) بہندہ ی این خاک دہرہن

آنانکہ (غنی) تہرہند، (محتاج) تہرہند

وہ (أعظم) ی (مکائد) ی (أهل) ی (مسلم) و (غیر) ی (مسلم) ٹہمہ یہ، کہ ٹہلین: " (کتاب) ی خوی (ظاہر) ی ہہ یہ، وہ (باطن) ی ہہ یہ، (ظاہری) (مراد) نیہ، (مقصود) (باطن) ہ، ٹہوجا بہ گوپرہ ی زہمین " ٹہ گہر (عبارہت) ییشیان پی نہ گورپری، (معنی) ی ٹہ گورپن. (أهل) ی (أسلام) نہ یانتوانی (تحریف) (عبارہت) ی (قرآن) بکن، (لکن) له (معنی) گورپن (سبق) یان له جوو و دیانان

کرد، (بالخاصہ شیعہ) کہ سیک تہ ماشای (تفسیر) یان بکا، وا ئہ زانی (قرآن) (شاہنامہ) ی (علی) یہ، (أما) ئہ وانى تر زور باشیان بو ریک کہوت، ئہ وہی ہہ وہسیان ہینایہ، ئہ یلین: وہ ئہ لین: "ئہ مہ (کلام) ی خویہ" (خصوص) لہ (ترجمہ) لہ (عصر) ی ئیمہ دەست کرا، بہ (ترجمہ) ی (قرآن)، (لاشک) لہ (ترجمہ) آنہ دا، (تحریفات) یکی زوری ئہ کہ ویتئ **﴿مَنْ الَّذِينَ هَادُوا﴾** (طبیعی) ہہ موویان وانین **﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾** بہ (تبدیل) بہ (زیادہ) بہ (نقصان)، کہ سی (حظ) ئہ کا، ئہ مہ بزانی، تہ ماشای (إظهار الحق) بکا، (تألیف) ی (رحمة الله) ی (ہندی)، (رہمہ تی خوی لی بی)، ئہ مانہ مہستی (صہبا) ی (کفر) و (ضلال) ن، سہ رخوشی (حُبّ) ی (دنیا) و (رئاسہت) ن، کہ سی بنوارپتہ (قانون) ی (برص)، (تطہیر) ی (أبرص)، (مُحَقِّق) ئہ زانی: ئہ وہ لہ (إلحاقات) ی کولی نانی یہ، (أنہ) ہیچ (مناسبہ) ی لہ گہل (حکم) ی (إلهی) نیہ۔

لہ بہر (غایہت) ی (إعتنا) ی (باری) بو (حفظ) ی (قرآن)، (منع) ی (مسلمان) آن ئہ کا، لہ نہ زیك بوون لہ نوپز، لہ ہہ نگامی (سکر)، ہہر (نوع) ہ (سکر) و سہ رخوشیہ بی، وہ ئہ وانہ ی (جُنُب) و پیس بن، نابئ تخوونی مزگہوت بکہون، ہہتا خویان پاک ئہ کہ نہ وہ، ئہ ی واہ، گہ لی پیس لہ مزگہوتان دانیشتن، (مقام) ی (إرشاد) یان (أشغال) کرد، (غایہ) یان پیس کردنی خہ لک بوو، خہ لکیش پی یان ہہ ل خہ لہ تان، ئہ گہر خوا (منع) ی (قراءت) ی (قرآن) ی لہ (زمن) ی (سکر) دا نہ کردبا، زور (واقع) ئہ بوو، کہ سیک کی گہ ورہ لہ (صحاب) آن بہ (غلط)، (قرآن) ئہ خویندہ وہ، کہ سیتر گوئی لی ئہ بوو، بہ (قراءت) (صحیح) و ہری ئہ گرت، ئہ مہندہ ی پی نہ دہ چوو، (قرآن) سہ راپا (مُحَرِّف) ئہ بوو ئہ گہر خوا (منع) ی لہ لہ ش پیسانی لہ مزگہوت نہ کردایہ، ہہر لہ (صدر) ی (إسلامیہت) (مساجد) پر ئہ بوون لہ (نجاس)۔

﴿وَيَقُولُونَ﴾ **﴿وَيَقُولُونَ﴾** ۛو ۛو (مُحَرَّف) ۛنہ لہ (مُواجہ) ۛی پیغہمبہردا، ۛئہ لَین: بہ قسہیہ درؤ ﴿سَمِعْنَا﴾ بیستمان تی ۛی گہیشتین ﴿وَعَصَيْنَا﴾ بی ۛی (أمر) ۛیمان کردی، (أنہ) وائہ نوینن، (حق) ۛ وہ (مخالفہ) ۛیان کردوہ، لہو (أثنا) ۛیہ (دُعا) بؤ پیغہمبہر ۛئہ کەن، ۛئہ ناوریئہ وہ ﴿وَأَسْمَعُ عَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ بیہی، گویدیری خیران بی، ۛئہ وہی لات ناخوش بی، نہی بیہی، وہ توو (ذات) ۛیکی گہورہی، بہ (قوہت) و (قدرت) ۛی، ئیمہ (ضعیف) ۛین، (بناءً علیہ) (طلب) ۛئہ کەین لہ توو ﴿وَرَاعِنَا﴾ (مراعات) ۛمان بکہی، ۛئہو قسانہش ۛئہ کەن ﴿لِيَأْ بِالسِّنَنِہُمْ﴾ بہ زویان پیچینہ وہ، (مقصود) ۛیان (إبطال) ۛی (دین) ۛہ، ۛئہ لَین: (عَصَيْنَا) " (مقصود) ۛیان بہ (دُعا) ۛیہ بی، کہ کەس (دہ عوہت) ت نہ بیہ، یا خود (إشارہ) ۛیہ ک ۛئہ کەن (کأنہ) ۛئہ لَین: ۛئہ وہی توو ۛئہ لَی: (وحی) (إلهی) ۛیہ، لہ (أحوال) ۛی (أنبیا) و (أحكام) و (معاد) " ۛئہ وانہت بیستوہ لہ ئیمہ " (فی الحقیقہ) لہ گہل ﴿وَطَعْنَا فِي الدِّينِ﴾ زور (ظاهر) و ریکہ، وہ ۛہم (إستہزا) بہ پیغہمبہر ۛئہ کەن کہ (مقدرت) و (سطوہت) بؤ ۛئہ نوینن، لہو (حال) ۛہ، کہ (حضرت) و (رسول) و یارانہ تیا بوون ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا﴾ بہ پاستی، بی درؤ ﴿سَمِعْنَا﴾ بہ (سماع) ۛی (قبول) ﴿وَأَطَعْنَا﴾ بہ دل و بہ گیان ﴿وَأَسْمَعُ﴾ بی (غیر) ۛہ (مُسمعين) ﴿وَأَنْظَرْنَا﴾ لہ (بدل) (راعنا)، کہ (کلمہ) ۛیہ کە، لہ (مقام) ۛی (إستحقار) و جوین (إستعمال) ۛی ۛئہ کەن ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ چاتر ۛئہ بوو، بؤ وان، وہ پاست تر ۛئہ بوو کہ (ما فی الضمیر) ۛیان و (حقیقہت) (مُوافقہ) ۛی ۛئہ کرد ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ (کفر) و (عناد) و (رسوخ) ۛی بہ ستوہ، لہ (قلب) ۛی ۛئہ وان بؤتہ (سبب) ۛی (لعن) ۛی خوی لہ ۛئہ وان، چؤن ۛئہ و قسہ پاستہ، بہ پاستی ۛئہ کەن؟ ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٤٦﴾ ۛئہ و گروہہ کەمہ، خوا (لعنہت) ۛی لی نہ کردوون، (أیمان) ۛیان بہ (رُسل) ۛیان نہ کردؤتہ

(قومیت)، بویہ ئه وان (ایمان) ئینن، وهك: (عبد الله) ی (بن سلام) و (أشباہ) ی
 ئه و، (رضوان) ی خوی له (ابن سلام) بی ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
 گه مه ی به پیغه مبه ر مه که ن به بی هیزی مه زانن ﴿ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا﴾ برپوا بکه ن
 به وه ی نارديتمانہ خوار، له (طرف) ی خومان، بۆ سه ر (رسول) ی (عربی)
 ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ له ئیوه وه رنه گیراوه، (تصدق) ی (تورات) ی (صحیح)
 ئه کا، پیس و پاک لیك ئه کاته وه، ئه وه ی (إلهی) یه (إمتیان) ی ئه کا، له
 (محرّفات) ی ئیوه ﴿مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ له پیش ئه وه ی (بعض) ی
 (ذوات) ی گه وره ی ئیو (محو) بکه ینه وه، وه (آثار) ی نه هیلین ﴿فَنَزَرْنَا عَلَیْهَا
 أَدْبَارَهَا﴾ پشتا و پشت وه ریان بگیړن، وهك (شیر) که (فریسه) ی خوی
 ئه شکینئ، به ره و پشت وه ری ئه گیړئ، برپره ی پشتی، له ت له ت ئه کا ﴿أَوْ
 نَلْعَنَهُمْ﴾ ئه و (أو) ه، بۆ (منع الخلوه) ه، یا بۆ (تقسیم) ه، یا (طرد) و (تبعید) یان
 له (شرف) و (عزّ) ی (بشر) ئه که یین ﴿كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ له (مملکت)
 ده ریان بکه یین، بلاوبینه وه، (ره زیل) بین وه کو مه یمون و به راز، لای (فقیر) ئه و
 هه ردووکیان (واقع) بوو ون، (مفسیرین) (إضطراب) یان زوره، ته ماشای
 (تفسیر) ی (الووسی) بکه ن ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ (أمر) ی خوا به بوونی شتی
 ﴿مَفْعُولًا﴾ (نافذ) ه (إجرا) یه، (واقع) ه ئه گه ر ئیوه بۆ (خاطر) ی (دوام) ی
 (وجاهت) و (رئاسهت)، (ایمان) نایه نن، (تأمین) تان ئه که م، گه وره بییتان
 نامینئ پیغه مبه ر به (قوهت) ئه بیئ، ئه تان شکینئ، (ره زیل) تان ئه کا، (لاشک)
 ئه گه ر (ایمان) به یینن، ده ها (معزّز) و (مُحترم) ئه بن، ئه گه ر بویه (ایمان)
 نایه نن، له (سیئات) ی (أحوال) ی خوتان (مأیوس) ن، ئه لئین: "خوا له ئیمه
 خوش نابئ" وانیه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ خوی (تعالی) له (شرك)

خۆش نابی، چ (شرك)ی (أَلُوْهِيَّة)، چ (شرك)ی (رُبُوْبِيَّة)، (ذاتاً) ئەو‌هی (شهريك) بۆ خوا په‌یدا بکات (حقیقه) (انکاری) خوا ئەکا، زی‌پرا ئەو‌هی (شريك)ی هه‌بی، خوا نیه، (سواد)ی (أعظم) له جوو و دیانان (مُشرك)ن، ئەو‌هی نه‌شلی: "خوا کورپی هه‌یه" لایان خوا (جِسْم)ه، شتی‌که وهک (إنسان) ﴿وَيَعْرِفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هه‌ر گونا‌هیی هه‌بی، خوا لی‌ی خۆش ئەبی، ئە‌گه‌ر (حظ) بکا، (لاشک) ئەو‌هی (أیمان) بی‌نی، خوا (حظ) ئەکا، لی‌ی خۆش بی، وه (جائزه) لی‌ی خۆش ئەبی، (بنا) له‌و (نظم)ه که (عرض) کرا، چی بکا، چاکه، وه بگه‌ره‌و به‌رده‌ی (سُنِّي) و (مُعْتَزَلِي) نامینئ، به‌لئ (شیخ)ی (أشعری) (فکر)یکی (عالی) هه‌یه، ری‌نادا، (سعت)ی (قدرت)ی (إلهی) ته‌نگ بکری، (نسبت)ی نه‌ته‌وانین، بۆ (حضره‌ت)ی (کبریائی) بدرئ، وه (لازم) نیه، هه‌رچی (جائز) بی، (واقع) بی. بۆ چی خوا له (شرك) خۆش نابی؟ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ﴾ به (حَقَّة) (إرتکابی) کردوه ﴿إِنَّمَا عَظِيمًا﴾ گونا‌هیی‌کی گه‌وره، که (قیاس) له هه‌یچ گونا‌هیی‌ک ناکری، ته‌ماشای (سخافه‌ت)ی (عقل)ی (مُشرك) بکه‌ن، (عباده‌ت)ی (غیر)ی خوا ئەکا، تا له‌لای خوا تکای بۆ بکا، که‌سی‌ک (تتبع)ی (آثاری) (ملل) بکا، (یقین) ئەزانئ (شرك)ی (مِلِّيُون) گه‌لی (أفحش)ه له (شريك)ی (وثنيون) (سواد)ی (أعظم) له (مِلِّيُون) (إیمان)یان به‌ خوا بۆ (إستخدام)ه، ئەو (زه‌مان)ه‌ی که نه‌ختیک (عاقل) بوون، شتی‌کی بیانزاننیا، له ته‌وقی (بشر) یا (ملك) نیه، ئەیان ووت: (شیخ) (همه‌ت)ی کرد، وه خوا بۆی کرد " (أما) ئیستا له (قه‌ید)ه‌دا نه‌ماون، (مشرک)ه‌کانی ئیمه، (أهمیّه‌ت)ی خویان لا نه‌ماوه هه‌رچی بی، له (مُعْتَقَد)ی خویانی ئەزانن، وه‌گه‌وره گه‌وره‌کانیان ئەلئین: "ئه‌گه‌ر (قُطْب) نه‌بی، (أرض) و ئاسمان وه‌رئ‌ه‌گه‌رین" (أرض) و ئاسمانیکی به (غیر)ی خوا راوه‌ستی، یاخوا هه‌ر وه‌رگه‌رئ، ژیر به‌ره ژوود و ویران بی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ ئایا (علم)ت به‌و که‌سانه

نہ گہیشتوہ، کہ (نفس)ی خویمان پاک ئە کەن، (بعض)یک ئە لئین: ئیمہ
 (صاحب)ی (نفس)ی (قدس)ین، (أولیا)ین، گوناہ لە ئیمہ (تأثیر) ناکا
 (بعض)یک ئە لئین: "ئیمہ (مُطَّلِع)ی (سَرِّی) (قدر)ین، ھەر گوناھیکی بیکەین، لە
 (لوح المحفوظ) ئیمہ ئە بیینین، ئە زانین، (حَتْم)ە، (إلا) ئە بی بیکەین، بۆیە
 (ضرر) بە (قُدسیّەت)ی ئیمہ نادا" (قسم)یک لە (صوفیّە)ی (إسلام) بەو
 (فکرە) (ممتان)ن، (بعض)یک ئە لئین: ئیمہ (أولاد)ی پیغەمبەرانین، (طینە)تمان
 پاکی (روح)مان بە پاکی خولقاوە، لە (قید)ی (تکالیف)دا نین" (سواد)ی
 (أعظم) لە (أَلُ بَیت) بە سایە (بعض)ە (مُحَبِّ)ی (مُزخرف) تووشی ئەو
 خولیا بە بوون، (بعض)یک ئە لئین: ئیمہ (أولاد)ی (مشایخ)آنین، فەرخە
 بازانین، ھەرچی بین، جی نوشینی ئەوانین" (بعض)یک ئە لئین: خویمان پڕ
 دەرئە کەین، (حاجەت)مان بە (رسول) نیە، بە (عقل) چاکە و خراپە (دەرك)
 ئە کەین" (بعض)یک پاکی ئە کەنە (قومیّەت)، ئەو (قوم)ی لای خوا
 خوشەویستە پاکی، (مُقدّس)ە، و ئەم (قوم)ە (مبغوض)ی خوان، پیس،
 (مُهان)ن، ئەو (أنواع)ە لە ھەموو (ملل) و (نحل)دا ھەن، بە زۆری، (أُمّا) ئەو
 قسانە ھیچ و پووچن، (مُزخرف)ن، (مقصد)یان لە (دین) دەرچوونە، بە (عزّ) و
 (شرف) لە (نظر)ی (أُمَّت) ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ يُرَكَّبُ مِنْ نِشَاءٍ﴾ بە (قانون)ی (عدالة) بە
 (شریعت)ی پاک و خاوین، ئەو (إِتباع)ی بکا، پاک و (مُقدّس) و خاوینە (وَلَوْ)
 کورە گاوان بی، ئەو (مُخالفة)ی بکا، پیس و (مُنَجَّس) و (مُلَوَّث)ە (ولو) لە
 (صلب)ی پیغەمبەری (عظیم الشان) بی، (عقل) ھەرچەند (إدراك)ی ھەیە،
 (اما) بە تەواوی پڕ بە (مُوجب)ی (رضا) مەندی خوا نابا، (مع أنه عَقُول)
 (مُختلف)ن، (آرا) و (أفكار) (متباين)ن، (عقل) (قرین)ی (سوء)ی زۆرە، زوو
 پئی ھەل ئە خەلە تی، دوایان ئە کەوی، (أما) بە (إعتبار)ی (قومیّەت)، (حاشا)،
 (ثم حاشا)، لە (نظر)ی خوا، (فرق)ی (كورد) و (عەرەب) و (انگلیز) و (إسرائیل) و
 (هندوك) و (هندوس) نیە، وەك لە (صدر)ی (كتاب) زاناندرا، خوا (ربّ)

العالمین) ہ **﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾** (۴۹) لہ (طرف) (حضرت) ی (کبریائی)، بہ (قدر) ئو داوہ سپیہی، کہ لہ ناو قہ لہ شتی ناو کہ خورما دایہ، (ظلم) یان لی نا کرئی، (بشر) خوی (ظلم) لہ خوی ئہ کا، ئوانہ بہ (إفراط) و (تفریط) لہ (حدّ) دہرئہ چن، (قسم) ٲک خویان، لہ کہ رو گاجووت و (ہیاکل) و (تماثیل) ی بی (حسّ) و (حرکہ)، کہ متر ئہ زانن، (قسم) ٲک خویان لا لہ (بشر) (زیاترہ)، گوئی یا (سواد) ی (أعظم) لہ (بنی نوع) ی (إنسان)، بہ (نظر) ی ئوان (نظر) بہ ئوان، بہ (حشرات) (حساب) ن، بہ لکو (ترفع) ئہ کہن، لہ (دائرہ) ی (تکلیف) ئہ چنہ دہر، بہ (دعاوی) (کاذبہ) (عباد) ی خوا (إغوا) ئہ کہن **﴿أَنْظُرْ﴾** بہ (کمال) ی (تعجب) تہ ماشا بکہ **﴿كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾** چوں درویان لہ (جہت) ی خوا ہلئہ بہ ستن؟ کہ سیك (أدنی ایمان) ی بہ خوا ہہ بی، ئو (نوع) ہ درویانہ چوں ئہ کا، (جناب) ی (حق) بہ (قواعد) ی (عمومی) لہ (خلق) و (أيجاد) (إمتیان) ی نہ داتہ وہ کہس، ئہ بینن، پادشاہو گہ داو (فقیر) و (غنی) و (ملا) و (جاہل)، کوردو عرہب و شیخ و (مرید) و (رئیس) و (مرؤوس) و ہک یہ کہ ئہ مرن، ئہ پرن، بؤگہن ئہ بن، ئہ خوں ئہ خونہ وہ ئہ نوون، بہ خہ بہر دیں، (حوائج) ی (ضروریہت) یان وہ کہ یہ کہہ، (کذلك) لہ (قواعد) ی (عمومی) (شرع) (فرق) ی کہس نہ کردوہ، (حق) وایہ ئوہی خوی بہ (مقرب) ئہ زانئ (خدمت) زیاتر بکا، ئوہی (نسبت) ی (نسبی) لہ گہ ل پیغہ مہران ہہ بی، ئہ بی لہ (نسبت) ی (حسبی) پتر خوی نیزیک بکا **﴿وَكَفَىٰ بِهِ﴾** (کاف) یہ بؤ ئو (إفترایہ، بؤ ئو درویہ **﴿إِنَّمَا مُبِينًا﴾** (۵۰) ئوہندہ بہ سیہ، بؤ (إبطال) ی، بؤ (ردّ) ی، گوناہیکی ئاشکرایہ، کہ سی (ادنی نظر) ٲکی ہہ بی، ئہ زانئ، ئو قسانہ وانین ئو (إدعا) یانہ (باطل) ن، (أما) ئو (ظالم) آنہ، ئوہندہ (حیال) ن بہ نہی رہنگن، لہ (نظر) ی (عوام) ئہی پویشن، (کسوہ) یہ کی لہ بہر ئہ کہن کہ (عوام) پی ی ہلبخہ لہ تی، بہ (کمال) ی (إطمئنان) ی (قلب) دویان ئہ کہون، پی یان برپوا

که م بکه ن. ئە ی (مسلمان) ینە بە (غیری) ی (قول) ی خواو پیغەمبەر، (قول) ی که سیتەر (حُجَّه) نیه، (قابل) ی (غلط) و (سهو) و (نسیان) ن، وه کو (حُکما) یه کانی (إلهیون) (غلط) (حس) به دەر ئە خەن، تا کو خه لکی (إعتماد) بده نه سه ر (عقل)، له (حس) په رستیدا نه مینن، (روایه ت) ئە که ن: (حی) ی (بن) ی (أخطب)، (کعب) ی (بن الأشرف) پاش (وقعه) (أحد)، له گه لّ (جماعه ت) یك له جووله کان، چوونه (مکه) بۆ (خاطر) ی له گه لّ (قره یش) یان ببنه سویند خۆری یه ک، (کعب) میوانی (أبو سفیان) بوو، زۆری (حرمه ت) گرت، (أهل) ی (مکه) پی یان ووتن: "ئێوه (أهل) ی (کتاب) ن، (محمد) یش (صاحب) (کتاب) ه، (أمین) نین له ئێوه، ئێوه (مکر) ئە که ن، ئە گه ر پاست ئە که ن، وه رن (سجده) بۆ ئە و دوو بوته ببه ن، ئە و جا بپرواتان پی ئە که ین" (سجده) یان برد، دوا یه (کعب) ووتی: "ئە ی (أهل) ی (مکه) وه رن، (۳۰) که س له ئێوه، (۳۰) که س له ئیمه، سینگ ی خۆمان به (کعبه) وه بنووسین (معاهده) بکه ین، له گه لّ خودای (بیت)، که (سعی) بکه ین، له سه ر (محاربه) ی (محمد) " ئە وانیش ئە و (معاهده) یان کرد، دوا یه (أبو سفیان) به (کعب) ی ووت: "توو پیاویکی (کتاب) ی خوای ئە خوینی، وه ئە زانی وه (ملا) ی، ئیمه نه خوینده وارین، نازانین: کی هه مان ریمان پاست تره، وه له (حق) نیزیکترین؟ ئیمه، یا (محمد) (صلی الله علیه وسلم)؟ (کعب) ووتی: " (دین) ی خۆتانم پی نیشان بده ن" (أبو سفیان) ووتی: "ئیمه حوشتەر سه ر ئە برین بۆ (حجاج)، شیریان پی ئە خوینه وه، میوانداری ئە که ین، ئە وی گرفتار بی ئە ی که ینه وه، (صله) ی (رحم) ئە که ین، (تعمیر) (بیت) و (طواف) ی ئە که ین، وه ئیمه (أهل) ی (حرم) ین، (محمد) له (دین) ی آبا ی خۆی جودا بوویته وه، (رحم) ی پساندیه، (حرم) ی (کعبه) ی (ترك) کردیه، (دین) ی ئیمه (قدیم) ه، (دین) ی ئە و تازه یه " (کعب) سویندی خوارد، ووتی: (أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد) " (صلی الله علیه وسلم) ﴿أُولَئِكَ﴾ ئە وانه که ئە و درۆیه ئە که ن (ترجیح) ی (کفر) به سه ر (ایمان)

ئە دەن ﴿الَّذِينَ﴾ ئەوانەن ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ خودا دووری کردینە، لە (رحمەت)ی خۆی، (حقیقە) ئەو هی (مطرود)ی دەرگامی خودا نەبی، ئەمە ناکا، و ئەمە نالئی ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ﴾ ئەو کەسە ی خودا دووری کاتەو لە (رحمەت)ی خۆی ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ (بنا) لە (قول)ی (آلووسی) (خطاب)ی (لَنْ تَجِدَ) (عامە)، وانیە (خاصة خطاب) لە گەل پینغەمبەر بی، (أما) من لام وایە (خطاب) لە گەل پینغەمبەر، زیرا خودا (تقویە)ی دلئی (رسول)ی خۆی ئەکا، کە (أهمیەت) نەداتە، ئەو (إتفاق) و (تحالف)ە ی کە (ذکر) کرا ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ یاخۆ ئەوانە لەوانەو (سیاسەت)ە، کە (إعاده)ی (مُلْك) و (سلطەنەت)ی (آل)ی (داود) بکەن، ئەوانیش لەو (سلطەنەت)ە، بە شەکیان هەیه، بۆیە لە گەل (قریش) ریک ئەکەون، زیرا ئەزانن، ئەگەر کاری (محمد) (صلی الله علیه وسلم) سەر بگریئ، (سلطەنەت) و (مُلْك) بۆ ئەوان نابی، (لهذا سعی) ئەکەن، چارە یە ک بکەن، بە (إباده)ی (رسول)ی (کبریا)، (لکن) (إعاده)ی (سلطەنەت)ی (إسرائیلی) بۆ ئەوان ناکریئ، چونکە (بخیل)ن، (طماع)ن، ئەگەر دەستی خۆیان دیت، کەس ناناسن ﴿فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (قریش)یش (شمائل)یان ئەزانن، لێ یان (أمین) نابن، (تشکیل) یا (إعاده)ی (دەولەت) (جود)ی پێ ئەویئ، نەتەنھا بە (مال) بە (روح): "یا موشئ، ربئی) بە (خەبەر) وەرە، تاکە ی ئەنووی؟ (شعب)ی خۆت لە (رذالەت) بپنە دەری" کە لکی ناگریئ! وەك (أوائل)ی (حکومەت)ی کورد، یا بەتەمای (کرامەت)ی (أولیا) بوون، وەهەر کەسئ ئەهات، ئە ی گووت: "معاش، معاش)، ئەمە ندەم ناویئ، کەمە" بە توورە گەیه، بە کیسە یە، کەس نە ی گووت: "ها، ئەم دووپارە، لەو ریئە (صرف)ی بکەن" (آخر) نەشود! ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (یعنی) (بنی إسماعیل)، زیرا (إسرائیلی) بە (عمومی) (بنی إسماعیلی)یان ناویئ، (حتی) لە

(کتاب)ی (مقدس)یان، و(مُصْرَح)ہ: کہ (إسماعیل) بہ ہہموو (وجہ) (محروم)ہ
 لہ باوکی خوی، کہ (حضرت)ی (أبراهیم)ہ، (حسد)یان پیئ ئہبہن ﴿عَلَىٰ مَا
 ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ کہ لہ خویان (رسول)ی بو ناروون (تعلیم)و
 (تربیہ)یان ئہدا، چاکیان ئہکاتہوہ، ئہمہش بی (معنا)یہ، (فضل)ی خوی بہ
 کہس (منع) ناگری ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ﴾ (إسماعیل) لہ (آل)ی
 (أبراهیم)ہ، (وکذا) (أولاد)ی، وک (أولاد)ی (أسحاق) (آل)ی (أبراهیم)ن،
 (أسماعیل) لہ (ہاجر) بوو، چ بوو؟ ئہگہر قسہی ئہوان پاست بی، کہ لہ
 (کتیب)ی (مقدس)یان ئہی لئین: " (سارا) خوشکی (أبراهیم) بوو، لہ باوکی "
 ئیمہ زور (شکر)ی خودا ئہکہین، کہ (نسب)ی (محمد)ی ئیمہ لہ وژنہ دورہ
 ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ (علم) بہ (حقایق)ی (أشیا)، (إستکمال)ی (نفس) بہ (قوی)ی
 (علمی)و (عملی) ﴿وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ (حکومت)یان (تشکیل) کرد
 ئہوانہی دوشمن و (حُساد)ی ئہوان بوون، وک: (فرعون)و (شداد)و (نمرود)و
 (سائر)، (قیاس)یان لہ وگہرو گوری (ملا)ی جوولہکان نہدہکرا، لہسہر ئہو
 ہہموو (حشمت)و (مُکنہت)و (قووت)و (سلطنہت)ہ، بہسہریاندا (غالب)
 بوون، (تاج)و تہختیان لئ ستاندن، وہہم ئیوہ، ئہو سویندہ بہ درویہی
 ئہخون، بو (إعادہ)ی (سلطنہت)، کہوابی ئیمہ (حق)ی (إعتراض)تان نیہ لہ
 (فرعون) (مثلاً)، کہ لہ (حق) (موسی) بہ (قوم)ی خوی ئہووت: "من ئہترسم
 (دین)تان لئ تیک بدا، یا (فساد) لہ (أرض)ی ئاشکرا بکا" ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ
 بِهِ﴾ (قوم)ی ئہو پیغہمبہرانہی (آل)ی (أبراهیم) (بعض)یک لہ ئہوان
 (ایمان)یان ہینا، بہ ئہوہی کہ درابوہ (آل)ی (أبراهیم) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ﴾
 (إعراض)یان لئ نا ﴿وَكَفَىٰ بَجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ بو ئہوانہی (إعراض)یان ہینا،
 ئہگہر (عذاب)ی (دنیا) (کفایہت)ی نہکردن، (کافی)یہ، بو ئہوان، ئاگری ہل

کرای (جہنم)، (تفسیری) ئو (نوع) ہ (عبارت) ہ، عہ رہ بہ کانیش بہ عہ رہ بی نہیان توانیوہ، بہ (موافقہ) ی (لفظ) بیکن، بہ کوردی چوں ئو کری؟ بویہ بہ (حاصل) مان (تفسیر) کرد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ بؤ ہر پیغہ مبرئ ہاتبی ﴿سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾
 روژی (قیامت) ئیان ہاوینہ ئاگر، ئاگری (ہائل) ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ ہر
 (زہمان) ی کہ پیستیان گہی سووتا، (حسّی) (لمس) ی نہما ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
 غَيْرَهَا﴾ ہر لہ (بدن) ی خویمان، وہک لہ (دار) ی (دنیا) ئیبینن، لہ برینیک، با
 لہ (مرض) یکی (جلدی)، پیستی آپزی، پیستیکیتر لہ ژیرہ وہ، لہ (عین) ی
 (بدن) پہیا ئہ بیتہ وہ، وہ نازکترو (حسّاس) ترہ، نہ وہک لہ لارا، شتیتتر خوا بی
 ہیئتی بیکاتہ پیستیان، کہ وابی (حاجت) نیہ، بہ (منع) و (معارضہ) و (قال) و
 (قیل) و (مفسرین) آن - لہ (دین) ی (إسلام) - بہ (ضرورت) زاناندراوہ کہ
 (حشر) ی (جسمانی)، (عذاب) ی (جسمانی) ہیہ، (جناب) ی (حق) ئو
 (عناصرہ) ی کہ ئہ مرؤ ئو (ہیکل) ہی لی دروست کردوہ، گردی ئہ کاتہ وہ
 (روح) ی خوئی دیتہ وہ بہرئ، ئہ گہر ئیمہ لہ (تصور) ی (عاجز) بین،
 (حضرت) ی (کبریائی) لہ (تصویر) ی (عاجز) نیہ (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى)
 ئیمہ (کیفیت) ی (نشأۃ) ی (أولی) نازانین، (أما) (ملا) یہ کان زور نا (راحۃ) ن لہ
 ئہ نداد بہ دہر، (فکر) ی خویمان بہرہ لآ ئہ کہن، وہ پییشی ناگہن، (بالمآل)
 دینہ وہ سہر (تسلیم)، (خلاصہ) (مقصد) لہ و (ایہت) ہ ئو وہیہ: کہ (إدامہ) ی
 (حسّی) (عذاب) یان ئہ کا ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ بؤ (خاطر) ی (علی الدوام، بلا
 إنقطاع) (عذاب) بچیئن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا﴾ (غالب) ہ، کہس (ممانعہ) و
 (مدافعہ) ی پی ناکرئ، بہ (إِنْ قُلْتَ قُلْتَ) وی (سائل) ان، (عزّت) ی ئو (نقص)
 نایہنی ﴿حَكِيمًا﴾ (حقایق) ی (أشیا) ئہ زانی، نہ تہنہا (حکیم) ی

(علمی)یہ، (حکیم)ی (عملی)کہ، بہ راستی (إمكان)و (إمتناع)ی (أشیا) ہر
 ئہ و ئہی زانی، گہ لئ (ممكنات)و (ممتنعات)ی (خفیہ) ہہیہ، (معرکہ)ی
 (حکما)و (متکلمین)ہ، (حقیقہ)ی (حال)یان ہر خوا ئہی زانی، شتہک لہ
 (نظر)ی ئیمہ (ممتنع)ہ، کہ چی دواہیہ دہرئہ کہوئ، کہ (واقع)ہ، وامہ زانن لہ بہر
 بی (عقلی)و (بساطہت)، کہ ئیمہ (تسلیم)ی (قول)ی خواو پیغہ مہر ئہ بین،
 بہ لکو ئہ زانین، (حصر)ی (أحوال)ی (طبیعت) لہ سہر ئہ و ہندہی کہ ئہ مرؤ
 ہہیہ، (جہل)ہ، بویہ (حکما)ی (عصر)، (حکم) بہ (إمتناع) ناکہن، ئہ لئین:
 "ئہ و (حکم)ہ، (علم)ی ئیمہی پی نہ گہ یشت، نہ زیکہ بہ (نور)ی (علم) - (من
 بعد) - (کشف) بکری" (حقیقہ) چہ ند (أشیا)یان (إختراع) کرد، کہ لہ (نظر)
 ئہ وانی پیشوو (محال) بوو، ئہ وہی (ملا) بی ئہ زانی، (دائرہ)ی (إمكان) گہ لئ لہ
 (دائرہ)ی (إمتناع) (واسع) ترہ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (أعمال)ی
 (صالحہ)ی (خصوص) کہ بہ گویرہی (أصناف) ئہ گوپرئ، (عمل)ی (ملا)ی
 (مدرس) لہ گہ ل (عمل)ی جوتیار جیاوازہ، ہر کہ س بہ (نسبتہ) خوئی
 (عمل)یکی بو ئہ صلوحی کہ بو ئہ ویترا (صلح)ی، وہ ہہ موو کہ س ئہ توانی،
 ہہ موو (عمل)ی (صالح)ی (مناسب)ی (مسلك)ی خوئی بہ جئ بیئئ
 ﴿سَنَدْ خَلُّهُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ مَحْنِبِهَا الْأَنْهَرُ﴾ نافہ رموی: " (سوف) " (بشارہت) بہ
 نہ زیکی، وہ لہ (حق) (أهل)ی (کفر)یش لہ (سوف)ہ (رہحم)یکی تیا ہہیہ،
 (کأنہ تأخیر) ئہ کا، چونکی خوا (حظ) ناکا، (عباد)ی خوئی (عذاب) بدا، (لکن)
 خہ لکی خوئیان ئہ ہاویئہ ناگری ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (دوام) (قوی)ی (جسمانی)
 لہ خوئی، جئی (قال)و (قیل) نیہ، (مع أنه) کہ (مبدأ)ی (دائمی) بی،
 (قوہت)ی (جسمانی) (أثر)ی (غیر)ہ (مُتناهی) لئ (صادر) ئہ بی، بہ (إتفاق)ی
 (حکما)و (متکلمین) ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ بو تہ واوی (نعمتہت)
 ﴿وَنُدُّهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (۵۷) سیبہ ری خوش، (دائم) تیر، بہ ہشت دارو بارو

(قصوری ہہیہ، (نور)یش تیاہ، (طبیعی) جیّیہ وایی، بہ سیبہرہ، یا لہو
سایہیہ، سایہی (لطف)ی (إلهی) (رضوان)ی (رہحمان)ی (مقصود)ہ،
ئہوسایہ، (قیاس) لہ دارو دیوار ناکری، یاخود (مقصود) (بیان)ی (ہنا)و
(راحت)یانہ، کہ ہیچ ساردو گہرمی ناچیژن ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ ئہی (علما)و
(رؤسا)ی (أديان) ﴿أَنْ تُوَدُّوا أَلَا مَنَنْتَ﴾ ہەر (أمانات)یکی ہہبی ﴿إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾
بیّ (خیانہت) لہ (نفس)ی (أمانت) بیگہیہننہ (مُستحقّ)ی خوئی، ئیوہ ئہی
(علما)ی (إسرائيلی) ئہم (خیانہت)ہتان بو کرد، درؤیہ واگہورہ، (ترجیح)ی
(أهل)ی (کفر) لہسہر (أهل)ی (أيمان) چ (خیانہت)یکی (عظیم)ہ۔

ہہرچہند ئہفہرموون: "ئہو (ایہت)ہ دہر (حق) بہ (کلیلی) (بیت) (وارد)
بوہ" (أما نظر) بہ (نظم)ی (قرآن) ہیشتا ماویہتی رۆژی (فتح) وەك لہ
(تحالف)ی (یہود)و (قریش) (ذکر) کرا، ئیستا پاش (وقعہ)ی (أحد)ہ،
وہ (روایہت)ی (صحیح)و (معتبر) لہ (مسئلہ)ی کلیل(بیت) ئہمہیہ: (عثمانی
بنی أبی طلحہ) کلیلداری (بیت) بوو، دواى (هدنہ)ی (حُدیبیہ) لہ گہلّ (خالدی
بن ولید)و (عمرو بنی عاص) (أيمان)ی ہیئا، بوّیہ کہ پیغہمبہر (طلب)ی
(کلیلی) لی کرد، (تقديم)ی کرد، (حضرت)ی (عبّاس) (عرض)ی کرد:
" (سدانہ)ی (بیت) بہ من (کرم) بکہ " (عثمان) ترسا، دەستی گپرایہوہ،
دووبارہ (حضرت)ی (رسالہت) (طلب)ی لی کرد، (عثمان) (تقديم)ی کرد، باز
(إمامی عبّاس) (طلب)ی کرد، باز دەستی کیشایہوہ دوايہ (حضرت)ی
(رسالہت) پەناہ فہرمووی: "ئہی (عثمان) ئہ گہر(أيمان)ت بہ خواو رۆژی
(أخرت) ہہیہ، کلیلہ کہم بدہیہ(عثمان)(عرض)ی کرد فہرموو: "بأمانة الله"
پیغہمبہر وہری گرت، دہرگای (کعبہ) کردہوہ... إلخ.

(سید)ی (الووس)ی (رحمہتی لی بیّ) ئہفہرمووی: "ئہم (روایہت)ہ (أولى)یہ
بہ (إعتبار)، لہ (روایہت)ی (ثعلبی)و (بغوی)و (واحدی)، کہ (عثمان)ی
(مذکور)، (إمتناع)ی کرد، لہ کلیل دان وہ ووتی: "ئہ گہر بمزانیبیا پیغہمبہرہ

(منع) م نہ دہ کرد " (ضرہت) ی (علی) دہستی پیچا (حیراً) کللی لیستاند، (رسول) ی (کبریا) چوہ ناو (بیت)، دوو (رکاعت) نویژی تیا کرد، کہ ہاتہ دہری، (إمام) (عبّاس) لہ پیغہمبہری خواست: " (سدانہ) و (سقایہ) ی بؤ (جمع) بکا " ئەو (ایہت) ہ (نازل) بوو، ئەوجا پیغہمبہر (أمر) ی کردہ (إمام) ی (علی): کللیکہ ی بؤ بردہوہ، وہ (أمر) ی کرد کہ (إعتذار) ی لّ بخوازی، ئەمہش بوو بہ (سبب) ی (إسلام) ی (عثمان).

(فی الحقیقہ) وہک (سید) ئەفہرموی، وہرگرتنی (مفتاح) بہو (صورہت) ہ پی ی نالین: "أمانہت" ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ چ (حُکم) ی (أیجاب) و (سلبی)، چ (حُکم) ی (قضائی)، (أمر) تان ئەکاتی ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (ولو) ئەوہی (حُکم) ی بؤ یا لہ سہر ئەکەن، لہ (دین) ی خۆتان نہبی، ئیوہ ئەو (حُکم) ہ (ظالم) آنہ تان بؤ کرد؟ (سید) ی (الووسی) ئەفہرموی: "لہ (بعض) ہ (آثار) ہاتوہ، دوو مندالّ چوونہ (خدمت) (حضرہت) ی (حسن) (عرض) یان کرد، تہ ماشا بکا، (خطّ) ی کاممان خۆشترہ؟ (إمام) ی (علی) فہرموی: "رؤلہ (دقّہت) بکہ، چۆن (حُکم) ئەکە ی؟ ئەوہش (حُکم) ہ (واللہ) ی خوی (تعالی) (سؤال) ت لّ ئەکا، لہو (حُکم) ہ رؤژی (قیامہت) " (بالخاصّہ) ئەوانہ ی ئەمرو (قوانین) دائئین، (عدالت) بؤ ئەوان زور (لازم) ہ، (لکن مع الاسف) ہر کہ سہ تہ ماشای (میل) ی خوی ئەکا، ئاگای لہ (عبادی) خوی نیہ ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمُ بِالْحَقِّ﴾ خودای (تعالی) بہ شتی چاک (نصیحت) تان ئەکا، ئەویش لیّرہ (ادی) ی (أمانہت) و (حُکم) ی (بالعدل) ہ، ئیوہ (وعظ) و (نصیحت) ی خوا لہ گوی بگرن، ئیتر (مخالفہ) مہ کەن ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (۵۸) ﴿أَقْوَال) ی ئیوہ ئەبیہ، (أعمال) ی ئیوہ ئەزانی، ہیچی لّ بزر نابی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بہ راستی و دروستی ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (إطاعہ) ی خوا بکہن

(إطاعة) ی پیغہمبہرو (صاحب شأن) آن بکہن له خوٲتان، ئہو (ذوی الشان) آنہ چ (خُلُفا) بن، چ (ملوک)، چ (سلاطین)، چ (إمرا) و (قوٰد)، چ (علمای) (کرام)، (أولاً) (أمر) ئہکا بہ گہورہکان، بہ (أدی) (أمانہت) بہ (عدالہت)، (ثانیاً) (أمر) ئہکاتہ (سواد) (أعظم) بہ (إطاعة)، وای چ خوٲشہ (قوم) ئیک، (أمر) یان (عادل) بن، (علمای) یان (ناصح) و (أمین) بن، (رعایا) یان (مطیع) و فہرمان بہرداربن، (أما أمّہت) لہو (نعمت) ہ، (محروم) بوون، ئہتوانم بلّیم: "لہ (زہمان) (صدیق) (أکبر) تا ئہمپو، ہر (حکومت) ئیک (تشکیل) (کردبی)، لہ (بین) (ی) ئہوو (رعایا) (مُنافرہ) بوہ، (حکومت) یان بہ یہغماگہر زانیوہ، (حکومت) یش (رعایا) (ی) بہ (حیوانات) (ی) (مسخرہ) (حساب) کردوہ ﴿فَإِنَّ نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ﴾ (رئیس) لہ گہل (مرؤوس)، (علمای) خوٲبہ خوٲ، (علمای) و (أمر)، ئہگہر (منازعہ) یان لہ شتیک بوو، ہر کہس بوٲ لای خوٲی رای نہکیٲشی، مہیکہ نہ (باعث) (ی) (شفاق) و (عداوت)، تیکدانی (إتحاد) (ی) (ملّہت) و (دین)، لہ رووی (إنصاف) تہماشای (أمر) ہکہ بکہ ﴿فَرُدُّوْهُ اِلٰى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ﴾ ئہگہر لہ (زہمان) (ی) (رسالہت) بوون، (مسئلہ) (عرض) (ی) (صاحب رسالہت) بکہن، چوٲنی فہرموو، و (عمل) بکہن، ئہگہر دوای ئہو بوو، تہماشای (قواعد) (ی) (کتاب) و (حدیث) - (یعنی) - (سنّہت) (ی) (نبوی) بکہن، چ (ی) (أوفق) ہ لہ گہل (أساسی) (دین) (ی) (أسلام) ئہوہ (قبول) بکہن. ئہزانن (أمر) (ی) خوا لہ سہر (إتحادہ)، (میل) (ی) (رسول) لہ سہر ریک و پیک یہ، ئہوہ (ی) (صلاح) (ی) (أمّہت) بی، ئہوہ (ی) ئہوی ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (نعوذ باللہ) ئہمہ (تہدید) (ی) زور گہورہیہ، بوٲ (أهل) (ی) (شفاق) و (تابع) (آنی) (ہوا)، (خاصّہ) لہ (علمای) (ی) (مذہب)، چ (إعتقادی) چ (أعمالی)، (حبّ) (ی) (رئاسہت)، (طمع) (ی) (دنیا)، (عالم) گیزو ویژ کرد، (أصلاً) گوئی یان نہدایہ، (کلام) (ی) خودا، لہ (مُنازعات) (ی) (دینی)، (نوع) ہ (نفرہت) و (تفرقہ) و (عداوت) ئیک کہوتہ ناو

(مسلمان) آن، وا (ممزق) بوون، چ (أمّہت) و (أدیان) تووشی ئہو (نفرہت) ہ نہبووین، (حالاً) ئہو (عداوت) (دوام) ئہکا پاش ئہو ہموو (ذلت) و (نکبت) ہی بہ سہر (مسلمان) آندا ہات، وہ بہ لکو بہ (واسطہ) ی (قادیانی)، (بہاء اللہی بابی)، (عداوت) ی (جدید) و (شدید) (حکم) فہرمایہ، ہتا ئیستا چاک بوو، ئہگہر کہ سیک (دہعوا) ی (رسالہت) ی کردبایہ، (حکومت) ی (اسلامی) لہ چہنہی ئہدایہ وہ، وہئہی فہوتاند ئہمړو ئہوہش نہماوہ، (مہیدان) (واسع) ہ، ہر کہس ئہتوانئ (دہعوا) ی (رسالہت) بکا، وہ بوشی سہرئہگری، ہیشتاش (سواد) ی (أعظم) لہ (ملا) یان وائہزانن، (إختلاف) أُمتی رَحْمَةً (حدیث) ی پیغہمبہرہ، (حاشا، ثُمَّ حاشا) (قہت) (إختلاف) (رحمت) نیہ، بہ لکو (غضب) ی (إلہی) یہ، (حاشا) ئہوہ (حدیث) ی (رسول) ی خودا نیہ، (علما) ی (کلام) لہ (کتب) ی (کلامی) (ذکر) یان کردوہ، وہئہوانیش (مُحَدَّث) نین ﴿ذَلِكَ﴾ ئہوہی (ذکر) کرا، لہ (إطاعہ) و (مراجعه) ﴿خَيْرٌ﴾ بُو ئیوہ (أصلح) ہ ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (من حیث العاقبت) بُو دواى کار، چ لہ (دنیا) چ لہ (عُقباً) چاکترہ، یا چاترہ لہ (صرف) ی (لفظ)، لہ (معنا) ی خوئ، ئہگہر تووشی (ایہت) ی یا (حدیث) ی بوون، لہ گہل (مُحکم) تطبیق) ی بکہن، بہ ہوہس لای مہدہن وہ ئہگہر ہر دوو (معنا) ش (إرادہ) بکری، لای (حقیر) (ممنوع) نیہ، (فی الحقیقہ) ئہو دوو (ایہت) ہ (کریمہ) وہک (مُجدد) ی (مصری) ئہفہرموی، (أساس) ی (حکومت) ی (أسلام) ہ، ئہگہر لہ (قرآن) (غیر) ی ئہو دوو (ایہت) ہ، (نزول) نہ کردبواہی، (کافی) بوو، لہ ئہو (مادہ) یہدا، من ئہ لیم: "ئہو دوو (ایہت) ہ، (أساس) ی (دین) ی (أسلام) ہ، (أساس) ی (إتّحاد) ی (دین) و (دُنیوی) یہ (أساس) ی (عزّہ)، (أساس) ی (حیات) ی (إجتماعی) یہ، (أساس) ی (انتشار) ی (دین) و (دوام) ی (مُلک) و (سلطہ نہت) ہ، ئہگہرچی (ملا) ی (بعض) ہ (فرق) ی (اسلامی) بُو (دنیا) لہو (شقاق) ی (إستفادہ) یان کرد، (أماعمومی) (مسلمان) آن (ضرر) یان کرد، (إستفادہ) ی (خُصوصی) لہ مہیانہی

(استفادہ)ی (عمومی) دانہ بی، بی (دوام)ہ (رؤسا)ی (دین) ئہ گہر زگیان بہ (مسلمان)آن بسووتی، دلّیان لہ (خلاف)و (بُغض)و (عداوت) پاک ئہ کہ نہ وہ، وا(فرض) ئہ کہن، ئہ مپوؤ ئہ م دوو (ایہت)ہ (کریمہ) (نزول)ی کردوہ، تازہ بہ تازہ، لہ (حضرت)ی (رسول)ی (کبریائی) وہری ئہ گرن، بہ و گویرہی (حرکت) ئہ کہن، (عالم)ی (اسلامیہت) رووئہ کہنہ (اِتّحاد) "چہ ندیٰ لہ مہو پیش (شخص)ی لہ (أركان) (حکومت)ی (ایران) (ملقب) بہ (إحتشام) السلطنہ) بؤ (مسئلہ)یہ کی (سیاسی) بہ (کویہ)دا چوو بؤ (موصل) (زیارت)ی باوکمی کرد، باوکم (دائر) بہ (اِتّحاد)ی (أسلام)، (بعض)ہ فہرمایشی فہرموو، کہ لہ (خدمت)ی ہستا ووتی: "ئہ گہر (عالم)ی (أسلامیہت) چوار (ملا)ی وای ہہ با، ئہ م (شفاق)و (خلاف)ہ لہ (بین)ی ئیمہ دا، نہ ئہ ما".

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ﴾ ئہ وہش لہ (عجایبات)ہ، ئایا تہ ماشات نہ کردوہ، (علم)ت پی نہ گہ یوہ، ئہ بال ئہ وانہی گومان ئہ بہن ﴿أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ﴾ بہ (قرآن) ﴿وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ بہ (تورات)و (أمثال)ی ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ (محاکمہ) بینہ لای (کعب)ی (بن)ی (أشرف)، کہ (شخص)ی زؤر (طاغی)و (باغی) بوو، لہ (حق)ی (رسول)ی (أكرم)، لہ (أبن عباس) (روایہت) کراوہ: (شخص)یک لہ (منافق)آن، ناوی (بشر) بوو، داوای لہ جوئک کرد، جوو ووتی: "بچینہ لای پیغہ مبر" (بشر) ووتی: "بچینہ لای (کعب)" دواہ چوونہ (خدمت)ی پیغہ مبر (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغہ مبر (حق) دایہ جووہ کہ، (بشر) (راضی) نہ بوو، ووتی: "بچینہ لای (عمری بنی خطاب)" کہ چوون جوو (عرض)ی (عمر)ی کرد "ئیمہ چووینہ لای پیغہ مبر (حکم)ی فہرموو، ئہ وہ بہ (حکم)ی ئہ و (راضی) نیہ" (عمر) ووتی: "راستہ؟" ووتی: "بہ لئ" (عمر) ووتی: راوہستن تا دیمہ دہری" (عمر) گہ پایہ وہ، شیری لہ گہل خوی ہینا، شیری لہ ملی (بشر)دا، تا سارد بوو، مرد،

فہرمووی: "من وا (حکم) ئہ کہم لہ سہر کہ سئی کہ بہ (قضا) ی پیغہ مہر (راضی) نہ بی " ئہ و جا ئہ و (ایہ ت) ہ (نزول) ی کرد، ئہ مہ با وابی، (لکن) ئہ وہی تہ ماشای رہوشتی (انام) بکا ئہ زانی لہ (کُلّ) ی (عصر) ئہ و (نوع) ہ کہ سانہ زورن، کہ (دعوا) یہ کیان کرد ئہ یانہ وی ہر بیبہ نہ وہ، من گہ لیکم دیوہ لہ (مسلمان) آن، (مسلمان) ی چاک، بہ (طاعت) و (تسبیح) و (تہلیل)، ئہ گہر (دعوا) یہ کی بووی، زاناند بیٹی بہ (شرع) ئہ ی دؤر پئی، ووتوویہ تی: "من بہ (قانون) ئہ کہم " یا بہ (قانون) (حق) ی نہ درایتی، ووتوویہ تی: "من بہ (تجارہ ت) ئہ ی کہم " دیومہ کہ سئی (حکم) ی بہ (شرع) بؤ درابی، ئہ ی ووت: "دہستی (شرع) بیبری خونی لی نایہ، ئیمہ بہ چی (مسلمان) یین؟ بہ (شرع) ! " ئہ گہر دؤر اند بیٹی ئہ ی ووت: "نا (واللہ) (ملا) بہ خوی (شرع) ت گوری، چوں وانہ بی؟".

﴿وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (حال) یش وایہ (أمر) یان کراوہ تی، کہ (تصدیق) ی (طاغوت) نہ کہن، (إنکار) یان بکہن، تازہ (ماجری) ی ئہ و (طاغوت) ہ تان بؤ (نقل) کرا، چ (تحالف) یکی کرد، لہ گہ ل (قریش)؟ چ سویندیکی بہ دروی خوارد؟ (أما) ئہ و (نوع) ہ کہ سانہ (إطاعة) ی (أمر) ی خوا ناکہن، (أیمان) یان (مزخرف) ہ، دوی (ہوا) ی (شیطان) ی ئہ کہون ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ کہ (رئیس) (طواغیت) ہ ﴿أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿٦٠﴾ لہ ری (حق) یان لابدا، گومراہیان بکا، بہ گومراہی دور، (نسبت) ی لہ گہ ل (ہدایہ ت) نہ مینئ چہ ندئ لہ مہ و پیش (ذات) یکی بہ (دین) (متقن) بہ (تسبیح) و (ورد) و (أورد) و (أمین)، (مُؤْتَمَن)، (حاجی الحرمین) لہ گہ ل کرمانجیکی (أهل) ی (گۆپتہ پہ)، بؤ (دعوا) یہ ہاتنہ لام، (ذات) ہ بہ (دین) ہ کہ ی فہرمووی: "کہ سیک عہلبہ گہ نمیک بچینی، پاش شین بوون، نیوہ عہلبہ لہ و بنہ تویہ بہ (شخص) ی بفرۆشی، دروستہ، یان نا؟" ووتم: "نا، (قابل) ی (بیع) نیہ، گہ نم

بہ گہنمی نہ ماوہ، (مقدور التسلیم) نیہ " بہ کرمانجہ کہی ووت: "ئا، بابم
 پارہ کہم بدہوہ، ئەم (معاملہ) (حرام)ہ، بی (شرعی)یہ " کرمانجہ کہ ووتی:
 "قوربان ئەم (حکم)ہ ہەر بۆ ئەم سالہ، یا ہموو سالتیک وایہ؟" ووتم: ئەو
 قسہیہ (معنا)ی چیہ؟" ووتی: "قوربان ئەو (ذات)ہ چہند سالہ ئەو (معاملہ)یہ
 لەگەڵ من ئەکا، ہموو سالتیک دەغلی زۆر وەرئەگرئ، دەنگ ناکا، چونکہ
 قانزاجیہ تی، ئەمسال دەغل خراپہ، پیک بپہی لی داوہ، سن و کیسہ لە
 خوار دوویہ تی، ئەزانئ (ضرر) ئەکا، بەرۆکی گرتووم بچینہ (شرع)، من بہ سەر
 چاو، (راضی)م ئەوہندہ دەغلی لەو سالانہ لە منی وەرگرتوہ بمداتہوہ، منیش
 ئەو پارہی لەئەوم وەرگرتوہ، ہمووی ئەدەمہوہ " منیش گەلیکم سەرزەنشتی
 حاجی یہ کہ کرد، بہ (کمال)ی (مخجول)ی ہستا ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ (وَلَوْ) لہ
 (طرف)ی (غیر)ہ (دین) بی ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ لہ (قرآن)ی (کریم)
 ﴿وَإِلَىٰ الرَّسُولِ﴾ کہ نار دراوہ بۆ (حکم)ی بہ (حق) ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾
 (منافق)ہ کان ئەیبینی ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ ﴿٦١﴾ (إعراض) ئەنین لہ
 توو، روو وەرئەگێرن بہ رووہرگێرانی گہورہ، ئەوانہ لہو (نوع)ہ (وقائع)ہ،
 (إعراض) لہ توو ئەکەن ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ (حال)ی ئەوان
 چۆن ئەبی؟ کہ (مصیبت)یکیان پئ گیشت ﴿بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ لہوہی
 (جریان)ی کرد ﴿ثُمَّ جَاءُوكَ﴾ پاشان ہاتنہ (خدمت)ت بۆ (إعتذار)
 ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ سویندی بہ درۆ، وەك سویندی (کعب)ی (طاغوت) ﴿إِنْ
 أَرَدْنَا﴾ بہ (مراجعه)ی (غیر)ی توو ﴿إِلَّا أَحْسَنَّا وَتَوَفَّيْنَا﴾ ﴿٦٢﴾ ہیچ
 (مقصود)مان نہ بوہ (إلا) چاکہ نہ بی، مہ بادا بلین: " (البتہ) پیغہ مہر بہ دوای
 (تابع)ی خوئی ئەدا، ئیمہ (سبب) بہ (صفوہت)ی (إسلام) (موافقہ) ئەکەین
 لەگەڵ جوو (مراجعه)ی (ملا)ی ئەوان ئەکەین، ئایا لہ (حضور)ی توو (خجالەت)

نایانگری؟ وہ چوں (جسارت) نہ کہن، نہ و رووکہشی یہ، لہ (خدمت) ی تو بکن؟

﴿ **أُولَئِكَ الَّذِينَ** ﴾ نہ وانہ نہ وانہ ﴿ **يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ** ﴾ لہ و بزر نابی، نہ وہی لہ دلپانداہی، وہ (إعلام) تووشی نہ کا، بہ (مَنَوِيَّات) یان ہرچہ نہ نہ وانہ (مُستحق) ی (عُقوبات) ی زور (شدید) ن ﴿ **فَاعْرِضْ عَنْهُمْ** ﴾ (معدرت) یان (قبول) بکہ ﴿ **وَعَظَّمْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ** ﴾ بہ دزی کہ سیتہر ناگای لی نہ بی ﴿ **قَوْلًا بَلِيغًا** ﴾ (قول) ی (مؤثر) بگاتہ ناو دلپان ﴿ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ** ﴾ خدا ہیچ پیغہ مبرہی نہ ناردوہ، (إلا) بویہی ناردوہ، کہ (إطاعه) ی بکری بہ (رضا) ی خوادی، (طبیعی) نہ و پیغہ مبرہی خوا بی، بہ (رضا) ی خوا (حکم) نہ کا، وہ (إطاع) ی نہ و (إطاعه) ی خویہ (موجب) ی (رضا) مہندیہ تی، چوں نہ بی کہ سی بلی: "من (ایمان) م بہ و پیغہ مبرہ ہہیہ، وہ بہ (حکم) یشی (راضی) نیم " دیارہ (ایمان) بہ خواو پیغہ مبرہ (موجب) ہ بو (إطاعه)، وہ (رضا) بہ (حکم) یان ﴿ **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ** ﴾ نہ گہر نہ وان کہ (ظلم) یان لہ خویان کرد ﴿ **جَاءَهُمْ** ﴾ بی (تأخیر) (حتی) بی (ف) ی ﴿ **فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ** ﴾ دہر (عقب) (طلب) ی لی خوشبوونیان لہ خوا کردبایہ، لہ جیاتی نہ و (معدرت) ہ بی (اصل) ہ ﴿ **وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرُّسُولُ** ﴾ نہ ویش لہ خوی خواستبا، کہ لی یان خوش بیی ﴿ **لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا** ﴾ نہ یانزانی کہ خوا (قبول) ی (توبہ) نہ کا، (حتی) لہ و گوناہہ (عظیم) ہ، خدا (توَاب) یکی (رحیم) ہ گہ لی جار (قبول) ی (توبہ) نہ کا، (ولو) زور جاریش بیشکینن، نہ و ہش لہ (مقتضا) ی (رحمت) ی خویہ تی ﴿ **فَلَا وَرَبِّكَ** ﴾ نا، (قسم) بہ خوی توو نہ و (معدرت) ہ درویہ،

که لکیان ناگری، نه وی بی (إطاعة) بی، (ایمان) ی نیه، نه وانه ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾
 به (ایمان) ی دروست ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ﴾ هتا ته تکه ن به (حاکم) ﴿فِيمَا
 شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ له و شته ی که (نزاع) یان له سه ر بی، (إختلاف) ی تیا بی، له
 (بین) ی نه وان، (حق) و (باطل) تی که لاو بی، وه کو که لی دار که نه که ونه ناو یه ک
 ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا﴾ پاش (حکم) ی توو نه بینن (ملاقات) نه که ن ﴿فِي أَنفُسِهِمْ
 حَرَجًا﴾ له دلی خو یاندا (شک) و (شبهه) یا ته نگ ی (ضیقه ت) ی (صدر) ﴿مِمَّا
 قَضَيْتَ﴾ له (حکم) و (قضا) ی توو ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ به ته واوی مل
 رابکیشن، (منقاد) بن به (ظاهر) و (باطن)، (لاشک) نه وه له (لوازم) ی (ایمان) ه،
 وه (رفع) ی (لازم) (مستلزم) ی (رفع) ی (ملزوم) ه، نه توانین بلین: (لازم) و
 (ملزوم) ی کی (متساوی) ن، (رفع) ی (کُلُّ) ی، (مستلزم) ه بو (رفع) ی (آخر)،
 (إثبات) ی (کُلُّ) ی (مستلزم) ه بو (إثبات) ی (آخر)، نه گه ر نه وانه بین (توبه)
 بکه ن، به راستی (ایما)، بینن، نه بی و ابن نه و (شرط) ه بو (قبول) ی (توبه) و
 (ایمان) چ گرانی تیا نیه، (توبه) له (حق الله) ی (صرف) (رجوع) ی (إلی الله)
 (کافی) یه، (توبه) له (حقوق) ی (ناس) (رضا) مه ندی (ناس) ی پی نه وی، وه
 نه و (شرط) ه (سهل) ه، وه ک (بیان) کرا، له (لوازم) ی (ایمان) ه به پیغه مبه ری،
 خوا وه ک جوله که (تکلیف) ی گرانی لی نه کردینه، بو (ایما) به پیغه مبه ریان
 ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنْنَا عَلَيْهِمْ﴾ نه گه ر ئیمه له سه رمان نووسیبان، به (قطع) (حکم) مان
 کردبایه ﴿أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ خو تان بکوژن، وه ک (امر) ی کرده (عبده) ی
 (عجل)، نه مه ش (مناسب) ی (حال) ی نه وانه یه، که (مراجعه) ی (طاغوت) یان
 کرد ﴿أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ نه وه ش (مناسب) ی (حال) ی نه و (أنصاری) یه یه
 که (ده عوا) ی له گه ل (زبیری بنی عوام) بوو، له سه ر (مجری) ی ئاو (حق) و ابوو،
 که به (حکم) ی پیغه مبه ری (راضی) نه بوو، وه (إتهام) ی (رسول) ی خوی کرد،

کہ (حکم) بہ دواى پوورزای خوی داداوه، لهو (دار)و (دیار)ه دهرچی، ئهوجا (توبه)ی لی (قبول) بکری ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ نهیان ئهکرد، (إلا) کهم کهس نهبی، لهوان، وهك (حضرت)ی (أبو بکر) که ئه و (ایهت)ه هات، (عرض)ی (رسول)ی کرد، ئهگەر (أمر)م پی بکهی، خوم بکوژم، خوم ئهکوژم (حضرت) فهرمووی: "پاست ئهکهی، وهك (عمر) فهرمووی: " (والله) ئهگەر (أمر) بکا، ئهی کهن، سوپاس بو ئه و خودایه، که (سلامت)ی کردین " ئه و (خبر)ه گهیشته پیغهمبهر، فهرمووی: "له (أمة)ی من (بعض)ه (رجال) ههن، (ایمان) له دلی ئهوان (ثابت) تره، له (جبال)ی (ثبات)و (راسخ)، ئهوانهی (سبق)ی (إلى الإسلام)یان ههیه، (ایمان) پوچووه له دلیان، بوته (ملکه)، (لاشک) ههر (نوع)ی (أمر)یکیان پی بکری ئهی کهن. " (أما خروج)یان له (دار)و (دیار) دیاره، (ذاتاً مهاجر)هکان دهرکراوون، (أنصار)هکانیش (معظم)یان برایهکانی (مهاجر)یان له (مال)و (دهولت)ی خوین کردبوو (شريك)، (حتی) ئیویان ههبوو، دووژنی ههبوو، (تکلیف)ی له برادهره (مهاجر)هکه ئهکرد: ته ماشا بکه، کامیان (إختیار) ئهکهی، بوی (طلاق)ی بدا، (أخوه)و (إتحاد)ی (أسلام) وائهبی ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ ئهگەر ئهوان بیانکردبا، ئهوهی (وعظ)یان پی لی ئهکری -ههرچی بی- ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ له (دنیا)و (قیامت) ﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ (قرار)یان لهسهر (حق) به (قوه)تر ئهبوو، له گومراهی و گومان دووتر ئهبوون یاخود به (دوام) تر ئهبی، (خیر)ی (دنیا)یان به (خیر)ی (قیامت) (متصل) ئهبی، دیاره ئهوهی خوا (أمر)یان پی بکا، (مصلحت)ی (دنیا)و (قیامت)ی تیا ههیه، (رعايهت) (مصلحت)، (واجب) بی، یا (واجب) نهبی ﴿وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِن لَّدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا﴾ (أنه) کهسی ئهلی: "پاش ئه و (تثبیت)ه چیان پی ئهدری؟"

(جواب) ئہ وہیہ: کہ خوی (تعالیٰ)، له (طرف) ی خوی (ثواب) ی گہورہ یان پی (کرم) ئہ کا، ئہ وندہ گہورہ یہ، (أنه) بی (مقابل) ہ، (صرف) له (طرف) ی (کبریائی) یہ. لام وہیہ له بہر کہ م (مناسبہ) یی، بہ (واو) ی فہرموہ، نہک بہ (ف) ی، (مفسرین) لهو (ترکیب) ہ (منازعہ) یان ہیہ ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿٦٨﴾ له ہموو (خصوص) ی ئہ یانگہ یہ نیتہ (مقصود)، (تکلیف) ی وایان لی ناکا، گران بی، پی ی گومراہ بہن یا (موجب) ی (غضب) ی (إلهی) بی، (ذاتاً) له (سورہت) ی (فاتحہ) ئیمہ (دوعا) مان کرد کہ خوا بو ری ی راست (ہدایہت) مان بدا، (شرط) ی ئہو (ہدایہت) ہ، (إطاعہ) و (تسلیم) ہ، (ظاہراو باطناً)، (جبائی) ئہ لی: "ئہمہ بو (آخرت) ہ، وہ (مُراد) له ری، ری ی بہ ہشتہ" لام وہیہ، پاش (تثبیت) و (ایتا) ی (أجر) ی گہورہ، کہ (تقدیر) ناکری، ری ی (ہدایہت) ی (دنیوی)، لی گوم بووہ، وہ (حمل) ی کردوٹہ سہر (آخرت) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (أولو الأمر) یش (تابع) ہ ﴿فَأُولَئِكَ﴾ ئہ مانہ کہ (إطاعہ) ی خوا پیغہ مہر ئہ کہن (سیما) له (حکم) ی، کہ له (علیہ) یان بی، (ضرر) ی (مال) ی تیا ہہ بی، -بہ لکو- (إطاعہ) ی خواو پیغہ مہر، له شتی کہ قانزاجی تیا بی، (موافق) ی (میل) و (مشرب) ی بی زور ہونہ ری تیا نیہ، (ذاتاً) پیغہ مہر بو یہ ئہ نیردری، کہ بہ (إذن) ی خوی (إطاعہ) ی بکری، وہک (سابقاً) فہرموی ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وہ خوتان (طلب) تان کرد، (ہدایہت) مان بدہ، بو ری ی ئہ وانہ ی (إنعام) ت له گہ ل کردوون، ئہ وانہ ش کیئ؟ ﴿مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ (مفسرین) ی (کرام) لهو (مقام) ہدا، گہ لی قسہ یان فہرموہ، (موافق) ی (میل) و (مُصطلحات) ی (آیام) ی خویان، (سید) ی (الووسی) (نقل) له (بعض) ہ (تلامیذ) ہ ی (مولانا خالد) ئہ کا، کہ (مولانا) فہرمویہ تی: " (مراتب) ی (کمل) آن چوارہ: (أول)، (نُبُوّہت)، و (قطب) ی (مدان) ی ئہو (مرتب) ہ، پیغہ مہر ی

خۆمانہ، دووہم، (صدیقی)یہ، وہ (قطب)ی (مدار)ی ئوہ (أبو بکری صدیق)ہ،
 سئیہم (شہادہت): وہ (قطب)ی (مدار)ی (عمری فاروق)ہ، چارہم (ولایہت)ہ،
 وہ (قطب)ی (مدار)ی (إمامی علی)یہ، وہ (صلاح) له و (ایہت)ہ، (إشارة)یہ بؤ
 (ولایہت) " (بعض)ی له (حاضر)ان (عرض)ی کرد: "ئەدی (عثمان)؟
 "فہرمووی: "ئو (نائل) بوو، بہ (حَظ)یک له (مرتبہ)ی (شہادہت)، وہ (حظ)ی
 له (مرتبہ)ی (ولایہت)، وہ ئوہیہ (معنا)ی (ذی النورین)، لای (عارفین)آن".
 (سید)ی (آلووسی) خۆی (تفصیلات)یکی نووسیوہ له (قوم) - (یعنی) له
 (صوفیہ)ی وہرگرتوہ - وہ ئوہرمووی: "ئو (تفصیل)ی (مولانا)م نہدیوہ"
 (یعنی) له (کُتب)ی (قوم)، من ئوئیم: "ئوہی فہرموویانہ، له و (مقام)ہ بی
 (معنا)یہ (لاشک) ئو ہہرا ہہرایہ له (زہمان)ی (رسول)و یارانئ نہبوہ، ئو
 (کلمات)ہ ئوہی (معنا)یہکی لئ (مراد) بی، یارانئ گوزین کہ له (إطاعة)ی خواو
 پیغہمبہردا بوون، (فہم)یان کردبی، (ظاہر) وایہ (مقصود) له (نبی)، (نبی)
 (غیر)ہ (مُرسل) بی، (عام)یش بی، (ضرر)ی نیہ، (نبی) (ذات)یکہ (صاحب)ی
 (وحی)، له (طرف) خوا (أحكام)ی بؤ دئ، ئوہی (وحی) (إلهی) بؤ بی،
 قسہی تیا نیہ، کہ (مطیع)ی (أمر)ی خوایہ، چؤن (وحی) بؤ بی، وا رہفتار
 ئوہکا، (صدیق) له (صدق)ہ، (مقابل)ی درؤ، (معنا) زؤر راستگؤ، پیاو
 راستگؤ، خۆی (حکم) له (علیہ) خۆی ئوہکا، (حق) گؤ بہ (حق) (راضی)یہ، بی
 (شُبہہ)، (شہدا) (جمع)ی (شہید)ہ، چ بہ (معنا) (شہید)ی (معرکہ)، کہ سئ
 (فی سبیل اللہ) بؤ (إعلا)ی (کلمہ)ی (حق) (روح)ی خۆی بہخت بکا، بہ
 (حکم)ی خواو پیغہمبہر چؤن (راضی) نابی ہموو (دنیا) (مُقابل)ی (حیات)
 نیہ، وہیا بہ (معنی) (ملا) ئاگادار (راسخ الأیمان)، (شاهد)ی (بالحق)،،
 (قائم)ی (بالقسط)، ئوہش بی (ریب) (مُطیع)ہ، (صالح) دیارہ، ئوہی ئیشی
 چاک بکا، له گہل (ظروف)و (أحوال) بخونجئ، ریک و لیک و پییک بی، ئو (نوع)ہ
 کہ سہش بی (مریہ) (مُنقاد)ہ، فہرمانبہردارہ، کہ وابی ئو چوار (طائفہ) له

(إنقیاد) و (إطاعه) ی (حُکم) ی (إلهی) (شریک)ن، وہ کہ سئی له و (وصف)ہ (شریک)یان بی، بئی (شک) له گهل ئه وانہ، وہ (شریک)یانہ له (بعض)ہ (مزایا) نہ گاتہ ئه وان، (نظر) بہ (زیدہ)یی، ئه وانہ (نوع)ہ (إلتذاد)ہ کیان ھہیہ، بہ (نعم)ی (إلهی)، بؤئہم نیہ، وہ ئه و (حال)ہ نہ وہک له (جنّہت) له (دنیا)ش ھہیہ، دوو کہس له باغیّ یا له (قصر)یّ یا له (منظر)ی له (مناظر)ی (طبیعی) دائئہ نیشن، ئه وہی (نظر)ی وردبئی، بہ (إحساس) بی (لذّہت)یک ئه بینی، ئه ویتر بہ (خیال)یشیا نایہ، (حسب الظاهر) ھەر دوو کیان له یهک (محل)ن، بہ لام له (معنا)دا، له (مشاعر) و (إحساس)دا زور لیک دوورن ﴿وَحَسَنَ أَوْلَادِكَ﴾

رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ئه وانہ (رفیق)ی چاکن، نہ رمن، (أما) نہ رمه حیزی نا، نہ رمی (عواطف) و (حُب) و (مرحمہت) کہ سئی (فطرہت)ی خوئی تیک نہ دا، (طلب)ی (رفاقہت)ی چاکان ئه کا ئه گہر (حظ) ئه کہی کہ سئیک بناسی، تہ ماشای (رفیق)آنی بکہ، ھەر کہسہ له گهل ھہم (مشرب)ی خوئی ئه بئی بہ (رفیق) ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ﴾ ئه و (فضل)ی (ذکر) کرا ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ له (طرف) خوایہ، (أصل)ی (فطری)یہ، (نما)یہ (کسبی)یہ، ئه ویش (توفیق)ی خوای ئه وئی (فضل)ی خوا (عام)ہ، خودا (فیاض)ی (مطلق)ہ، کہ سئی (فطرہت)ی خوئی تیک نہ دا، خوا (إفاضہ)ی (خیر)ی بہ سہ ردا ئه کا، (فرق)ی ئه م و ئه و نا کا ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ ﴿٧٠﴾ ئه و (سر)ی (أشیا) ئه زانی، (أحوال)ی (نفسی) لای ئه و ئاشکرایہ، (ولو) له (ملك) بز بی، (مثله)ی (کوردی)یہ: (خوا تا چیا یان نہ بینی، بہ فریان ناویتی).

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (أیمان)ی بہ (قوہت)، کہ بؤ (إطاعه)ان (سوق) بکا، وہ (درجہ)ی (مطیع)آنتان زانی، ئه و (آیات)ی (سابقہ) (توطنہ) و (مقدمہ)یہ، بؤ ئه و (أمر)ہ ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ خوتان (مہیّا) بکہن، ئه وہی (أسباب)ی خو

پاراستنہ، بیگرن (ایمان)ی بہ (قوہت) و (قدرت)ی خوا (مغرور)تان نہکا، بہ تہمای (دوعا) و (موعا) و (ہمہت) و ممہتی (فلان) و (فلان)ہ، مہبن، (إعتماد) مہدنہ سہر (مُعجزہ) و آلاو مالآ، و ہک جوو، کہ (قوہت)ی (قلب)یان بہ (تابوت) بوو، ئہی وای! (مسلمان)آن چوون (مخالفہ)ی (أمر)ی خویان کرد؟ تاکوو لہ ہہموو (میادین)ی (قتال) شکان، بہ تۆبزہ قیر نیہ، ہل کوتانہ سہر تۆپ: "میگواری أحسن لو طوپہک؟! " وہبہ تفہنگہ شینکہ و شہنایدر چوونہ (مُقابلہ)ی (ہہوان) و طوپ و (قنابل) و (رشاشات)، بہسواری کہری شین، چوونہ (مزاحمہ)ی (قطار) و (سیارہ) و (طیارہ)، ہہی ہاوار: (غوٹی گہیلانی) ہاوار: (شیخ شاذلی)، فہریاد: (دسوقی)، فہریاد: (إمام رضا) (دہخیل): (شیخ)ی (سنوسی)، ہای: گہنج (عثمان)، وای تۆپی (کہل)ہ، (فائدہ)ی نیہ، خوا خوئی ئہفہرموی: " (خذوا خذركم) " ئہمانہ ہیچیان (حذر)، (حزن) نین، بو (قتال) کہلک ناگرن، (بالذات) (حضرت)ی (رسول) لہ (حرب) دابوو، بہ گویرہی (تعبیہ)ی (عسکری)، (مُخالفہ)ی (أمر)یان کرد، لہ شکری شکا، ئہوہی قہوما، قہوما، لہ (أعظم)ی (غلط)ی (مسلمان)آن، (تقیّد) بہ (سُنّہت)، (تمسک) بہ (أسلحہ)ی کؤنہ، گوئی یا (سُنّہت)ہ، (شہر) بہ شیروتیروپم، (مع أنه) پیغہمبہر ئہو (أسلحہ)ی لہ (زہمان)ی (جاہلی) و ہرگرت، وہ (نفس)ی (نُبُوّہت) بہ (خُصوصی) (سلاح) نیہ، چ (سلاح)ہ؟ ئہوہ (لازم)ہ ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ بچنہدہر، بو (لقا)ی (عدو)، (شہر) بکہن، بو (خیر)، جہمات، دوا جہمات ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ بہ گویرہی (قوہت)ی (عدو)، چوون (أیجاب) ئہکا؟ وابکہن، (ثُبَات) (جمع)ہ، (أصل)ی (ثبوہ) یا (ثبیہ)ہ، (یعنی) (واوی)یہ، یا (یائی)یہ، (صنیع)ی (قاموس) (صریح)ہ، کہ (جمع)ی (واوی)یہ، (ثُبَات)ی نیہ کہ (یا)ی لہ (أصل)ی (کلمہ) بی ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ﴾ ہہیہ لہ ئیوہ (بعض)یک، (بطائت) و سستی و گرانی و بہ کاوخوی ئہکہن، خوئیان بہ پاش

ئەدەن (تأخیر) ئەبن، تا (شەپ) ئەکرئ، ئەوجا ﴿فَإِنْ أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً﴾ له
 کوژران وشکان ﴿قَالَ﴾ بە (کیف) ی خوۆشی و (رأى) پەسندی ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ
 عَلَيَّ﴾ بەو (بَطَّاءَت) ه، خو گنخاندنە ﴿إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ (۷۲) له گەل
 وان (حاضر) نەبووم، وه (إِلَّا) منیش تووشی (بلا) ئەبووم ﴿وَلِئِنْ أَصَبَكُمْ
 فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ ئەمە بە (قووت) ترە، له (تحقیق) نەزیکترە، بۆیە ئەفەرموی:
 " (لِإِنْ) ئەگەر (فضیلە) کتان له (طرف) خوا پئی گەیشت، (غلبە) یەك،
 (غنیمەت) یك ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ ئەو قسەكە ئەى كەن وا ئەنوینن، (أولاً) ئاگیان لەو
 (مسئله) نەبوە ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ (خبر) تان لیك نەبوە، وهك
 دوو كەس له یەك (غائب) بن، وه كاغەز بۆ یەك بنووسن، چى ئەلین؟ ئەلین:
 ﴿بَلَّيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (۷۳) خوژیا له گەل ئەوان بام، تاكو
 (نائل) ی (خیر) یكى (عظیم) بووبام، (أیمان) دارى راست، چونكه بۆ (إعلا) ی
 (كلمه) ی (حق) (شەپ) ئەكا، (غنیمەت) بۆ ئەو (زیدە) ی یەكە، ئەوهى بۆ
 (غنیمەت) ی بكا، لای وایە، ئەگەر شتیكى بە دەست كەوت، (خیر) ی زۆر
 گەورەى چەنگ كەوتو، كه له گەورەى (تخمین) ناكړئ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ ئەوانەى (مسلمان) ی راستن،
 وانەكەن، گوئ ئەدەنە، ئەو (هذیانات) ه، باشەپ بکەن، له رىى خوا، ئەو
 (مسلمان) آنەى كه (دنیا) ئەفرۆشن بە (قیامەت)، (حیات) ی (دنى) ئەدەن، بە
 (حیات) ی (عالی)، یاخود ئەو (منافق) آنەى كه (آخرەت) ئەدەن، بە (دُنیا)،
 (دُنیا) ئەگرن، (قیامەت) ئەفرۆشن، ئەمە (ترك) بکەن، با له رىى خوا (شەپ)
 بکەن ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نەك بۆ (حُطام) ی (دُنیا) ی (دنى) ﴿فَيُقَاتِلْ

﴿أَوْ يَغْلِبْ﴾ بکوژئی، یا (غالب) بی به سهر بکه وی ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۷۴) (قیاس) له (غنائم) ناکرئی.

(مسلمان)ی (ایمان) (محکم) له (سلم) و (حرب) (مقصد)ی (رضا)ی خودایه، بویه (شهر) ئه کا، (أبنا)ی (نوع)ی خوی له (خسهت)ی (عبودیهت)ی که رو گولک و (أمثال)ی ئه وانه (نجات) بدا، به (إعتقاد) له (وحدانیهت)ی (إلهی) بیکا به (حُرّ)، (شرف)ی (إنسانی) بو (تمثیل) بکا، گه لیکنان دیوه، له شه پری خوبه خویی، خوی له سهر جله مانگایه که به کوشت داوه، (أما) بو ریی خوا،

بو (شرف)ی (أنسانیتهت)، (تحمل)ی برینیکی سهره ده رزی نه بوو ﴿وَمَا لَكُمْ لَا

تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ (ذاتاً) وهك (عرض) کرا، (مقصد) له (حرب)، (نجات)ی (ضعفا)یه - (خاصه) - کی هم (عرق) و هم (دین) بن

﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ له پیاو ژن و مندالانی که (محصور)ن له (ایام)ی

ئیوه، له بهر دهستی (مشرك) آن (أسیر)ن ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ ئه و (رجال) و (نساء) و (ولدان) ه (مستضعف) آنه ی، که

ئه لئین: "ئه ناوړینه وه له بهر خوا: "خوایه (نجات) مان بده ی، له و شارهی که (أهل) ه که ی (ظالم)ن، (عذاب) مان ئه دهن، له (حقوق)ی (بشری) (محروم) مان

ئه که ن، (حاصلی): (متجاوز)ن له (حد)ی (مروته) و (إنصاف) " ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ وَليًا﴾ (صاحب) یکمان بو په یا بکه ی، له (طرف) خوت (إدارة)ی

(أموار) مان بکا ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ (۷۵) که سی که (نصرهت) مان بدا،

(إنتقام) له و (ظالم) آنه و هرگریته وه، ئایا ئیوه به زه بیبتان به وانه دانایه؟ ئه ی (مهاجرین) (حال)ی خوتان، له (فکر) نه ماوه؟ چون ئاگری (غیرهت) له دلتاندا

هل نایسی؟ (حملة) نایه تن بو سهر ئه و (ظالم) آنه، تا ئه و (مظلوم) ه بی

دهسه لات و هیژانه، له چه نگیان (نجات) بده ن.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَقْنَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْنَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

فَقَنَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧١﴾﴾ ئەوانه ی ئەبن، به (ولی) و (نصیر) بۆ بئ دەسه لاتان کین؟ ئەوانه ن که به پاستی و دروستی و تهواوی (ایمان)یان هیئاوه، (علامهت)ی پاستی (ایمان)یان ئەوهیه، که (جهاد) و (غزا) ئەکه ن، له راهی خوا، بۆ (نجات) دانی بئ دەسه لاتان، وه ترسیان نیه، لهوانه ی که (کافر) بوو ون، وه (شه) ئەکه ن له پاهی (هوا) و هه وهس و (رئاسهت) و (بوت) و (شیطان)، (إمتثال)ی (أمر)ی خوا ئەکه ن لهوانه ناترسن، پشت و (قوهت)ی ئەوانه (ضعیف)ه، (هوا) و هه وهسه، (خیالات)ه، (دُنیا)یه ئەبریته وه، پشت و (قوهت)ی (مؤمن)ی به پاستی و تهواوی، به پاستی خوایه، (ثواب)ی (أخری)یه، نابریته وه (أساس)ی (مُحرک)ی ئەوانه (وسوسه)ی (شیطان)ه، (مُشجّع)ی (مؤمن)ی به پاستی و دروستی، (أمر)ی (حقیقی) ئەوه، خوایه، (وسوسه)ی (شیطان)ی به (نسبهت) ئەوه (نوع)ه (مؤمن)آنه، (هبا)یه، (زیف)ه، جئ ترس نیه، (ضعیف)ه، (أمر)ی خوا، لای ئەوان، له هه موو شت گه وره تره، جئ ترستره، ئەدی ئەوه (مؤمن)آنه ی وه ئەوان تهواو بن، چۆن؟ ﴿الْمَرْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ كه سئ (تتبع)ی (آثاری) (نفسیه)ی (أنام) بکا، ته ماشای (حال)ی (بدوی) و (حضری)، خوینده وارو (جاهل)، (طاعهت) گوزارو (فاسق) بکا، ئەزانئ (على الأكثرية الساحقة) (حضری) خوینده وارو (مشغول) به (عبادهت) ترسنۆك ئەبن، (خاصة) ئەوانه ی (إنهماك) بکه ن، له (رياضهت) و (خُلوهت) و (مُراقبه)، ئەوانه (بالکلیه) (أثر)ی (شجاعهت)یان لانا مینئ، ئەوه جئئ (تعجب) نیه، لهوانه یه، که پی بیان ووتراوه: دهست درپژئ مه که ن، بۆ (مال) و (روح)ی کهس ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ نوپژان بکه ن، (زهکات) بدهن، به وهنده (تکلیف)ه بگه نه

(درجہ) ی (جبانہت)، له و (حُنُو) و (رفق) (تجاوز) بکن ﴿فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَالُ﴾
 کہ شہریان له سہر نووسرا ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ (طبیعی) ھہ موویان ترسنوؤک نابن،
 بہ لکو (بعض) ھکی واہیہ، (طاعت) و (عبادہت) (قُوہت) ی (زیاد) ئہ کا،
 (جسارہت) ی (زیاد) تر ئہ داتی، (لکن) ئہ مانہ کہ من ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ﴾ له خہ لکی
 ئہ ترسن، دوژمن و دوؤست، (بعض) یئک وایان لی دئی، له تہ قہی دار رائہ چہ نن،
 یہ کہ بہ خو ھاوار ئہ کہن ﴿كَخَشِيَةِ اللَّهِ﴾ و ھک ترسیان له خوا ﴿أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً﴾،
 (وہقت) ی کہ (انگلین) ھاتن بو ولاتی ئیمہ، ئہ و ھندہی مانہ و ھ، (مسلمان) یئک
 نہ یتوانی کہ سیک بکوژی، ریگری بکا، پووش بسووتینی، مامریک له ئاو بکا،
 ئہ و شہ و ھی کہ (حاکم) ی (سیاسی) له کوئیہ رویشت، له (طرف) ی شہ و روژیئک،
 له (أطراف) ی شار، یازدہ کہ س کوژران، دزی، ریگری، (نہب) و (غارہت)،
 (قتل) و (قتول)، شہ پو شوپ گہیشتہ (أوج) ی (أعلى)، روژیئک (بعض) ی له بہ گ
 زادانی خو شناو ئاغاواتی کوئیہ، ھاتنہ لای من، بو (بعض) ھ پاو (تدبیر)، پیم
 ووتن: "ئہ گہر خوا (سؤال) یان لی بکا، بو چی تا (انگلین) لہ ناوتان بوو،
 (ساکن) و (ساکت) و بہ ئارام و بی (سیئات) بوون؟ کہ رویشتن، (نائرہ) ی
 (فتنہ) و (فساد) تان بہرپا کرد؟ (جواب) تان چیہ؟ دیارہ (جواب) ئہ و (ایہت) یہ
 ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِتْنَالُ﴾ بوچی (شہر) کردنت له سہر نووسین؟ ئیمہ
 ئارہ زووی (سلم) مان ھہیہ، (عبادہت) ی توو ئہ کہین، نوئیژ ئہ کہین، (زہکات)
 ئہ دہین، گہ لی کہ س له (مسلمان) آن ئہ یان ووت: "چ (قہید) ی یہ؟ (انگلین)
 (استیلا) ی ولاتی کردوہ، (منع) ی نوئیژ و روژوومان ناکا، (دہخل) ی (آداب) ی
 (دین) و (قومی) مان ناکا " ﴿لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ (أجل) ی مردن، (أجل) ی
 نہزیکہ، ئہ وانہ له (حقت) دا، (طرف) داری (سلم) نین، بہ لکو ترسی کوژران
 (غلبہ) ی لی کردوون ﴿قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (معظم) ی (طرف) دارانی (سلیم) بو

(نفع)ی خوئیانه، بہو (حیلہ) بازی یہ، (عزم)و (جزم)ی (عدو)ی خوئیان نایہ لن،
 ئەوجا بہ سہریاندا (غالب) ئەبن، گوشتی بیئ ئیسک ئەخون، پییان بلئی:
 "ہرچی (منافع)و (مستلذات)ی (دنیا)یہ، کہمہ، ئەپرئ، (ولو) بہ مردنی ئەو
 کہسانہ بیئ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ وہہر کہسئ (خیر) خواہی خوئی بیئ،
 ئەوی چاک بیئ، ئەوی ئەوی، ہر کہس لہ ئیوہ یا ہر کہسہ، بہ (جزا)ی خوئی
 ئەگا ﴿وَلَا تظَلْمُونَ فِئِيلًا﴾ (۷۷) بہ (ضمیر)ی (خطاب) یا (غیبہت)، (تفسیر)ی
 (قتیل) رابورد ﴿أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ﴾ ئەگہر (استکراہ)ی (قتال)تان
 لہ ترسی مردنہ، بیئ (فائدہ)یہ، لہ ہر کوئی یہ بن، ئەمرن ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
 مُّشِيدَةٍ﴾ با لہ ناو قونگرہو (قہلات)آ بن، لہ (اختیار)ی (أحوال)ی (أمم)
 دہر ئە کہوئ، ہر (قوم)ی (إحتقار)ی مردن بکہن، (روح)ی خوئیان لہ سہر
 دہست دابنئین، لہ ئوغری (دین)و (ملّہت)و (وطن) (روح) ببہ خشن، سہر
 ئە کہون، (نائل)ی (حیات)ئ (مسعود)آنہ ئەبن، بہ سہر بہرزی لہ سہر ئەرزی
 ئەژیہن، (صدیق) بؤ (خالد)ی ئەنووسی: " (طلب)ی مردن بکہ، تووشی
 (حیات) ئەبی " (خالد) بؤ دوشمنانی ئەنووسی (فخر)و (مباہات)ی بہو
 (جماعت)ہ ئە کرد، کہ لہ (معیت)ی دان " ئەوانہ مردنیان خوئ ئەوی، وہک
 ئیوہ (حیات)تان خوئ ئەوی " بؤ (بعض)ہکانی ئەنووسی: " یارانئ من
 (محبّت)ی مردنیان ہہیہ، وہک ئیوہ (محبّت)ی (شراب)تان ہہیہ " .
 ہر (شرف)یکئ (غربی) (نائل)ی بوون، لہ: (استیلا) لہ (إختراع)، بہ
 (واسطہ)ی (استحقار)ی (موت) (نائل)ی بوون، بؤ (مسلمان)آن ترس لہ مردن
 (أصلاً مُّوَأَفِق) نیہ .

بہ لئ بؤ کہسئ (مغرور)بی، لہ (لذائذ)ی (دنیا) پوچووبی، لہ مردن ترسان، زور
 باشہ (عجایب) نیہ، ئەوانہی (ایمان)یان بہ خواو روژی (جزا) نیہ، کہ لہ ریئ
 (ملّہت)و (وطن)ی خوئیان، (روح) بدہن (مسلمان) کہ بہ ئومیڈی (لقا)ی خوان،

بترسن، خویمان له (قتال) بیاریزن جی (تعجب) ه، (عجایب) ترئوہیہ، (علما) ی (کلام) له سہر (مذہب) ی (أشعری) به هہموو (قوہت) ی خو ی (إثبات) ئہ کا: ((أجل) یہ کہ، (تقدیم) و (تأخیر) ی نیہ) (مع أنه) له گہلّ تہ قہ ی تہ فہ نگ دلی ئہ تہ قی، (أصلاً) ئاگای له (معتقدات) ی خو ی نامینی، هہلبی، تاژی به تاوی ناگاتی، بویہ له (لوازمات) ه (أهل) ی (علم)، (أهل) ی (طریق)، (تعلیم) و (تعلیم) یکی (حرب) یان بی، له (تجربہ) ی (حرب) دہرچوون، بو ترس شکان، له ہہزار (دلیل) چاترہ، ہیچ نہ بی و ہک قہ شہکانی (ٹاورپی) و (ئہمریکایی) له (صفوف) ی له شکر، (ترغیب) و (تشویق) بکہن، نہک له سہر (کتیب) قور تووم دریژ کہن، له گہلّ (تقریر) رہگی ملیان بئاوسی، (مع أنه) ئہمپو بہ (وجہ من الوجوہ) قہ لای (محکم) کہ لک ناگری، (طیارہ) (هاون)، توپی فرق ئیکی لک، (شراب نیل)، (دینمیّت)، (لغم)، قہ لای کردوٹہ (بيت العنكبوت)، چارہ (مقابلہ) ی (بالمثل) ه، (لکن) روپی ﴿وَإِنْ تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ئہو (فریق) ه، (مسلمان) بوون، نہ جوون نہ (مُنافق)ن، ئہوہی لای (حقیر) (مُختارہ)، ئہ گہر چی (مفسر) ہکان (توہین) ی ئہو قہ سیان کردوہ، بہ لام کہ ترس (غالب) بوو، (محاکمہ) نایہ لئی، (حظ) ئہ کہن، بہ (سلم) (إمرا) ی (حیات) بکہن، (حتی) ئہو ترسہ له (أول) ی (خلافت) ی (أبو بکر) ی (صدیق) له دلی (أكثر) ی (مسلمان) آنی (صحیح الإیمان) پہ یا بوو، (إصرار) ی (صدیق) له سہر شہر، (إزالہ) ی کرد، پاش (نیل) ی (ظفر) (شکر) آنہ یان ئہ کرد، ئہ یان ووت: "ئہ گہر (عزم) و (جزم) ی (صدیق) نہ بایہ، ئہو (دین) ہ له گہلّ (صاحب) ی ئہ چوہ ناو قبر "ئہ گہر له بہر ئہو (میل) ہ نہ بواہ ئہ یانزانی، (خیر) و (شہر) له (طرف) خواہ، ﴿وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ خراپہ یہ له کوژان و سائری (مصائب) ی (دائر) بہ (قتال) ﴿يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ ئہمہ له (طرف) توہیہ، ئہ گہر (میل) ی (حضرہتی) (رسالہت) نہ بی، (جنابی) (حق) (أمر) ناکا بہ

(قتال)، زیرا ئہ یان دیت گہ لئ (ایہت) لہ سہر (مشرَب) ی (فاروق) ی (أعظم) ئہ ہات، (فضل) لہ (میل) ی (رسالہت)، (حبیب) ی (أکرم)، (مُطاع) ی (أمین) ﴿قُلْ﴾ ئہ ی (رسول) ی (مُجتبی) ﴿كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ من (تسلیم) م، چی ئہ و (أمر) بکا - (ولو) بہ (مراحل) لہ (میل) ی من دوور بی - من (إطاعه) ی ئہ کہ م ﴿فَالِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (۷۸) چی یہ؟ بو ئہ م (قوم) ہ، کہ نہ زیك نین، چ قسان تی بگہن، خوشیان نازانن چی ئہ لئین، لہ بہر ترس، ئہ وانہ لہ (قوم) یك بوون، کہ خۆبہ خۆیی (دائم) لہ (قتال) بوون، (أصلاً) ترسیان نہ بوو، لہ سہر حوشتريک (آثوار) ی یہ کیان ئہ بریہ وہ، ئہ میستا خوا (أمر) ئہ کا ئہ م (قوہت) و (جلادہت) ہ بو خوا (صرف) بگہن، ببنہ (کتلہ) یہ (واحدہ)، روو بگہنہ (أجانب)، لہ (ذل) و (أسارہت) ی (إعتقادی) و (سیاسی) دہرچن، تووشی (حیات) ی (فاخر) بین.

(حق) وایہ ہرچی (أهل) ی (أیمان) بی، (أیقان) بکا، کہ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ ئہ مہ بی (إشتباہ) ہ، وہ (موجب) ی (قطع) ی (غرور) ہ بہ (عمل)، کہ (عاقبت) ی (غرور) شکستہ ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ (مادام) (نسبت) ی بو (غیر) ی خوا بدہی ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ لہ خۆتیہ وہ بزانیہ، (علاج) ی بگہ. لہ میژہ (قوم) یك لہ (مسلمان) آن پہ یا بوون، چاکہ بی، (نسبت) ی بو خۆیان ئہ دہن، یا بہ (مشایخ) یان، خراپہ بی (نسبت) ی بو خوا ئہ دہن، (حقاً) ئہ مہ (خارج) ی (سبیل) ی (أهل) ی (أیمان) ہ، (أصل) ی (خلق) و (أيجاد) ی (خیر) و (شہر) لہ خوایہ، لہ (أمر) ی (نسبی) یہ، (أحق) ی (قول) ئہ مہ یہ، کہ (قرآن) ئہ ی فہرموی (بعض) یك لہ سہرامہ دانی (علماء) ی (طبیعت) ئہ لئین: ئیمہ بہ (إعتبار) ئہ وہ کہ خوا (مبدأ) (وجود) ی (کائنات) ہ، (إنکار) ی (نسبت) ی (أشیا) بو خوا ناکہین، بہ لام نالئین: "ہرچی رووبدا لہ (عالم) ی (کون) و

(فساد) - (بلا سبب) و (علت) ہ۔ (رأساً محضاً فعل) ی خواہیہ، بہ لکھو تہ ماشای (أسبابی) ی (قربہ) تہ کہین، تا (موجب) ی نہ زیك بدؤزینہ وہ، لہ (جہت) ی (کشفیات) مان بؤ دہرئہ کہوی وہ (إلا) ریگہ ی (علم) بہ جارئ (سد) تہ کری " (حکما) ی (غرب) تہ و (نوع) ہ (إعتقادہ) یان لا (مانع) ی (ترقی) (بشر) بوو، بویہ بوونہ دوژمنی (أدیان)، (حقیقہ) دوشمنایہ تیان لہ گہ ل (دین) ی خویان - کہ (مسیحی) یہ (حق) ہ، (أما) لہ گہ ل (أصل) ی (دین) ی (أسلام)، نا ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ﴾ ہہ مووی، (عہ رب) و (غیر) ی (عہ رب)، تہ وانیش (ایمان) بیئن، (حق) ت لہ سہریان نیہ ﴿رَسُولًا﴾ پیغہ مبرئ (حق)، (مُنْتَظَر) ی (أمر) ی (إلهی)، بی (میل) و (محابا) (رسول) یکہ بہ (حق)، (منقبہ) ی (رسالہت) ی بلندہ، (حقاً) من لام وایہ، (رسالہت) بہ (محمد) تہ نازی، لہ (تأریخ) ی (۱۳۰۹ھ) باوکم بہ (أمر) ی پادشاہی (آل عثمان) بؤ (مصلحت) یک چوہ (سابلاغ)، (حاکم) ی (سابلاغ) (علی خان) ناو، پاش چہند (مجالسہ)، کہ لہ (فکر) و (علوی) (ہمت) ی باوکم تی گہ یشت (دفعہ) یہ لہ (مجلس) ی گہ ورہ گوتبووی: "من ہر (ملا) یہ کی دیبووم، (علم) تہ وانی گہ ورہ و (قیمت) دار کردبوو، (أما أشهد بالله) (حاجی ملا عبد الله أفندی) (علم) ی (قیمت) دارو گہ ورہ کردبوو، لہ ہہ موو (مسلك) ی تہ و (نوع) ہ (ذات) ہ بہ (نادر) ہ ل تہ کہون " منیش لہ ناوہندی دلہ وہ تہ لیم: بہ (إخلاص)، بی روو (ریا) - " (أشهد بالله حضرہ تی) (محمد المصطفی، خاتم الرسل) پیغہ مبرایہ تی تہ رزوندہ کردوہ ". وہ باوکم (مجدد) ی (قرن) ی چواردہ مینی (ہجری) بوو، بہ لام لہ (زاویہ) ی (کویہ)، بہ (ضایع) چوو، تہ گہ لہ جی یہ کی وہ کو (مصر) بواہی، (نفع) ی تہ و بؤ (إسلام) لہ (محمد عبده) زیاتر تہ بوو، وہ (صیت) ی لہ (صیت) ی تہ و دوورتر تہ پوی ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (۷۹) لہ سہر (رسالہت) و (صدق) و خیر خواہی توو، بؤ (عالہم) ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ﴾ (من حیث ہو

رسول ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ﴾ فہرمانی ئو فہرمانی ئمہ، فہرمانبہرداری پیغہمبہر، فہرمانبہرداری خواہیہ ﴿وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ ﴿۸۰﴾ ئوہی (إعراض) ئہئی با (إعراض) بنی، تو (مكلف) ی بہ (دعوہت)، نہناردراویہ سہر ئوان، بہ (مُہیمن) و (مُکرہ) و (مُجبر) " بو (قبول) ی (أیمان)، (آیہت) ی (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) لہ (سورہت) ی (بقرہ) (تقریر) کرا ﴿وَيَقُولُونَ﴾ ئوانہی ئو (آیہت) انہیان (أستماع) کردوہ، تیچرا لہ (حضور) ئلین: ﴿طَاعَةٌ﴾ (طاعت) و (إنقياد) بو توو لہ سہر ئیمہیہ، ہرچی ئو فہرموی، (قبول) ہ ﴿فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ کہ لہ لای توو، رویشتن بو مالی خویان ﴿بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ (ضمیر) ی (تقول) یا (ضمیر) ی (مفرد) ی (مؤنث) ی (غائب) ہ، (راجع) ہ بو (طائفہ)، یا (ضمیر) ی (خطاب) ہ، (راجع) ہ، بو (رسول)، (صلى الله عليه وسلم)، (یعنی) شہو (نیہت) ی تر ئہ کەن، ئہی گورن، (تَبَيُّتُ) بہو شتہ ئلین، کہ لہ شہو (جَزْم) و (تصميم) ی لہ سہربکری، و ہک (تَبَيُّتُ) ی (صوم) ی (رمضان)، (یعنی) (قصد) کردنی بہ روژوو بوونی روژی لہ شہو، (حتی بعض) ہ (منافق) ئہیان ووت: "ئو پیاوہ (مقصود) ی ئوہیہ، ئیمہ بہ (رب) ی بزائین، و ہ دیان (عیسی) بہ (رب) ئہزانن، لای خویشی لہ (شرك) دوور کہوتیہ، ئہی ہوو، این کوجاو آن کوجا؟! ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾ لہ (صحائف) ی (أعمال) یان، یا لہوہی کہ بو تووی (وحی) ئہکا، ئاگادارت ئہکا، لہ سہر (معنویات) یان، کہ بترسن لہ (مُجازات)، خو ببپاریزن لہ آپووچوون، لہ (خدمت) تووو (مؤمن) ہ راستہکان ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ (أهمیہت) یان نیہ، چی (قصد) ئہ کەن، با بیکن ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ئیش و کاری خوٹ (حوالہ) ی خوا بکہ، دلئی خوٹ (محکم) بکہ، بہ (وعد) ی

خو ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿۸۱﴾ ئەو ئیش و کارت بۆ رېك ئەخا، (كافی)یہ بۆ (دفع)ی (ضرر)ی ئەوان و (سائر)ی (شوون)ی توو ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ ئەوانہ ئەگەر ئەلین: "ئیمہ چۆن بزانی، کہ خودا (شاهدی) ئەدا، لەسەر راسی (حضرت)ی (محمد) (صلی اللہ علیہ وسلم)؟" با تہ ماشای (قرآن) بکہن، بە (نظر)ی (ثاقب)، (فکر)ی (صائب)، ئەزانن بۆ (شُبہ) کہ ئەو (قرآن)ە (وحی) (إلهی)یہ، لە (طرف)ی (خالق)ی (أکوان) ناردراوہ ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ (ولو) (نفس)ی (حضرت)ی (محمد) بوايہ ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿۸۲﴾ (علما)ی (تفسیر) لە (سُنِّي) و (مُعْتَزَلِي) (تفصیلات)یان هہیہ، لە (تفسیر)ی ئەو (ایہت)ە، (خلاصہ)ی هہمووی ئەوہیہ، کہ (قرآن مُعْجِزَه)، ئەگەر چی (إختلاف)یان هہیہ، لە (وجہ)ی (إعجاز)، (أَمَّا) لای (حقیر) لیرہ (مقصود) (إظہار)ی (إعجاز) نیہ، تا خو ماندوو بکہین، بە (بیان)ی (وَجوہ)ی (إعجاز)، چونکہ چہند (ایات)ی تر هہیہ (صریحہ) لەو (مُدْعَا)یہ، بە لکو (صریح)ی (ایہت) ئەمہیہ: ئەگەر (قرآن) لە (طرف غیر) خوا بوايہ ئەوانہ، (إختلاف)ی زوریان تیدا ئەدیت، (لکن إختلاف)ی زوری تیا نابینن، کہ وایی، لە (طرف) خوايہ. من ئەلیم: "بہ (عون)ی خوا، کہ سئی (أیمان)ی هہبی، کہ خوا (فاطرہ)، (خالق)ی (أکوان)ە، بە (قدر) (وُسع)ی تہ ماشای (سُنن)ی (طبیعہت) بکا - (خاصہ تأمل) بکا - لە (دہولت)ی (حیات)ی (نباتات) و (حیوانات) و (إنسان)، چۆن بہ (تطور)، وردہ وردہ (ترقی) ئەکا، (نُما) ئەکا، لە (نقص) بۆ (کمال) ئەچی وہ گہلی لەم رییہ، تووشی (موانع) ئەبۆ، ئەگەر (قدرت)ی بوو، لەسەر (مُدافعہ) باشہ، وہ (إلا ضعیف) ئەبی وہ ئەفہوتی، وہ ئەزانی ہەرچی (تربیہ) بکری، لە گہل (وحشی) بۆ (تربیہ) (تفاوت)ی زورہ، وہ (مُستمرًا) (نباتات) و (حیوانات)ی (غیرہ) (نافعہ)، (استیلا) ئەکا بەسەر (نباتات) و (حیوانات)ی بۆ (فائدہ)، وہ پاش ئەو (نظر)ە، تہ ماشای (قرآن) بکا،

وہ (غرض) ی (قرآن) بزانی، کہ (تربیہ) و (ترقی) (بشر) ہ، لہ (سفالت) ی (اعتقادیات) و (عملیات)، وہ ہرکہ سی، لہ گاوان و شوان و شاہوگہ دا، (رئیس) و (مرؤوس)، (شرف) ی (انسانیہت) بزانی، ئہ و جا (تطبیق) ی (أصول) و (قواعد) ی (قرآن)، لہ گہل (سنن) و (نوامیس) ی (طبیعت) بکا ئہ زانی، (ایقان) ئہ کا، ئہ وہی (خالق) ی (أکوان) ہ، ہر ئہ وہ (مُنزِل) ی (قرآن) ہ، ہر دوو (کتاب) لہ (طرف) ی (ذات) (ترتیب) دراوہ، وہ (إختلاف) ی لہ (قرآن) دا بی، بہ گویرہی (إختلاف) ی (تطورات) ی (طبیعیات) ہ، وہ لہ و (إختلاف) ہ شدا، باز (قرآن) (مجازات) ی (طبیعت) ئہ کا، بو (تعديل) ی (طبیعت) لہ (بین) ی (إفراط) و (تفریط)، بوئہ ئہ لئین: " (دین) ی (إسلام) کہ لہ (قرآن) وہ رگیراوہ، (دین) ی (فطری) ی، (مثلاً) (فطرہت) ی (أنسان) (أساساً) پاکہ، (لکن مریبات) ناہہ موار (إفساد) (فطرہت) ی ئہ و (معصوم) ہ ئہ کہن، آن (زیادہ)، (قرآن) دوشمنی ئہ و (مُفسد) آنہ ی، ئہ و (مُفسد) آنہ بہ (عدو) ی خوا ئہ زانی، ہر (إنسان) ی ببی، لہ ہر (ملّہت) ی ببی، (خالی) نیہ لہ (میول) ی، ناتوانی (إحاطہ) بدا، بہ (غرائز) ی (قوم) ی خوئی، (فضل) لہ ہہ موو (بشر)، بو ئہ وہی لہ و (موضوع) و (غایہت) ہ، (کتیب) ی راست، بی (إختلافات) ی زور، بی (میل) و (محابا)، بی (إفراط) و (تفریط)، بی (تحسین) ی (قبیح)، وہ (تقبیح) ی (حسن) بی (مُغالطہ) و (مُشاغبہ)، (تألیف) بکا، (حتی) لہ (عصر) ی ئیمہ کہ ئہ لئین: (عصر) ی (علم) و (عرفان) ہ " گہ لی کہ س لہ (مُحررین) ی (تواریخ)، گوئی یا خوئی لہ ہہ موو (میول) و (عادات) و (تقالید) ی (قوم) ی خوئی (تجرید) ئہ کا، تا (تاریخ) ی خاوین، (موافق) ی (حق) و (حقیقہت) دابنی، باز (میل) ی (قوم) ی (سوقی) ئہ کا، بو (خلاف) ی (غایہت) ہ کہ ی خوئی. وہ ہہم (حکما) ئہ فہرموون: " (وظیفہ) ی (عقل) (توحید) ہ (حتی) ئہ توانی، لہ (بین) ی ہہ موو (عالم)، (جہت) ی یکی (وحدہت) بدوزیتہ وہ (وظیفہ) ی (خیال) (تکثیرہ)، ئہ توانی لہ شتیکی (واحد) (تخیل) ی (جہات) ی (مختلفہ) بکا " بوئہ لہ (زمان) ی

(إستیلا)ی (خیال)، (شرك)ی (بالله) (تعُمُّم) ئەكا، بۆ لای (توحید)ی (باری) نارۆن، له (زه مان)ی (عقل) (توحید) (غلبه) ئەكا، له (نظر)ی (عقل) (شرك، مُحال)ه، (قرآن) كه (مُوافق)ی (عقل)ه، (غایهت)ی ئەو (توحید)ه، له (مبدأ)، له (میل)، له (فعل)، بۆ (إدامه)ی (هیکل)ی (إجتماعی)، كه (غایهت) یهك بی، هه موو (صُور)ی (مُختلفه) بۆ ئەو (غایهت)ه ئەچیی، وه یهك ئەگریتته وه، له (صدر)ی (کتاب) ئەفه رموی: "ربُّ العالمین"ه" له (صدر)ی (سورهت) ئەفه رموی: "یا أيُّها الناس" (إلى آخر الآية...) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

الْخَوْفِ ﴿ثَو (أیمان) سست و كه م (فهم) أنه كه پی یان گه یشتبایه، (شأن) و (حال)ی (دائر) به (أمن) و (صُلح) و (مُسالمة)، یا (دائر) به (حرب) و (مُوجب)ی ترست، بی (تأمل) و (تفکر) ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ (أنه) له گه ل هاتنی (أمر)ه كه، (إشاعه) یان ئەکرد، ئەو (نوع)ه (أنسان)ه له هه موو (عصر)ی له هه موو (ملهت)ی هه ن، نه یه کئی، به کلی زۆرن (حتی قسم)یک، (أحوالات)ی (حربیه) یا (سلمیه)، وه (سائر)ی کاروباری (تدبیر)ی (مُلك) و (سیاسهت)، بی (فکر)ی (خیانهت) (إفشا) ئەكا (كأنه) شتیكه بۆ ئەوان بۆته (طبیعهت)، وهك ئەلین:

نیشی عقرب نی ئەز په یکی کینه ست

مقتضای (طبیعهت)ه ش آینه ست

وه گه لیکیان (من حیث المسلك) له و (مقام)ه زۆر دوورن، لام وایه به (نسبهت)ی (نفوس) ئەو گرۆهه، له کوردان، له هه موو (ملهت)یک زیاترن، ئەبینی (ذبال)یکه، له (سیاسهت) ئەدوی، گوئی یا (مؤسیلینی)یه، یا (هتله)ه، یا (بالدونی)یه، شاگرد چه قو که ری له (أمر) (تشریعی) قسه ئەكا، ئەلی: (علی حیدر)ی (أبو الحقوقیون)ه وه گه لی که س، (جاسوس)ی بۆ (عدوی) (ملهت)ی خوی ئەكا، وه ئەشلین: "ئیمه (مسلمان)ین" (خُلاصه) ئەو (نوع)ه ره فتاره، (خاص) نیه، به (منافق) آن ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ﴾ ئە گه ر (رد)ی

ئو (أمر) ہیان کردبایہ ئہ لای پیغہ مبر پیغہ مبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ﴿وَالِآتِ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ له (أكابر) ی (صحاب) آن ئہ وانہ ی کاردیده ی، کار ئازمووده، (أهل) ی (خبر) ہ، بیان گوتابووا: "ئیمہ (مداخلہ) مان بہو جوړہ (أمر) ہ چپہ؟ (وظیفہ) ی (حضرت) ی (رسالت) (أكابر) آنہ ﴿اعْلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ ئہ وانہ ی (أهل) ی (فطنہ) و (درایہ) ن (تدبیر) ی ئہو ئیشہ یان ئہ زانی، چارہ سازیان کرد، ئہو (أهل) ی (إستخراج) ی (خفایا) و (دقایق) ہ، له (مظان) ی خوی ﴿مِنْهُمْ﴾ له خویمان یا له (أكابر) آن (طبیعی درجات) ی ئہ وان (متفاوتہ) (بنا) له (سید) ی (الووسی) له (بعض) ی (مُحَقِّقِينَ) ئہو (ایہ) ہ بؤ (دفع) ی (شُبْهَہ) یہ کہ، (وارد) ئہ بیئہ سہر (قول) ی پیشوو، (أنہ) کہ سیئ ئہ لئ: " (مادام کثرت) ی (خلاف)، (دلیل) بیئ له سہر ئہ مہ کہ (قرآن) له (طرف) (غیر) ی خوایہ، (قرآن) (إختلاف) ی زوری تیایہ، نابینی (أمر) ی کہ (دائر) بہ (خوف) یا (أمن) (وارد) بوو، ئہ م ئہ لئ: " (مُراد) ئہ مہ یہ " ئہو ئہ لئ: " نہ خیر (معنا) ی وانہ، ئہ وہ یہ (الجواب): ئہ مہ له بہر (سوء) (فہم) ہ، ئہو ناتہ واو نیہ، ئہ وہ ی (أهل) ی (درایہ) ت بی، بیئ (خلاف) و (إختلاف) (معنا) ی (حق) و (مُوافِق) ی لئ ئہ ہینئتہ دہری، (سید) ئہ فہرموی: " (خالی) نیہ له (حُسن) " بہ لئ (سَوَاءٌ) بلئین: " (معنا) ی (ایہ) ت ی وایہ، یان نا " ئہو (شُبْهَہ) (وارد) ئہ بی، (خُصوص) پاش (زہمان) ی (سعادت)، کہ (تَشْعُبُ) ی (مذاهب) ی (أُصولی) و (فروعی) بوو، (قرآن) (کریم) یان وا (تفرقہ) پییدا، ئہ وہ نندہ ی (إختلاف) ہاویشتہ ناو، کہ (ناظر) ی کہ م (قُوَّہ) ت بلئ: " ئہ مہ (کلام) ی خودا نیہ " (أما فی الحقیقہ) ئہ وہ له (سوء) ی (فہم) ہ له (مُخاصمہ) و (عداوت)، تہ ماشا بکہن، له (مسئلہ) ی (إختیار) ی (عبد) له (بین) ی (منازعین): (أشاعرہ) و (معتزل) ہ، له چہند (آیات) ی (قرآنی) بہ (عشرات)، بہ لکو بہ (مئات)، (تعارض) ئہ کہن، (ساقط) ئہ بن، له (درجہ) ی (إعتبار)، وہ (بعض) یك (تأویلات) ی وائہ کہن، کہ

(أدنی) (مُؤَلَّفٌ بِيكَ، (راضی) نیه، به و گویره یه، (عبارت) (تأویل) و (تغییر) بدری، (أما) بَلَّيْنِ: "چی؟" (ملا) له سه ر کاغه ز، ئە توانی به نووکی (قلم) (أرض) وئاسمان پیك دابدا ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ئە ی (مسلمان) یه ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ که (قرآن) ی به (عبارت) ی خووش بی (تعقید)، (واضحُ الدلالة) ت، (محکم) (مُفَصَّلُ الْآيَةِ) ناروده ﴿لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿۸۳﴾ ئە وان ی (راسخ) ی (فی العلم) به (وقوه) ی (ایمان)، خو یان له (إتباع) ی (شیطان) و (هوا) و هه وهس و (میل) (مذهبی) و (قومی) ئە پار یزن، ئە گهر (ایهت) یکی (مُتَشَابِه) یان بهر (نظر) کهوت، له گهل (محکم) (تطبيق) ی ئە کهن ئە زانن هه ر وه کوو (مُتَشَابِه) له (موجودات) هه یه، ئە بی له (ایات) یش هه بی، (إقتضا) ی (توافق) ی (کتابین) وایه، یا خود ئە گهر (جناب) ی (حق) له و (مواقع) ه، (إيقاض) ی نه کردبان، ئە و (نوع) ه (أسرار) ی (ضعفا) یانه ی دهر نه خستبایه، گهل کس له ئیوه، (إتباع) ی (أبلیس) ی پر (تبلیس) ی ئە کرد، (أكثر) بی (مبالات) ئە بوون، له (إذاعه) کردنی (تدابیر) ی (لازمُ الإخفاء) (أما) له سایه ی (تنبيه) ی (باری)، گهل کس (تنبه) ی ئە بی، ئە گهر یته وه، (درجه) ی خو یان و (درجه) ی خه لکی ئە زانن، که وایی ﴿فَقَنْبِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (أهمیة) ت مه ده، به قسه ی زوبان نا (راحهت) آن ﴿لَا تُكَلِّفُ﴾ به (إلزام) ﴿إِلَّا أَنْفَسَكَ وَحَرِيضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خوت (بالفعل)، (مباشره) ی (قتال) بکه، (ترغیب) و (تشویق) ی (ایمان) دارانی (خالص) بکه له سه ر (قتال) ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ دیاره ئە و (ما جری) یه له (وهقت) ی دابوه، که دوشمن له (تظاهر) و (غلبه) دا بوه، بویه (مُنافق) هکان له (ایمان) سسته کان، که وتوونه ئە م های و هووی و هات و باته، خودا (مسلمان) آن ئومیده وار ئە کا، که (عذاب) و (شده) ی (کافر) هکانیان له سه ر (منع) بکا ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا﴾ له و دوشمنه

(کافر) آنہ ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ (قید) و بہندو لہ کؤت دان، (ألبتہ) ئیوہ
 ئہبی لہ خوا زیاتر بترسن وہ (حق) وایہ، لہ (غیر) ی خوا لہ کہ س نہ ترسن،
 (علما) یان ئہ فہرموون: " (عسی): لہ (طرف) (جنابی) (حق) بؤ (تحقیق) ہ "
 وہ (فی الحقیقہ وعد) ی (إلهی) ہاتہ جی، چ جایہ، (کفّ) ی (بعث)، بہ جاری
 نابوت بوون، یا (مسلمان) بوون، یا فہوتان ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
 نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ ئہ مہندہ بؤ (تحریض) ی (أهل) ی (ایمان) (کافی) یہ، ئہ وہ ی
 ببیتہ (رفیق) لہ گہل کہ سیکی چاک، لہ ئیشی چاک خوی بکا، بہ جووت لہ گہل
 ئہو، ئہوہ (شفاعت) ی (حسنہ) یہ، وہ ئہو کہ سہ (نائل) ی بہ شی باش و زور
 ئہبی، ئہو (مسلمان) آنہ بہ سیانہ، کہ ببنہ ہم (صحبت) ی توو لہ (قتال) ی
 (فی سبیل اللہ) ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ بہ (واسطہ) ی
 (مصاحبہ) ی خراپان، (طرف) داری ئہوان، ببیتہ جفتی خراپہ، لہو (جفتیہ)
 (نصیب) ی (کامل العیار) و ہرئہ گری (بعض) ی ئہ فہرموون: " (نصیب) و (کفل)،
 (مترادف) ن " (بعض) ی ئہ فہرموون: " (نصیب) ی (إشتمال) ی بہ سہر (زیادہ) لہ
 (أجر) ہ یہ "، (کفل) (مساوی) یہ لہ (شفاعت) (سیئہ) (مماثلہ)، لہ
 (شفاعت) ی (حسنہ) (زیادہ) یی، (إشارة) یہ بؤ (سعت) ی (رحمہت) ی خودا۔
 (بعض) ی ئہ لئین: " (کفل) لہ پاداشتی شہر (إستعمال) ئہ کری، بہ (أغلبی)، یا
 لہ (أصل) ی (معنا) دا یہ ک بن " (بناءً علیہ)، ئہم (شفاعت) ہ، (شفاعت) ی
 گوناہ و (دعا) نیہ، ئہ گہرچی (جمهور) یش لہ سہر ئہم (معنا) یہ، پویشتون،
 (أما نظم) ی (ایہت) لہ سہر (إختیار) ی ئہوان نیہ، (أما) لہ سہر (تقریر) ی (سابق)
 لہ (غایہت) ی (انتظام) دایہ، وہ وہ کو (عرض) کرا، بؤ (حثّ) ی (مسلمان) آن
 لہ سہر (قتال) ی (اہل) ی (کفر)، (کافی) یہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾
 (مُقْتَدِرٌ) و (مُقَدِّرٌ) و (حافظ) و (حفیظ) و (شاهد) و (شہید) ہ، ناگادارہ،
 (قدرت) ی لہ سہر ہموو شت ہ یہ، ہر کہ سہ بہ گویرہ ی (حال) ی خوشی،

پاداشی (اعمال) ی بؤ دائئئی، پیک له پیکی ئەکا ﴿وَإِذَا حُيِّنُمْ بِنَحِيَّةٍ﴾ ئەگەر له (بین) ی خۆبه خۆیی، یا (على الإطلاق)، (سلام) تان لئ کرا، به هەر (عبارت) ی بی، (حياء الله) که ئیستا (بغدایی) به (تخفيف) ئەی لئین، که (الله بالخیر) یا (رؤژ باش) (صباح الخیر) وه (أحشام خیر)، (شعار) ی (مسلمان) آن، له (تحیّه) (سلام) ه، (مقتضا) ی (شفاعت) ی (حسنه) ئەوهیہ ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ به (جواب) ی باشتر، یا (بالمثل) خۆتان بکه نه (شفیع) و (جوت). (جمهور) ی (مفسرین) (ایهت) یان به (سلام) (تفسیر) کردوه، وه (سید) ی (الووسی) و (سید رشید) (دائر) به (تحیّه) ی (إسلامیه) (تفسیر) ی زۆر (مفید) یان ههیه، (أما) (بعض) یك (تفسیر) ی ئەکه ن به (هدیّه)، (حقیقه) له و (مقام) ه، ئەوه خۆیه تی، زیرا، (دأب) (حیال) و (دساس) و (سیاسیون) ه، که (جلب) ی (خواطر) ئەکه ن به (هدیّه) و (بهیّه)، (قوم) له بال یه ک ئەهیننه ده ری، (تابع) له (متبوع) ئەکه ن، ئەوجا بؤ ئەوهی (مسلمان) آن به و (نوع) ه (هدیّه) هه ل نه خه له تین، دلئان (میل) ی (أعدا) ی خواو پیغه مبه ری تیا په یا نه بی خۆیان نه که نه (شفیع) ی ئەو (سیئات) کارانه، خوا ئەهه رموی: "ئەگەر به (هدیّه) یه ک، (تطیب) ی (حیات) تان کرا، یاشتئ چاتریان بؤ بنیرن، یا (رد) ی که ن و وه ری مه گرن، مه بادا پییان فریته بین" به شتی که م و (مُحَقَّر) (شرف) ی خۆتان و (قوم) تان پامال بکه ن "نازانم ئەو (نوع) ه (معنا) ی (نفیس) و (نافع) هیان، بؤ له تاقیچه ی (نسیان) داناوه؟! له و رووه وه، گه لئ (تاج) و تهخت نگونسار بووه، گه لئ (ملهت) له (أوج) ی (مجد) و (عزّهت) که وتوونه سهر خاکی (ذلهت) و (حقارهت)، (ملکه) ی (رووس) (فهته رنیه) چی کرد، به (دهولهت) ی (عثمانی)؟ (فره نسا) (أنگلز) چیان کردو چی ئەکه ن؟ له (أهل) ی (خیر) بزر نیه ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ (رقیب) ه، (مطلع) ه، ئیوه ش ئاگادار بن، له (مکائد) ی دشمن (غافل) مه بن ﴿أَلَلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ به (غیر) ی

ئەو کئی ئەپەرستەن؟ (مال) و (روح) لە ئۆغری کئی (صرف) ئەکەن؟
﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (سوق) تان ئەکا، بۆ لای رۆژی
 (قیامت)، لەو رۆژەدا گرد ئەبنەو، ئەو رۆژە ئەزانن، (أدنی نعم) ئی خوا،
 لەسەد هەزار هەزار، (هدیە) و (بھیە) ی (دُنیا) چاترە، ئەو ی (أیمان) ی هەبی،
 چاوی لە (إنعام) ی (إلهی) ئەبی، نەکەن دیاری و پێشکەشی ئەم و ئەو (قبول)
 بکەن **﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾** (۸۷) کئی قسە ی لە قسە ی خوا پاسترە؟
 (أهل) ی (نفاق) و (سیاسەت) و (مُحبّ) ی (رئاسەت) ی (دین) و (دنیوی)؟ (حاشا،
 ثم حاشا) راستیان لە لای ئەو، نازانم کەسێ بە خوا باورپی نەبی، باورپی بە
 (غیر) ی خوا چۆن ئەبی؟

(أُمَّت) (إجماع) یان کردو، لەسەر (تنزّه) و (تقدّس) ی خوا لە درۆ (أما)
 (مُعترِلی)، چونکی (حُسن) و (قُبْح) ی (عقل) یان لا هەیه، ئەلین: "درۆ (قُبْح) ه،
 هەرچی (قُبْح) بی، لەخوا (مُمتنع) ه، کەوابی (عقلاً) درۆ لە خوا (مُحال) ه"
 (أما أشاعر)، چونکی (قول) بە (حُسن) و (قُبْح) ی (عقل) ناکەن، ئەلین: "درۆ
 (شیء) ه، وەهەرچی (شیء) بی، خوا (قُدْرەت) ی لەسەر هەیه، (بِناءاً علیہ)
 درۆ (عقلاً) لە خوا (ممنوع) نیە، (أما سمعاً) (مُحال) ه، (یعنی) بە (أدلە) ی
 (سمعیە) (إثبات) ی ئەکەن، کە درۆ (ممنوع) ه لە خوا"، وە (بعضاً) ئەلین:
 "درۆ (نقص) ه، ئەوی (نقص) بی، لە خوا (مُحال) ه" (عَضُدُ الدّین) (تَعَجّب) لە
 ئەوانە ئەکا، ئەفەرموئ: " (فرق) ی (نقص) و (قُبْح) چیە؟ دیارە هەرچی (قُبْح)
 بی (نقص) ه، وەهەرچی (نقص) بی (قُبْح) ه، بۆچی ئەگەر بلین: درۆ (قەبیح) ه
 ئەلین (جائز) ه، ئەگەر بلین: " (نُقْصان) ه" ئەلین: " (مُحال) ه" لام وەیه
 هەرچی (أیمان) ی بە خودا ببی - (ولو مشرك) یش بی - (بوجه من الوجوه) درۆ
 بۆ خوا (تصوّر) ناکا، نابینی ئەوانە ی (إنکار) ی پێغەمبەرەکان ئەکەن (خیال)
 ناکەن کە بلین: "خوا درۆ ئەکا"، بە لکۆو (نسبەت) ی درۆ بۆ (ذوات) هکان

ئەدەن ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ (سبب) چپە ئیوہ دەربارە ی ئەو (مُنافِق) ئەنە ی، کە (إظهار) ی (طرف) داری و (محبّت) لە گەل ئیوہ ئە کەن، بە (سلام) و پە یام، بە (تُحْفه) و (هدایا)، (إستجلاب) ی (خاطر) تان ئە کەن؟ چاوتان ئە نووسین، بووینە دووبەرە کی، (قسم) ی پی یان برپوا ئە کەن، بە دوستی (صادق) یان ئە زانن، (حال) یش وایە ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا﴾ خودا سەرەو ژیری کردوون، بەو (سیئات) ه ی کە لە (کفر) و (شرك) دا کردوویانە، (أنه) بە سەر (کفر) دا رۆچووون، کە وابی چۆن ئە بن بە (أهل) ی (ولاء) لە گەل ئیوہ؟ یاخوا وەری گێراون، لە (طهارت) ی (فطری)، (سبب) بە (سیئات) یان بووون بە (نجسُ العین)، وەک (طعام) ی پاک، (هضم) ئە بێ بە (نجاسەت) ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ گوئی یا بەو (إستمالات) ه، (قصد) تان ئە وە یە، ئە مانە بە راستی ببنە (مسلمان)، (هدایەت) یان بدەن، بیانکەنە هاو (دین) و هاو (مشرّب) لە گەل خۆتان؟ ئە وە (مُحال) ه، کە سێ خوا، کە (هادی حقیقی) یە، (ربّ العالمین) ه (أرحم الراحمین) ه گومراھی بکا، بە ئیوہ (هدایەت) نادری، نایە تە سەر ری، ئە گەر خوا بیزانیوایە ئە مانە (قابل) ی (هدایەت) ن، (هدایەت) ی ئە دان ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ لە سەر ئە و هەموو (لطف) و (رحم) ی خۆی، دەر (حق) بە هەموو بە ندە کانی خۆی ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ چ پری یان بۆ نادۆزیە وە، کە (هدایەت) یان بدە ی، ئە و جا کە بە (رسول) ی (هادی) نە درێ - کە (إمام) ی (هادی) یانە - بە ئیوہ چۆن ئە درێ؟! ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ ئە وان ئارەزوو ئە کەن، ئیوہ بگێرنە وە لە (دین)، ببن بە (کافر) وەک ئە وان (کافر) بووون، ئیوہ ش (مساوی) بن لە گەل ئە وان، پیکەل و پیک بن لە (کفر) دا ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ لە ئە وانە کە س مە گرن، بە

دوست و یارو یاوہر ﴿حَتَّىٰ مِهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ له ولاتی خویمان (نقل) ئە کەن دیتە لای ئیوہ، ئەو (ہجرت) ہشیان (صرف) بو خوا بی، ئەوہش (قابل) نیہ، له: (مقولہ) ی حوشتہر له کونی دہرزی دا چوونہ! ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ ئە گەر ئەوہیان نہ کرد ﴿فَخَذُوهُمْ﴾ بیانگرن ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ﴾ بیان کوژن ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ له ہر کوئی یہ پییان گہیشتن ﴿وَلَا تَنَحِّذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَصِيْرًا﴾ ﴿۸۹﴾ لهو (والی) یانہ دوستی (مُعین) و (نصیر) مہ گرن ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (إلا) ئەوانہی کہ (رابطہ) ی (ولا) و (محبّت) ئەنووسین، ئەگہیہن، بہ (قوم) ی، کہ له (بین) ی ئیوہ و له (بین) ی ئەوان (عہد) ی (محکم) و (ثابت) ہیہ، ئەمانہ چونکی دوستی دوستن، وہ دوستی دوست، دوستہ، (دەخل) یان مہ کەن ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ﴾ یا ئەوانہی ہاتوونہ لای ئیوہ ﴿حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ﴾ دلیان نایہ، سینگیان (مُنشَرِح) نابئ لہ گہل ئیوہ، یا لہ گہل (قوم) ی خویمان شہر بکەن، بی (طرف) ن، ئەو بی (طرف) یہ لہ ئەوان لہ بہر بی دەسەلاتی و کەمی نیہ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتُلُوكُمْ﴾ (قابل) ن، دەسەلاتیان بہ سەر ئیوہ دا بشکی، وہ (محرابہت) آن لہ گہل بکەن ﴿فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ﴾ ئە گەر لہ ئیوہیان لادا ﴿فَلَمْ يَقْتُلُوكُمْ﴾ شہریان لہ گہل نہ کردن ﴿وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمٌ﴾ (زام) ی خویمان ہاویشتیہ بہر دەستی ئیوہ، بہ (نوع) ی، کہ (وثوق) بہ (مُسالمة) یان بکەن، وہک (وثوق) بہ شتی ئە کەن، کہ لہ بہر چہنگی خوتان بی ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ ﴿۹۰﴾ خوا پیتان نادا، ئیوہ شہریان لہ گہل بکەن و ہنہزیکہ - ئە گەر شہریان لہ گہل بکەن - بہ بن کەون، ئەوانہ بہ (قوہت) ن، دوشمنی

تریشیان زورن، وہہم کہ سیتہ (وُثوق) بہ (عہد) ی ئیوہ ناکا، ئہمہش بؤ
 (دین) و (دنیا) (ضرر) ہ، ئہو دوو گروہہ، ئہ گہر چی زورن، (لکن) بی (ضرر) ن،
 (حق) ی (مداخلہ) تان لہ سہریان نیہ ﴿سَتَجِدُونَ آخِرِينَ﴾ (منافق) ی بی
 دہ سہ لاتی (مُخَنَّثَات) ﴿يُرِيدُونَ أَن يُامِنُوا كَمَا وَيَأْمِنُ قَوْمَهُمْ﴾ (قصد) یان وایہ، کہ
 (تأمین) ی ئیوہ بکہن، کہ لای ئیوہن، لہ گہل دوشمنتان دوشمن، وہ (تأمین) ی
 (قوم) ی خویمان بکہن، ببن بہ (طرف) داریان ﴿كُلَّ مَا رَدُّوهُ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا
 فِيهَا﴾ ہہر گاہ بگپراندرابانہ وہ بؤ شہر و شور، تیا رؤ ئہ چوون، (عہد) ی
 ئیوہ یان ئہ شکاند (مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ) ئہ وانہ ﴿فَإِن لَّمْ يَعْزِلُوا كُفُّوا
 إِلَيْكُمُ السَّلَامُ وَيَكْفُؤْا أَيْدِيَهُمْ﴾ ئہ گہر ئہ وانہ یان نہ کرد ﴿فَخَذُواهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ﴾ لہ ہہر جی یہ تووشیان بوون ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
 سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ (دلیل) و (حجہت) ی ئیو زور ناکراہیہ، کہ س (حق) ی
 (تنقید) ی نیہ، بلئی: ئیوہ ئہ مانہ بؤ ئہ کوژن؟

کہ سئی تہ ماشا بکا، لہ (نفس) ی (قرآن) بؤی دہرئہ کہ وی، کہ ئہو
 (منافق) آنہ چوار (فرق) ن، دوویان بی (ضرر) ن، (مسلمان) آن (حق) ی
 (مداخلہ) یان لہ سہر ئہ وان نیہ، ئہ گہر چی (حق) یش و ابوو، (ترك) ی (اعتزال)
 بکہن، بہ راستی و دروست (أیمان) بیئن، ئہ گہر چی لہ ہہندی (رویات) ی
 (مُخْتَلَفَةٍ) ی (أسباب) ی (نزول) (تصریح) ہ، کہ ئہو (منافق) انہ ئہ وانہن، کہ لہ
 دلدا (کافر) لہ (ظاهر) دا (مؤمن) بوون، (ومن العجائب) خوا (نہی) لہ
 (مسلمان) ان ئہ کا، دہربارہ ی ئہو (موناقد) انہن مہ بنہ دوو (فئہ)، گہرچی
 (مفسرین) بووینہ (فئات)، (مع) آنہ (تطبیق) ی (عبارت) (قرآن)، لہ گہل ئہو
 (رویات) ہ، زور (مشکل) ہ، (حتی) لہ گہل (روایہت) ی (شیخ) ی (بخاری) و
 (مسلم)، بؤیہ (بعض) ی (أهل) ی (تحقیق) ئہ لئین: "گہ لی" (روایہت) ی (أسباب) ی

(نزل)، (منع) ی (إنسان) ئەكەن، لە (فہم) ی (قرآن) " ئەگەر (خوف) ی (تطویل) نہ بوایہ، (مُفَصَّلًا) (نقل) ی (روایات) و (وجہ) ی (رد) یانم (ذکر) ئەکرد، کہ سئ ئارہ زووی ہہیہ، بہ تہ واوی (خبر) داری، (مراجعه) ی (تفسیر) ی (سید رشید رضا) بکا، (حقیقہ) دادی (فضل) و (عرفان) ی لئ داوہ ﴿وَمَا كَانَتْ لِّلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ لە پاش (أمر) بہ (قتال) و (حرب) ی ئەو (مُنافِق) آنہ ی (سیاسی) و (مُضِر) (بیان) ی (قتل) ی (مؤمن) و (ذمی) ئە فہرموی، خودا (إنکار) ی ئەکا، نابئ (قتل) ی (عمد) ی (عُدوان) لە (أهل) ی (أیمان) (صُدرو) ی بی، (مسلمان) چۆن (عمداً بلا حق) (مسلمان) ئە کوژی؟ ئەوانہ (قُوَّة الظہر) ن بۆ یەك، (عضوئ) (عامل) ن، لە (ہیکل) ی (اجتماعی)، (إسلامی) (مؤمن) بۆ (مؤمن) وەك (بُنیان) ہ، (بعض) یکی (بعض) یکی (محکم) و (متین) ئەکا، برای (دینی)، برای (دینی) چۆن ئە کوژی؟ وە پشٹی خوی ئەشکینی، (حق) وایہ (مسلمان) لە پیناوی (مسلمان) خوی بہ کوشت بدا، چ جایہ ئەوہ کہ بی کوژی ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ (قتل) ی (خطأ)، (عمد)، (شبه) ی (عمد) (تفسیر) ی لە (کتیب) ی (شرعی) دایہ، ئەو (مؤمن) ی (مؤمن) یك بہ (خطأ) بکوژی، ناکوژی تہوہ، چونکی (معدورہ) (أما) ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ (واجب) ہ لە سہری، (یعنی عبد) یك ئازاد بکا، (ملی) (مسلمان) ی لە (أسارہت) (عُبودیہت) بینیتہ دہری، پاکی بکا لەو (لوت) ہ، (کأنہ) لە جئ ی ئەو (أنسان) ہ، (أنسان) یکی (عامل) بۆ (ہیئہت) ی (اجتماعی) پہیا ئەکا ئەو کہ لئینہ ی پی پر ئەکاتہوہ، (لاشك) ئەو کہ لئینہ بہ (رقبہ) ی (غیر) ہ (مؤمن) ہ ناگیریتہوہ ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ خونئی (تسليم) بکاتہ (أهل) ی کوژاوہ کہ، ئەوہش (لازم) ہ ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (أهل) ی (وارث) ی (مقتول) (عفو) ی بکەن، (أنہ) بیکہ نہ (خیر)، (دیہ) لە (قرآن) دا (تعیین) نہ کراوہ،

﴿مُفَوَّضٌ﴾ (رأى) (رسالہت) پہناہہ (تفصیلات) ی لہ (کتیب) ی (شرعی) دایہ
 ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ (مقتول) ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ دوشمنی ئیوہ بوون، وہ (عہد) و
 (میثاق) تان لہ (بین) آنہ بوو ﴿وَهُوَ﴾ (مقتول) ہ کہہ ﴿مُؤْمِنٌ﴾ ئہ وہ ی
 (مؤمن) بی، با لہ (قوم) ی (عدو) ش بی، نابی بہ (ہدر) پروا، (نظر) بؤ (حق) ی
 (ایمان)، وہ (علم) نہ بوونی (قاتل) بہ (ایمان) ی (مقتول)، نابیتہ (موجب) ی
 (ہدر) ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ی لہ سہر (واجب) ہ، (دیہ) نیہ، چونکی
 (اہل) و (قوم) ی ئہ و (محارب) ن ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ (مقتول) ﴿مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ لہ (قوم) ی (معاہد) بوو، ئہ و (میثاق) ہ (عام) ہ،
 (شامل) ی (اہل) ی (ذم) ہ شہ، یا خود (حکم) ی (ذمی) بہ (قیاس الاولی) (ثابت) ہ
 نافہرموی: " (وہو مؤمن) " (أما سردی (کلام) لہ (قتل) ی (مؤمن) ہ لہ (قوم) ی
 (مؤمن) بی، یا (حربی) یا (معاہد)، (بعض) یك ئہ فہرموون: (مقتول) ی (معاہد)
 لہ (قوم) ی (معاہدہ) ئہ وہ (روایہت) کراوہ، لہ (أبن عباس) و (شعبی) و (أبن
 مالک)، بویہ (قید) ی (مؤمن) فریدراوہ، وہ (مختار) ی (مجدد) ی (مصری) یہ،
 بہ لئی (دیہت) ی (معاہد) و (ذمی) لہ (إسلام) دا ہ یہ، (لکن) قسہ ی ئیمہ، لہ
 (مؤمن) ہ، (دلالت) ی (قرآن) لہ وہ (ظاہر) ہ، (إختلاف) ی (روایات) و (علماء) لہ
 (قدر) ی (معاہد) و (ذمی)، لہ (تفاسیر) ی (مطولہ) و (کتب) ی (فقہ) (مسطور) ہ،
 (تفسیر) ی کوردی ئیمہ ہ لئی ناگری ﴿فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ ی لہ سہر
 (واجب) ہ، نافہرموی: (إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا) زیرا (قوم) ی (کافر) - (وَلَوْ مَعَاهِدٍ يَأِ
 ذمّی) بن - (اہل) ی ئہ و (صدقہ) یہ نین ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ لام وایہ
 (تقیید) بہ (ایمان)، (شاہد) ہ، کہ ئہ بی (مقتول) (مؤمن) بی، واباشہ (مؤمن)
 جی ی (مؤمن) بگریتہ وہ ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ (عبد) ی چہنگ نہ کہوت، لہ بہر
 (إنقطاع) ی، (ذاتاً مقصد) ی (شارع) ئہ وہ یہ کہ (وصمہ) ی (عبودیت) لہ سہر

(بشر) ہلّ بگیری، وہك (سید شید) ئہفہرموی یا(مال)ی نہبوو، (عبد)یکی پی بکری ﴿فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ دوومانگی (ہلالی) (بلا انفصال علی التوالی)، (إطعام) لیڑہ (ذکر) نہکراوہ، له (قول)یکی (شافعی) ئہگہر نہیتوانی - بہ (حمل) لهسہر (ظہار)، (واجب)ی (إطعام) شہست (مسکین) - ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (تشریح)ی ئہو (أحكام)ہ بؤ (قبول)ی (توبہ)یہ له (طرف) خوا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿۹۲﴾ بی (مصلحت)و (حکمت) ئہو (أحكام)ہ بؤ ئیوہ دانائی، ئہگہر کہسی (خیال) بکا، بلی: (مادام) ئہو (نوع)ہ (مقتول)ہ له ناو ئیمہدا نیہ، ہہرچی بی، با(ہدر) بی " ئہوہ له بی (حکمت)ی، له کہم (علمی)یہ بہ (مصلح)، وہلہو (مقام)ہ، (تشریح)ی (بشر) (ولو) بؤ (إرقا)ی (نوع)ی (بنی انسان) بن، (خالی) نابی له (طرف) داری، دەست و پاوہندی خوی ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا﴾ (بالفرض والتقدير) ئہگہر (مؤمن)یک (مؤمن)ی بکوژی، ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ بہ (قصد)، بزانی (مسلمان)ہ، چ (شائبہ)ی (خطأ)ی نہبی، بی (حق)ی (شرعی) ﴿فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ پاداشی ئہو (قاتل)ہ، (جہنم)ہ، لی ی دہرناچی، وہك (کافر)ان، (أبد الابدی)یہ، ﴿وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ (غضب)ی لی گرتیہ ﴿وَلَعْنَهُ﴾ له (رحمت)ی خوی دووری کردیہ ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ﴿۹۳﴾ (تقدير) ناکری، پاش (تأمل) له (ایہت)ی (ماکان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) کہسی (نظر) بکاتہ ئہو (ایہت)ہ بی(میل)و(تعصب)ی(مذہبی)، (تصدیق) ئہکا، کہ ئہو (ایہت)ہ (کریمہ)، (قبول)ی (تأویل) ناکا، وہئہوہی (قاتل)ی (متعمد) بی، وہك (کافر)، (مُخَلِّد)ی (فی النار)ہ، (مغضوب)ی خوایہ، (ملعون)ہ، دوورہ له (رحمت)ی خوا، (خصوصاً) ئہو (ملوک)و (رؤسا)یانہی - کہ (أصلاً) -

(مُبالات) یان نیہ، خوینی نا (حق) رژاندنیان، لا وہ ک ئاو خواردنه وہیہ، (حتی) له (ایام) ی ئیمہ (شخص) ی واہہ بوو، ئہی ووت: "من کہ کہ سیک ئہ کوژم، (کیف) م بہ لینگہ فرئی دی" (فی الحقیقہ) (قیاس) ی (قتل) له گوناہی تر ناکرئی، (بنا) ی خوا - کہ (ہیکل) ی (اجتماعی) (اسلامی) یہ - (بلا موجب) تیک ئہ دا، (سبب) ی بہ (قول) ی (أصحاب) ی ئیمہ (قتل) لای (مسلمان) ان زور سووک بوہ، (حتی) له و چہ ندانہ، برایہ ک برای خوئی کوشت له سہر کوتکہ جوئہ ک، برایہ ک برای خوئی کوشت، له سہر دوو مست نوک له (معدہ رت) دا ئہ لئین: "سہد گوناہ و یہ ک (توبہ)"، "ئہ مپو نا سبہی (توبہ) ئہ کہین، خوا لیمان خوش ئہ بی!" توخودا، سویندت ئہ دم بہ خودا: (تصور) ئہ کہی، کہ سی (مثقال) ہ (ذرہ) یہ کی (ایمان) ی ہہ بی، (مسلمان) ی (فقیر)، بہ خوو کہ روکہ یہ کی، بہ سہرما ی زستان، بچیتہ چیا بارہ داریکی بینئ، بو (قووت) ی خوئی و (عائلہ) ی بیفروشئ، کہ سی تووشی بیئ، بہ (طماع) ی کہرئ، چوار (مہنگہ لی) باوی و دوو پتکی گوریس و تہوراسیکی کولہ، بی کوژئ؟ (حاشا، ثم حاشا)، (قیاس) ی (قاتل) له (کافر) ناکرئ، (کافر) دوشمنہ، بہ (مقتضا) ی دوژمنایہ تی، ئہ وہی بیکا، ئہی کا، کہ (رفعہت) ی (عداوت) ی بوو، بہ (ایمان) ہیئان، (قبول) ی (توبہ) ی زور (معقول) ہ، (أما) (مؤمن) له گہل (مؤمن) ہیچیان له (بین) آنہ بی بہ (غیر) ی (جہت) ی (إتّحاد) و (محبّہت) و (إیثار)، (مؤمن) بکوژئ؟ چوں (توبہ) ی (قبول) ئہ کرئ؟ وہلہ ہہ موو (تأویلات) ی (أصحاب) ی ئیمہ دوورتر، کہ له گہل (مقام) (أصلاً مناسبہ) ی نیہ، ئہ لئین: "ئہ و کہ سہی (مؤمن) بکوژئ، چونکہ (مؤمن) ہ، (لاشک) ئہ و کہ سہ (کافر) ئہ بی، وہ (مخلد) ہ" کئ بہ (خیال) ی دادئ بلی: " (مؤمن) (مؤمن) بکوژئ، (لایمانہ)" (حاصل) ی بہ ہہر (نوع) ی (سدّ) ی (قتل) بکرئ، لای من ئہ وہ باشہ ﴿يَتَأْتِيهَا﴾

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ پرواییتان کردوہ بہ خواو پیغہ مہر، بہ راستی و دوستی

﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کہ (أرض) تان کوتایہ وہ، پویشتن بؤ (غزا)، (ظاهر) وایہ، له (خدمت) ی پیغہ مبردا نہ بن، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (تائی) بکہن، تالووکہ مہ کہن، له (قتل)، مہ بادا له بیئ ئارامی، (مسلمان) ی بکوژن، کہ سیئ لیئان (مُحَقِّق) نہ بیئ، (حربی) یہ، دەستی تئ مہ دەن ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ﴾
 ﴿السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (سلام) ی لی کردن، یا (تسلیم) بوو، (تَعْرُض) ی ئیوہ ی نہ کرد بہ خراپہ، (شعار) ی (إسلامی) بہ جئ هیئا بہ و کہ سہ مہ لئین: توو (أیمان) دار نی، ئو (سلام) و (إستسلامه) ت له (خوف) ہ " ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ﴾
 ﴿الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بہ (قتل) ی ئو (نوع) ہ کہ سہ، (غرض) تان (متاع) ی (دُنیا) یہ، کہ (متاع) ی (زائل) ہ، زو ئو پروا ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾
 (طلب) ی (نعم) ی (نا) (معدود) و (غیر) ہ (مُتَنَاهِي) خوا بکہن ﴿كَذَلِكَ﴾
 ﴿كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ ئیوہش وەك ئو وان بوون، له پیشدان، (أیمان) ی خوتان (إخفا) ئو کرد، له دوژمنانی (قوی) وە ئیوہش له (أول) وەوہ، (أیمان) ی (قلبی) تان زور بہ (قوہت) نہ بوو، (بعضاً) له ترس (مسلمان) ئو بوون ﴿فَمَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ خوا (کرم) ی له گہل ئیوہ کرد، بہ (قوہت) بوون، (إظهار) ی (شعائر) ی (دین) تان کرد، وە بہ (طول) ی (مُحَبَّت) ی پیغہ مبر (صلی اللہ علیہ وسلم) بہ (إستماع) ی (آیات) ی (بینات) ی (قرآنی)، چاوی دلئان کرایہ وہ، (أیمان) تان راسخ بوو ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ ہیچ (عذر) و بہانہ تان نہ ما (حتی من بعد) کہ سیکی واتان له دەست (ضایع) بیئ، ئو بیئہ (قتل) ی (عمد) ی (عدوان) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
 (أعمال) ی (ظاهر) و (باطن) ی ئیوہ ی لی بزر نابی، ئو گہر بؤ ئو م و ئو (خلاف) ی (ما فی الضمیر) بنوینن، (مُقابِل) بہ خوا چی ئو کہن؟ ئو وہ ی بؤ

(طماع)ی پاتال، ئہوہ بکا خوا بہ (جزای) ئہگہیہئی، ئہو(وہقت)ہی وای (أیجاب) ئہکرد، ئہو (تبیین)و (تَنْبُت)ہ لہ (أوائل)ی (بُرون)ی (إسلام) (لازم) بوو، گہ لئ کہس (مسلمان) بوو بوون، لہناو (حربی)یاندا مابوونہوہ، نہیان ئہتوانی (ہجرہت) بکہن، (مُنْتَظِر)ی (فُرصت) بوون، (أما) ئیستا کہ (سواد)ی(أعظم) لہ (مسلمان)آن لہ بہر دەستی (فرہنسہ)و (أنگلین)و (سائر)ی (دول) دان، سوپاہی (نصرہت) پہناہیان، بہ (أکثریّہت) (مسلمان)ن، وہ(سیاسہت) (بالکلیہ) - (وُثوق)ی بہ (دین) نہہیشتوہ - ، (سیاسی) (أیجاب) کا، (مسلمان)ہ، بوتپہرستہ، دیانہ، جووہ، وہ لہ (حقیقہت)دا، ہیچ (دین)ی نیہ، (خلاصہ) (موقع)ی ئیمہ بہ (نظر) ئہو (سیاسی)یانہ، زور (مشکل)ہ، ئہمرو گہلیکیان (ایمان) ئینن، ئہلئی: " (قبول) نیہ " نابی، (شرع) (مانع)ہ ئہلئی: " (قبول)ہ " تووشی ہزار (فتنہت) ئہکا، ہموو (أسرار)ی (مسلمان)آن ئہزانی، وہبو (قوم)ی ئہنوسی، بہجاری پپو پاتالمان بہدہر ئہکہوی، بہہمہ (حال)، (إعتراز)و (إحتراس)، لہوانہ (لازم)ہ، (مخفی) نہبی، ئہو(آیات)ہ، لہ (غایہت)ی (إنتظام) دان، واپیکہو نووساون، (فُرجہ)یہ نادہن، بو (أسباب)ی (نزول)، (مع أنه) چہند (روایات)یان ہہیہ، (تفصیل)ی لہ (روح المعانی)و (تفسیر) (سید رشید)ہ، با ئہوہ بو (ملا)یہکی تربی بیکا بہ (حاشیہ) ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَلْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (بدیہی)یہ، ئہوہی دانیشی، (إشراك)ی (حرب) نہکا، وہ(قووت)و (قووت)یشی ہہبی، لہسہر (قتال)، ناگاتہ ئہوانہی کہ (للہ، وفي اللہ) (حرب) ئہکہن وہدیارہ لہ شہل و کورو (عہمل) مہندان نیہ، ئہگہرچی ئہلین: کہ ئہو (ایہت)ی (نزول)ی کرد، (أبن أمّ)ی (مکتوم) ہاتہ لای پیغہمبہر، (عرض)ی کرد: " (یا رسول اللہ) خوا دہبارہی (فضل)ی (مُجاہدین) ناردوویہتی، ئہوہی ناردوویہتی، وہمن پیاوئ کویرم، ئایا (رخصت) بو من ہہیہ؟ " فہرمووی: " نازانم " ئہوجا (جملہ)ی (غیر أُولِي الضَّرَرِ) (نازل) بوو. لئ ی را ئہفارمی، کہ ئہو (ایہت)ہ (تماماً)

(نزول)ی فہرمووه، (وَلَوْ) تا (أَجْرًا عَظِيمًا) بی، ئہوجا (أَبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ) (مراجعه)ی (صاحب)ی (وحی) کردیہ، (سَيِّدٍ رَشِيدٍ) ئہگہرچی ئہویش (تفسیر)ی (أولى الضرر) بہ (عجزه) وهك: (أعمى)، (مُقْعَدٌ)، (زمنى)، نہخوُش کردوہ، ئہفہرموئی: "لہ (تفسیر)ی (ایہت) (ترك)ی(روایہت)ی (زیدی بنی ثابت)م کرد، کہ (غیر أولى الضرر) بؤ (خاطر)ی (أَبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ) (نزول)ی کردوہ، چونکہ ئہمہ لہ (مُشْكَلَاتٍ يَكِبُ، (لایق)ہ (ردّ)ی بکری، ہہرچہند (سند)یشیان (تقویہ) کردبی " (أَمَّا حَقِيرٍ) (تفسیر)ی (أولو الضرر) بہ(عجزه)م لا خوُش نیہ، وهك (عرض)م کردن، ئہمانہ (داخل)ی (موضوع)ی (مسئلہ)ی نین، لای من ئہمانہ، ئہمانہن: ئہگہر (بالفعل) (إشتراك)ی (حرب) بکہن، (ضرر)ہ، وهك: (أبو بكر) (رضی اللہ عنہ)، کہ لہ (أوائل)ی (خلافہت)ی (قصد)ی کرد، خوئی بچی بؤ (حرب)ی ئہوانہی (دہورہ)ی (مدینہ)یان دابوو، لہ (أهل)ی (ردّہت)، (إمام)ی (علی) (زمام)ی حوشتری گرت، ووتی: "مہچؤ بؤ (حرب)، ئہمپؤ (إتفاق)ی (کلمہ) لہسہر تووہ، خودا نہکہردا، ئاسیبی بہتوو بگا، بہجاری شیرازہی ئیمہ تیک ئہچی، (أمل)ی (إتفاق) نامینی، توو دانیشہ، ئیمہ ئہچین بؤ (حرب) " (لاشك) ئہو (نوع)ہ کہسہ، (إجرا)ی لہو (مجاہد)انہ کہمتر نیہ ﴿وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (قابل)ی (مساوات) نیہ، ئہو (ایہت)ہ بؤ (زہمان)یکی دوای (حضرت)ی (رسول) (فائدہ)یہکی گہورہی لی وہرئہگیری، ئہمانہ کہ (إدعا)ی (غوثیہت)، (قُطْبِيَّهت)، (مدبری) (عالم)یان ئہکرد، وہبہ ہیچ (وجہ) (إشتراك)ی (حرب)یان نہدہکرد، وہ(فتوحات)ی ببوایہ، (حمل)یان ئہکردہ، سہر (کرامت)ی ئہوان وئہو (أُمَّت)ہ، بہدبہخت وسیہرؤژہ، بہو (خرافات)ہ ہلّ ئہخہلہتان، ئہگہر (ملاحظہ)ہ ئہو (ایہت)ہ (کریمہ)یان کردبایہ تووشی ئہو (نوع)ہ (مزخرفات)ہ نہدہبوون، وہہر (صاحب) (حقّ)ی (حقّ)ی خوئی پیئہدار، وہبہ (معنویات)ی (صرف) ہہلئہدہخہلہتان چہند (أبیات)ی کہ (عبد اللہ)ی (بن)ی (مبارك)، بؤ

فُضِّلَی (عیاضی) نووسیوہ، (إیراد) ی لیرہ زور (مُناسب) ہ، (لاشک مُجاہدی (بالنفس والمال) بیّ (شائبہ)، (جاہدی) لہ ریّی خواہیہ، (روح) ی شیرن دائہنی، (مال) ئہ دا، (طماع) ی پاتالی نیہ، (أبدًا) ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (یعنی) بہ ہہردوویکیان ﴿عَلَى الْقَتِيلِينَ﴾ (بالذات) (إشتراک) ناکن، (أما) بہ (مال) بیّ (قصور) بن ﴿دَرَجَةً﴾ (أما) چ (درجہ) یہک؟ (درجہ) یہکی بہ (قدر)، وہ (نسبت) ی (روح) و (مال) ہ ﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ہہردو (نائلی) ی (ثواب) ئہ بن، زیرا ئہمانہش بہ (مال) (إمداد) یان داوہ، (مال) یش بوّ (حرب) زور (لازم) ہ، (سَيِّمًا) لہ (أَيَّام) ی ئیمہ، (تُجَّار) ی دہولہ مہند، کہ (طاقہت) ی (حرب) ی چہندانہی نہبی، (مال) بداء، گہ لیّ (خیر) ترہ، لہ وہ کہ خوئی بچیّ بوّ (حرب)، لہ (زمان) ی (رسول) ﴿ﷺ﴾ ئہو (نوع) ہ ہہبوو، وہک (إمام) ی (عثمان) و (عبد الرحمن بن عوف) ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ بہ (مال) و (نفس) یابہ (مال) یابہ (نفس) ﴿عَلَى الْقَتِيلِينَ﴾ ئہوانہی بہ ہیچ (وجہ) (إشتراک) ناکن ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٩٥﴾ (تقدیر) ناگری، ئہوہندہ نہبی، کہ بوّ ئیمہ (إظهار) ئہ کری ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ لہ خوا ﴿وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ (قاعد) ہکان (یعنی) دانیشتوہکان، (نائلی) ی ہیچ نابن، لہو (حُسن) و (زیادہ) ی (لا يَحَدُّ وَلَا يُعَدُّ) ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿٩٦﴾ لہ بہر (رحم) ی خوا نہبواہیہ، ئہبوو، ئہمانہ، کہ (إشتراک) یان نیہ (بالکلیّہ) لہ (رہحمہت) ی خوا (محروم) بن ئہو (درجہ) و (درجات) ہ کہ (جہناب) ی (حق) بوّ ئیمہی (بیان) ی نہفہرموہ خوڑایی نیہ، لام وایہ تا روڑی (جزا) (معلوم) نابی، کہوابی، (بیان) ی (درجہ) و (درجات) - لام وہیہ - بیّ (معنا) یہ (مفسر) ہکان بیّ (معنا) خوئیان ماندوو کردووہ، (بعض) ی (حمل) ی (مجاہدہ) ی (ثانی) یان، کردوؤتہ، سہر (مُجاہدہ) ی (نفس)، وہئہو وہک لہ (حدیث) ی (شریف) ئہفہرموی: رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ

الاکبر) " وەرئەگیرئ، وەپئى ئەلین: " (جھادی (اکبر) " بەلئ: وایە، ئەگەر پاش (جھادی (أصغر) بی، (مجاهده) ی (نفس)، (جھادی (اکبر) ه، ئەوانە ی له (غزا) دینەو، یا (غالب) ن، یا (مغلوب) ن، له هەردوو (حال) (مجاهده) ی (نفس) ی پئ ئەوی، تاكو نه (مغرور) بن، نه (مأیوس)، (حاصلی) (مجاهده) ی (نفس) له هەموو (حال) آند، (لازم) ه، (جھادی (بالنفس والمال)، دیاره هیچ (حظ) ی (نفس) ی تیا نیه، وەئەو ه ی خەریکی ئیشی گەرە بی، ئەبئ دەست له سەرو (مال) هەل بگرئ، (نفس) و (نفس) (صرف) بکا، وە (إلا) (محال) ه بگاتە (مقصود): کەندەر بن (مرحله)، سەر باختەن (أول) (قدم) أست ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (توفی) یا (ماضی) یه، یا (مضارع) ه (تتوفی) یه، (ت) ی یه کە ی لئ فریداو، (توفی) شت وەرگرتنەتیه به تەواوی، (جمهور) ئەفەرموون: " (توفی) ی (ملائکەت)، (عبارەت) ه له (قبض) ی (روح) ی ئەوان کەسانە ی، کە (ملائکەت) (روح) یان کیشاون، یا ئەیان کیشن ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ئەو کەسانەش (ظلم) یان له (نفس) ی خویان کردو، کە له (دار الحرب) دا ماون، (قبول) ی (ذلت) و (حقارەت) یان کردو، لای (حقیر) (ممکن) ه (حمل) بکریتە سەر (توفی) (حساب) له رۆژی (جزا)، له هەنگامی (محاسبه)، پئیان ئەلین، (سؤال) یان لئ ئەکەن ﴿قَالُوا﴾ (ملائکەت) ه کان، (إستفهام) یان لئ ئەکەن، له رووی (توبیخ) ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ له چ (حال) دا بوون بۆ له ناو دوژمنی (دین) دا مانەو، (هجرەت) تان نەکرد؟ وەك برادەرەکانی (دینی) ی، (دین) به (قووت) و (محب) ی (حریت) ﴿قَالُوا﴾ له (جواب) دا ﴿كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ بی هیز کرابووین، له (طرف) ی دوژمنی (دینی) وە (إلا) له (قووت) ی (ایمان) مان (قصور) مان نەبوو، له بەر ئەو ه نەمان ئەتوانی (هجرەت) بکەین ﴿قَالُوا﴾ له (تکذیب) یان ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً﴾ (عجباً) (أرض) ی خوا فراوان نەبوو

﴿فَنُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (حبس) کرابوون؟ ریتان لئ گرابوو؟ ھەریەك لە رێ ھەبوو، ئەویشتان لئ (سەد) کرابوو؟ (حاشا) (أرض) (واسع)، رێیەکراو، خۆتان خۆتان بئ دەسەلات کردبوو، بە (أسارت) و (عبودیەت) (راضی) بوون ﴿فَأُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ﴾ ئەوانە (مسکن)یان (جہنم) ھە ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۹۷) ﴿جہنم﴾ (مأوی)یە خراپە، نافەرموئ: " (خالدین فیھا) " دیارە (ایمان) بە خۆرای ناپوا، بەلام ئەوەندە ی بزانه، کەسئ (إشتراک)ی نەکردبئ، با (وجود)ی لە ناو دوژمن دابی، (إحتیاج)ی بە (کلفەت)ی (ھجرەت) نەبوویتە (معذرت) وە (مأوی)یان (جہنم) بی، ئەوانە ی (إشتراک)یان (بوجە من الوجوہ)ی نەکردو، وە لە ناو (مسلمان) آن دابوون، (جزا)ی ئەوانە لەو نێە قسە ی لئ بکری ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ بە پاستی ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ لام وایە (إستثنای) ژن و مندالان، (إشارە)یە کە ئەو پیاوہ بئ ھیزانە، لە ریزە ی ژن و مندالان بن، لە بئ (تحمل)ی (مشاق)ی (ھجرەت)، وە (إلا) (ولدان) — بئ (شُبہ) — (داخل)ی (حساب) نیە، وە (أول)ی (ایەت) قسە لەو پیاوانە ی، کە بە بەھانە یە (واھی) (ھجرەت)یان نەکردوو، (زمخشری) ئەلئ: (مُراد) بە (ولدان) (مُراہق)ن " (سید رشید)یش (توجیہ)ی بؤ (ولدان) ئەکا (أما) لە (عبارەت) دوورە، وە ھیچیان (توجیہ) بؤ ژنان ناکەن، (أنه) ئەوان (لازم)ی (ھجرەت) بکەن، (لکن) ئەگەر وایا (لازم) بوو (إستثنای) (عجوزە) بکری ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (۹۸) ھیچ (حیلە) و فیلیان پئ ناکری، ھیچ پئی دەرناکەن، (لاشک) ئەوانە (بوجە من الوجوہ) (تکلیف)ی (ھجرەت)یان لئ ناکری ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ ئەو بی چارانە ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفوَّ عَنْهُمْ﴾ (عفو)ی (إلهی) لە ئەوانە ی کە (معذرت)ی (حقیقی)یان ھە یە، وە (سابقاً) (جناب)ی (حق)، (طلب)ی (جھاد)ی لە (مسلمان) آن کردبوو، بؤ (نجات) دانی ئەو بئ چارە و بئ

ھیژانہ وه له و بابہ تہدا، ہیچ گوناھیان نیہ، (داخل) ی (باب) ی (عسی) بن،
 (فکیف) به (حال) ی ئەوانہ ی بی (معذرت) ن؟ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿۹۹﴾﴾
 (لاشک) ئەو (عسی) یه، بۆ ئەوان له (مقام) ی (تحقق) ه ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ ئەوہی له پری خوا، (هجرهت) بکا، له (أرض)،
 تووشی (حال) ی زۆر نەرم و خووش و فراوان ئەبی، که لووتی دوژمنانی به خوڵ
 بی، ئەمه (مختار) ی (سیّد رشید) ه، (فی الحقیقه مهاجر) هکان، له (أنصار) آن
 (رضی) ی خویان لی بی، (عطف) و نەوازشکیکیان دیت، (فوق التصور)،
 (حتی) ئی وایان هه بوو دووژنی هه بوو، به برادەری (مهاجر) ئەفه رموو: "کامت
 ئەوی بۆت (طلاق) بدەم، پاشان مارە ی بکه " یاخود ئەوہی (هجرهت) بکا،
 تووشی (إضطراب) و (زهحمهت) و بی ئارایش و (راحهت) ی ئەبی، که سی نه لی:
 من ئەوسا (هجرهت)، که (أصلاً) تووشی ناسازی نەبم " (أصل) ی (سفر) بی
 (مشقهت) نابی، (فکیف) ی (هجرهت) له (دار) و (دیار)، له ناو دوژمن، به ناو
 دوژمن؟ واش ئەبی ناگاته (دیار) ی (مقصود) ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ﴾ ئەوہی بچیته دەری له (مال) ی خووی به (مهاجر) ی بۆ لای خواو
 پیغه مبهری خوی ﴿ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ﴾ با نه گاته (خدمهت رسول) ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
 عَلَى اللَّهِ﴾ (أجر) و (ثواب) ی ئەو که سه، ئەکه ویتە، سەر خوا، وه که له (حدیث)
 ئەفه رموی: " (إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى... إلى آخره) "
 ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴿۱۰۰﴾﴾ ئەوہی بۆ خوا (کان) ه بی له (صفات)، (یکون)
 وه، (أزلاً و أبداً) ناگوپی، وه که (سابقاً) (عرض) م کردن، (سیّد رشید) لی ره
 ئەفه رموی: " ئەو (آیات) ه، ئەوہنده پیکه وه نووساون، (فرجه) یه کی نیه، بۆ
 (سبب) (نزول) " (أمّا بعض) ه (مسلمان) وه که: (ضمر) ه ی (بن) ی (جندب)
 وه که، (خالد) ی (بن) ی (حرام)، وه که (أکثم) ی (بن) ی (صیف) ی له (أثنا) ی

(ہجرت) دا، مردن، ئو (ایہت) ہ (شامل) ی ئو وان بوو، ہرہک وای گومان
 ئہ برد، کہ لہ (حق) یہ کئی لہ وانہ، (ایہت) (نزول) ی کردوہ، ئو (وہقت) ہ
 (ہجرت) زور بہ (فائدہ) بوو، بو ئو وان (نجات) لہ (ذلت) و (عذاب) و
 (حقارت)، بو (ہیئت) ی (عمومی)، (تقویہ) و (افشا) ی (مظالم) ی (قریش)،
 (لاشک) (موجب) ی (تنفیر) ی دلی (عالم) ئہ بوو، ئہ فرمون: " (بعد الفتح)
 (ہجرت) نہ ماوہ " بہ لئی بو (زہمان) ی پیغہ مبر وایہ، (اما) دوا ی ئو، بہ
 (زہمان) ی (حال) گورا، دوشمن (استیلا) ی (بلاد) ی (مسلمان) ی نی کرد، گہ لئی
 تووشی (عذاب) و (حقارت) بوون، خو لہ (زہمان) ی ئیمہ قسہ ی لئی ناکری
 (سواد) ی (اعظم) لہ (مسلمان) آن، لہ ژیر (حکم) ی (انگلین) و (فرہنسہ) و
 (روس) دان، (حتی) لہ (زہمان) ی، (سیاسی) ی (انگلین) و (تیمان): " (ملک) ی
 ئیمہ (خلیفہ) یہ " زیرا ئو و ہندہ (مسلمان) ی لہ ژیر (ادارہ) ی ئو، لہ ژیر
 (ادارہ) ی پادشاہی (اسلام) نین، و ہگہ لہ کیان ئہ لئین: " (دولت) ی (انگلین)
 (اکبر دولت) ی (اسلامی) یہ " بہ لئی ئہ مپو (دین) و (خلافہت) - بہ لکو و (خوا) -
 (ملعبہ) یہ کی (سیاسی) یہ بہ دست (سیاسیون) آنہ وہ، لہ (ناپلیون) (نقل)
 ئہ کەن، ئہ ی ووت: " من (ایمان) م بہ (ادیان) نیہ، لہ (مصر) (مسلمان) بووم،
 لیرہ (کاثولیک) م بچمہ (قدس)، بو (خاطر) جوولہ کان، (تعظیم) ی (ہیکل) ی
 (سلیمان) ئہ کە م " (شہر) ی ئو وانہ (علاج) ناکری، مہ گہ بہ (سیاسی) یہ و ہکی
 ئو وان، ئہ مہ ش لہ (دین) ی (اسلام) دا نیہ، یہ کیک لہ (سیاسیون) ی (ایطالی)
 و تبوی: " وائہ بیہ مہردی (سیاسی)، بو (نیل) ی (مقصد) (دین) و (شرف) و
 (عہد) و پیمان بہاویتہ ژیر پی " ئو (وہقت) ہ گہ لئی لہ ئاروپایی یہ کان (ذم) یان
 ئہ کرد، (اما) ئیستا ہموو ئو و ہان وہ لہ بہر نامہردی یہ (افتخار) ئہ کەن،
 چونکی لہ و رووہ وہ قانزاجیان کرد ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ بو (جہاد)، یا بو
 (غیر) ی (جہاد)، لہ (خدمت) پیغہ مبر بن، یان نا، بو یہ نافہرموی: " (فی
 سبیل اللہ) " ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (مضایقہ)، (میل) لہ (حق)، لہ سہر ئیوہ نیہ

﴿أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ له نویژ کورت بکنه وه، له (هیئت) ی یا له (أركان) ی، یاله هردوکی، به گویره ی زه مین و (زه مان) ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ئەوه بۆ ئەوانه یه، كه بۆ (حرب) بچن، (أرض) بکو تنه وه، (فتنه) یان به (إيذا) فه رموه ﴿إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (دوژمنایه تیان ئاشکرایه، (انتظار) ی (فرصت) ئەکه ن، زۆر (حظ) ئەکه ن، ئیوه به نویژ خه ریک بن، وه ئەوان دهستی خویان بوه شینن، (مخفی) نه بی، (ظاهر) وایه، ئەو (شرط) ه (قید) بی بۆ (حکم) ی (سابق)، بۆیه (بعض) ه (أهل) ی (علم) لایان وایه، ئەگه ر (خوف) نه بی، (قصر) نابی، (لکن) له (روح المعانی) ئەفه رموی: " (جواب) ی ئەو (شرطه) (محذوف) ه، (یعنی) ئەگه ر ترسان، دوژمن (تعرض) تان بۆ بکه ن، به شتی، که له لاتان (مکروه) و ناخۆش بی، له (قتال) یا له (غیر) ی (قتال) هیچتان له سه ر نیه، که نویژ کورت بکنه وه، (ومع هذا) ش، گه لیکیان ئەفه رمون: " (أصلاً) نویژ دوو (رکاعه ت) دوو (رکاعه ت) بوو، بۆ (مسافر) له سه ر (أصل) مایه وه، بۆ (حضری)، (غیر) ی نویژی سبه ینی (مغرب) یه ک، ئەوانیتر دوو (رکاعه ت) دوو (رکاعه ت) یان لی (زیاد) کرا " نازانم ئەوه له گه ل (عبارت) ی (قرآن) چۆن ریک ئەکه وی؟ (ذاتاً) که ئیش هاته سه ر (روایات) من (مُعطل) ئەبم، خوا ئەزانئ هیچ (کیف) م به چه کبه رده چه کبه رده یان نایه، ئەوه ی (حظ) ی له م (منازعات) ه یه، ته ماشای (تفسیر) ی (سید) ی (ألوسی) و (سید رشید) بکا ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ له ناو (مسافر) اندا بووی ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ نویژت بویان کرد، (یعنی) بووی به (إمام) یان، به (جماعه ت) نویژی ته واوتان کرد، به (إعتبار) ی (زه مان)، با ته واو نه بی، به (نظر) نویژی (حضری) بی (خطر)، یا خود (قامه ت) ت کرد، بۆ نویژ، (یعنی) بانگت کردن، بۆ (أدا) ی نویژ به (جماعه ت) ئەم (معنا) یه (مختار) ی (سید

رشید) ہ، ﴿فَلَنْقُمَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ﴾ ببن بہ دوو (طائفہ)، یہ کیکیان لہ گہ ل
توو راوہستن، لہ (ابتدا) وہ (اقتدا) بکہن ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ با (طائفہ) کہی
تر لہ (حراسہت) دا بی، بہ لام (زیدہ) (احتراس) (لازم) ہ، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ ئو
(طائفہ) کہ (سجدہ) یان برد لہ گہ ل توو ﴿فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ﴾
(طائفہ) کہی تر، لہ دواى ئیوہ بن، ئاگاداری بکہن ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ
أُخْرَى﴾ ئوہی بو (حراسہت) وہستا بوون ﴿لَمْ يُصَلُّوا﴾ لہ بہر (حراسہت)
﴿فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ﴾ لہ گہ ل توو نویژ بکہن ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾
نہ لئین: "ئووا (داخل) ی نویژ بووین، (أسلحه) فری ئوہدین، (أنه) تازہ (امر) یان
ئوہ کاتی، بہ چہک ہل گرتن ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (تمنى) ئوہکن، (حظ) ئوہکن،
﴿لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّا سَلِحَتِكُمْ﴾ ئیوہ (غافل) ببن لہ چہکی خوتان
﴿وَأَمْتَعْتِكُمْ﴾ (لوازم) ی (سفر)، (یعنی) ئاگاداری (أمتعه) ی (سفر) یش بکہن، لی
ی (غافل) مہ بن ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ بہ یہ کبار (حمل) تان بکہنہ
سہر ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (بأس) لہ سہر ئیوہ نیہ ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى﴾ لہ (وہقت) ی باران، (إنسان) (لباس) ی تہر ئوہی، گران
ئوہی، چہ کیش ہل بگری، زیاتر ئوہکے ویتہ (مشقہت) لہ ہہستان و دانیشتن، لہ
(وہقت) ی باران یا ئوہگہر نہ خوش بوون، بہ برین یا (غیر) ی برین ﴿أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ﴾ چہ کتان دابنئین ﴿وَحِذْرَكُمْ﴾ ئاگادار بن لہ خوتان
(غافل) مہ بن، دیارہ ئوہ بارانہ (غیر) ی بارانی ولاتی ئیمہیہ، ئوہسال لہ
(أواخر) (شعبان) تا ئوہمرؤ کہ یانزدہی (ذی القعدہ) یہ، (متمادیا) ئوہبارئ
(بعضاً کأفواه القرب) دیتہ خواری، کہس ناویڑی، سہر لہ کون بینیتہ دہر چ

جایہ (شہر) کردن، وہ چہک ہل گرتن؟! (أما) لهو (حال) ہشدا، ئہ بی (مسلمان) بہ (حذر) بن ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (۱۰۶) خودای (تعالی) دایناوہ، بؤ ئہو (کافر) آنہ، (عذاب) ئیک، کہ پی (رہزیل) و سووک (مُحَقَّر) بن، بہو (شرط) ہ، ئیوہ بہ بی (مُبالاتی) لہ (کیس) خوتانی نہ دہن وہ دوور نیہ بلین: "خوای (تعالی)، بہ (صلات) ی (خوف)، (عذاب) ی (مُہین) داناوہ، بؤ (کافر) ہکان" (لاشک) ترس و ہراسیان ئہ کہ ویتہ (قلب)، ئہ لین: "ئہ گہر ئہ وانہ زور بہ (قوت) نہ بن، بہ (نصف) ی (عسکر) نہ توانن (مُقابلہ) ی ئیمہ بکن، لہ ہنگامی جہنگ و (جدال) ناتوانن بہ (جماعت) نوئز بکن" لام وایہ (سید ی آلوسی) لہ (نکتہ) ی ئہو قسہ نہ گہیشتوہ، بؤیہ ئہ فہرموی: "ولا یخفی بُعدہ" ئہو قسہ دوورہ (وعلی کلّ حال) (مقصود) لہم (عذاب) ہ، (عذاب) ی (آخرت) نیہ، (عبارت) ی (دائر) بہ (کیفیہت) ی نوئزی ترس (مُختصر) ہ، (حقاً) زور (مُناسب) ہ نہ (مجال) ی (تطویل) ی (صلات) ہ، نہ جی (تفصیل) ی (عبارت) ہ، (حتی) (إعتنا) ی بہ (إحتران) و (إحتراس) لہ نوئز زیاترہ، کہس بہ (خیال) ی دا ئہ ہات، (مادام) ئیمہ بؤ خوا نوئز ئہ کہین، با دوو سی (دقیقہ) خوا ئاگاداریمان بکا، یا (صاحب) ی (شریعت) بہ (قوت) ی (إعجاز) رایان بگری، لہ (حملہ) یان بخا، (سیدین) ئہ فہرمون: "شازدہ (وجہ) یان بؤ (صلاة الخوف) (نقل) کردوہ" لای (أبن قییم) (أصول) ی (صلاة الخوف) شہ شہ، زیاتری لا (ثابت) نہ بوہ، وہ ئہو قسہ لای (حافظ أبن حجر) (مُعتمد) ہ، (سید رشید) شہ شہوت (نوع) ی (نکر) کردوہ، (سیدی آلوسی) یش (تفصیل) ی (مناسب) ی ہہیہ، ئیمہ (مختصراً) دوو (نوع) یان (نکر) ئہ کہین: یہ کیکیان (بنا) لہ سہر ئہمہ، کہ (صلاة الخوف) ن یہک (رکاعت) ہ، (طائفہ) یہک (إقتدا) یان بہ پیغہ مہر کرد، (طائفہ) کہی تر لہ (مقابل) ی دوشمن راوہستان، پاش (سجدہ) و (تحيات) خویندن، (سلام) یان دایہوہ، پیغہ مہر لہو (مدہ) دا، راوہستا، ئہو (طائفہ) رویشتن، بؤ (وجہ) ی

(عدو)، ئہوانیتر ہاتن، (اقتدا)یان بہ پیغہمبہر کرد، یہك (رکاعت)یان لہ گہل؁
 ئہو کرد ہہموو بہیہکہوہ (سلام)یان دایہوہ، (وجہ)ی دووہم: (مبنی)یہ لہسہر
 ئہمہ کہ (صلات)ی (مسافر) لہ دوو (رکاعت) کہ متر نابی، ئہفہرموون:
 " (طائفہ)ی (أول) پاش ئہوہی (مفارقہ)یان کرد، (رکعت)یکیان سہر بہخو
 کرد، لہو (مُدہ)دا (إمام)ی (رُسل) بہ پیوہ وہستا، کہ ئہمانہ (سلام)یان
 دایہوہ، ئہوانیتر ہاتن (اقتدا)یان کرد، پاش (سجدہ)، (حضرت)ی (رسول)
 دانیشٹ لہ (جلسہ)ی (تحیّات)، تا ئہوانہ (رکعت)یکی تریان تہواو کرد،
 لہ گہل؁ (إمام) (سلام)یان دایہوہ، (باقی) (وَجُوہ) لہ (کُتُب)ی (تفسیر) و
 (حدیث) و (فقہ) (بیان) کراوہ ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ﴾ بہو جوڑہی (بیان) کرا،
 ئہگہرچی (رُوات) و (أئمہ)ی (إجتہاد) لہ (وَجُوہ) و (ترجیح) (مُختلف)ن
 ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ لہ (ذکر)ی خوا (غافل) مہبن،
 (حرکات) و (سکنات)تان، بو خواو بہ یادی خوا بی ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ دلتان
 (قران)ی گرت، ترس نہما، کہوتنہ (أمنیّت) ﴿فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ﴾ بہ تہواوی،
 (أرکان) و (ہیئات) و (أبعاد) و (سُنن)ی ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَّوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾﴾ نوپژ لہسہر (ایمان) داران چہسپاوہ (صاحب)ی (وہقت)ہ،
 (وہقت)ی (مُعین)ہ، (مُطلقہ) (مُنْتَشِرہ) نیہ، (وقتیہ)یہ (معینہ)یہ، بہ گوپڑہی
 (وہقت، لازم الأدا)یہ (مادام الامکان) ئہبی بیکن، (حقیقہ مُحارِبہ)ی (أیام)ی
 (سعادت) و (زمان)ی دوا ی ئہو، نوپژ بہ ہہر جوڑی بواہ، (ممکن) بوو،
 وہئہکرا، (لکن) (حرب)ی (زمان)ی ئیمہ، زور (ہائل)ہ چ بو (أفراد)، چ بو
 (قوماندان)، بہ (غیر)ی (دقّت) و نیگاہداری (حرکات)ی (خصم) چیتریان پی
 ناکری؁ لہ ہہر (طرف) لہ یہك (ساحہ)ی (حرب)، چارسہد، پینج سہد،
 (عورادہ)، (ہہوان)، توپی (سریع) ئاتہش، ہہزار شہست تیر، (تعبیہ) ئہکری؁

له (بعض) ه جیّ وهك (چہناق قلعه)، له (بحر) هوه، (دونانما)، پر له
 (عسکری بی شومار، له (هوا) (طیاره)، (شرابنیل)، وه له ههموی
 (مُصیبته) تر (لغم) ی دوژمن، له (طرف) خوی بو ژیر (توردوی) (مقابل) ی،
 وهك كه هرئیز، (أرض) ئه کۆلّی، پری ئه کا، له باروت و ساچمه، له ناکاو ئاگری
 ئه دا، به (آن) یك (توردوی) ژیر به ره و ژورر ئه کا، ئیمه كه بارانی (طیاره) مان
 دیت، له شاری (کۆیه)، (بعض) ه (بومبا) به بهرد، یا به جیّیه رهق ئه کهوت،
 (شہقه) یه کی وای لی ئه هات، له (فوق) ی (صاعقه) ی هه وری (مُترکم) ی به
 (قوّت)، له و (آن) ه دا، (ده هشنهت) ی (استیلا) ی (إنسان) ی ئه کرد، (إنسان)
 ئاگای له مردنیش نه ده ما، له و (نوع) ه (حرب) انه نوئیز چۆن ئه کری؟! ئه وی
 نوئیز له سه ر ئه و (محارب) انه (فرض) بکا، (مقصد) ی ئه وه یه، لای خوا
 گونا هباریان بکا، (مع انه) (عسکری) بی چاره، (روح) ی له سه ر ده ست داناوه،
 له ریّی خودا به ختی ئه کا، له و (وهقت) ه دا، (خدمت) له وه گه وره تر ئه بی
 ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ ئیوه سست مه بن، سستی مه که ن، له (طلب) ی
 ئه و (قوم) ه، که (محارب) ن له گه ل ئیوه، نه به (إشتغال) به نوئیزو روژوو
 (سائری) (عبادات)، نه به (جبانتهت)، نه له بهر (تحمل) ی ئیش ﴿إِنْ تَكُونُوا
 تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا تَأْمُونُ﴾ وه له بهر بی (إشتغال) ی به (عبادتهت)
 لیّتان (غافل) نابن، ئه وان له ئاسن و بهرد نین، وهك ئیوه ن، ئیشیان پی ئه گا،
 وهك ئیوه ئیشتان پی ئه گات ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ ئومیدتان هه یه،
 له (خدمتهت) خوا، به وه ی ئه وان ئومیدیان نیه، ئومیّتان به (رضوان) و
 (مغفرتهت) و به هه شتی خواجه ئه و (ایهت) ه ش زور (منتظم) ه له گه ل پیشه وه،
 (حاجتهت) به (سبب) ی (نزول) ناکا، وه تی گه یشتنی (معنا) ی په کی له سه ر
 (بیان) ی (سبب) ی (نزول) نه که وتوه ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ئیوه ش به
 (مقتضا) ی (علم) و (حکمهت) ره فتار بکه ن، زور دووره، له (علم) و (حکمهت)

ئەوان لەرئیی (طاغوت) جان افشانی بکەن، (بلا وەن) و (فُتور) تئ بکۆشن، ئیوہ لە رئیی خوا سستی بنوینن، ئەوان (تحمَل) ی (آلام) و (مشاق) بکەن، ئیوہ نە ی کەن ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ (قرآن) ی (کریم) ﴿بِالْحَقِّ﴾ (أجلی دلیل) لەسەر (حقیقەتی) (قرآن) (رعایەت) ی (أحوال) و (أوقات) ه، بی (میل) و (محابا) یه ﴿لِتَحْكُمَ﴾ (حکم) ی (إیجابی) و (سلبی) و (قضائی) ﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾ بی (تفریق) لە (بین) ی خزم و بیگانە، (مؤمن) و (مُنافق)، (مُصدّق) و (مُکذّب) ﴿بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ﴾ بەوہی کە خوا نیشانی تووی داوہ، کە (حق) و (عدالەت) ه، وەک (سابقاً) فەرمووی: " (رسول) بۆیە ناردراوہ، کە بە (إذن) ی خوا (إطاعه) بکری، وە (رسول) یش (مأمور) ه، کە بە (عدالەت) (حُکم) بکا " (لاشک) (إتمام) ی (صلات) لە (أمنیەت) و (تخفیف) ی لە (سفر)، لە (وہقت) ی (خوف)، لە (تمامی) ی (عدالەت) ه ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ (ولو) لە (أموار) ی (حربی) ش بە (افشا) ی (أسرار) (خیانەت) یان کردبی، مەبە دوژمنی ئەوان، بە (نوع) ی (معاد اللہ)، (نوعاً) (إنحراف) لە (عدالەت) بکە ی، (مُفسر) ه کانی تر ئەفەرموون: " لەسەر ئەوان (دفاع) و (خصام) مەکە، لەگەل (أبریا) یان " فَأَخْتَر لِنَفْسِكَ مَا يَحِلُّ " ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ لە (میل) یك، لە (خاطر) یك، بە دلئ (مبارک) تا (عُبور) بکا، لە (صفوہت) ی (قلبی) نەوہ شیئەوہ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۱۰۶) هەرکەسئ (ندامەت) و پەشیمانی بکیشئ خوا (تجاوز) ی لئ ئەکات ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ (وَلَوْ أَقْرَبَ النَّاسَ إِلَيْكَ) ه بی، کەسئ لەو (نوع) ی (وہقت) ه (خیانەت) لەگەل (قوم) ی خوئ بکا، (خیانەت) لەگەل خوئ ئەکا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (خوای) (تعالی) کەسیکی (خائن) و زۆر رۆچووپی، لە گوناہ، خوئشی ناوی، تووش خوشت

نَفْسَهُ ﴿مُجَادِلَهُ﴾ و ﴿مُدَافِعَهُ﴾ و ﴿مُحَامِيهِتِي﴾ عمرو و ﴿زَيْدٍ﴾ بُوْئُهُ و كِهْ كِ نَاغِرِي
 ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ﴾ چاره (إِسْتِغْفَارٍ) و (تَوْبَةٍ) يَه ﴿يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا﴾ ﴿١١٠﴾ (لازم) ه، (قبل الفوات) چاره سازی خوی بکا، خوی له
 (ره حمه تی) خوا (محروم) نه کا ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا﴾ ئەو هی گوناھی بکا
 ﴿فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ تُوْبَالِي له سهر خویه تی (نفس) ی خوی (ملوث) ئە کا
 ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١١١﴾ (إِسْتِكْمَالِ) ی (نفس) به (علم) و (فضائل) ی
 (خلاق) و (محاسن) ی (أعمال)، (مُقَرَّبِ) ی (إنسان) ه له خوی (علیم) و (حکیم)،
 (إنسان) ئەو هیه (نفس) ی خوی له (دنائت) و (خسّت) (محافظة) بکا ﴿وَمَنْ
 يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ گوناھی گچکه ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ گوناھی گه وره ﴿ثُمَّ يَرَوْهُ بَرِيًّا﴾
 دوایه بیهاویته که سی بی (خطا) و گوناہ ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا﴾ له خوی بار
 کردوه، شتی، که (إنسان) له بیستنی (حیرت) ئە ی گری، چوْن ئەو
 (جسارت) ه ئە کا؟ ﴿وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ ﴿١١٢﴾ گوناھی بوختانی هویدا، (دنائت) ی
 وایه، هنده ئە گوتری: که گوناھی ئاشکرایه، (حتی) ئە گهر گوناھی گچکه ش
 بی، به و (واسطه) ه ئە و (إِسْنَادِ) ه، ئە بیته گوناھیکی گه وره و (بین) ﴿وَلَوْلَا
 فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ ئە گهر (فضل) و (ره حمه تی) ی خوا له سهر توو،
 نه بی، نه بایه، به (وحی) گه لی (خفایا) و (منویات) ی (خائن) آنی، بو توو
 دهرنه خستایه ﴿لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ له (طرف) دارانی (خائن) آن ﴿أَنْ
 يُضِلُّوكَ﴾ (حقیقت) له توو بزر بکه ن، (اما) له ترسی ئاشکرا بوونی ئەو
 (همه)، نه یان کرد، (یعنی) (هم) یشیان نه کرد، چ جایه (تشبث) ی پی بکه ن؟
 (أَبُو الْبَقَا) (جواب) یکی، بو (لولا) (مُقدّر) کردوه، من له (رسول) ی (هادی)

شہرم ئہ کہم (ذکر)ی بکہم، وہ (منشأ)ی (غفلت)ہ، لہو (نکتہ)ی کہ ئیمہ (إشارة)مان بو کرد، ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ (حاشا) کہس بتوانی، ری لہ تو بگوری ئہ گہر کہ سئی ئہو (ہمہ) بکا، خوئی گومراہ ئہ کاو بہس ﴿وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ بہ ہەر (نوع)ہ (خیانہت)ئی بیئہ پیش لہ گہل توو، (أدنی) (ضرر)ئی بہ توو نا کہ یہ نن، لام وایہ (أبو مسلم) لہ بہر ئہو (جملہ)یہ، (تفسیر) (إضلال) بہ (إهلاك) ئہ کا ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ لا پاش ئہ وہی، توو بوویہ (مہبط)ی (وحی) (إلهی)، (منبع)ی (علم)و (حکمت)ی، کی ئہ توانی تو (إضلال) بکا؟ (حق)ت لی بگوری؟ وہ (ألبتہ) (إعتنات) بیئی، لہ (شہ)ی ئہ وانہ (حفظ)ت ئہ کا، کہ ہیچ (ضرر)ت لہ ئہ وانہ وہ پیئ نہ گات ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (سوابق)ی (فضل)و (عنايت)ی خوا، (شاهد)ہ لہ سہر (لواحق)ی، ئہو (فضل)ہ، دہر بارہی توو، (دائم)ہ ناگوری، (زوال)ی نابی، لہو (تقریر)و (تفسیر)ہ، دہر ئہ کہوی کہ ئہو (آیات)ہ لہ (غایت)ی (إتصال) دایہ، لہ گہل (آیات)ی (سابقہ)ی وہ (مفسر)ہ کان چہند (وقایع)یان (نقل) فہرموہ، گپراویانہ بہ (أسباب)ی (نزول)، منیش (علی سبیل الاختصار) (بیان)یان ئہ کہم، دوی (تفسیر) ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ ئہ وانہی کہ (یبييتونَ ما لا يرضى من القول) لہ گہل یہ ک فسکہ فسکیان ئہ کرد، گوی یا بو (مُصالحه)ی (عامہ) (تدبیر)و (مُشاوہر)ہ ئہ کہن، (جناب)ی (حق) ئہ فہرموی: " (خُلوهت) و قسہ بہ دزیہ کانیان، زوری ہیچ (خیر)و (فائدہ)ی تیا نیہ "، بی (خیر)ی (نجوا)یان، لہ بی (خیر)ی خوئیانہ کہ (میل)یان لہ (خیر)و چاکہ نیہ، بوئیہ ئہ فہرموی: ﴿إِلَّا مِّنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ (کأنہ) ئہ فہرموی: " (خیر) لہو (خُلوه) کردنہ نیہ، (إلا) کہ سیکی (أمر) بکا، بہ (صدقہ) یا بہ چاکہ " دوور نیہ، لہو گروہہ کہ سئی

بئی (امر) بکا، بہ بہخشین، یا بہ شتی چاک ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (طرف) داری (سلم) بی، (ولو سیاست) بی؟ وہک (سیاسیون) ی (ایام) ی ئیمہ، لہ پاش ئوہ، کہ (استیلا) ی (دنیا) یان کرد، چہند (تاج) و تہختیان سہرنگوون کرد، (نائل) ی (مراد) خویمان بوون، بوون بہ (طرف) داری (صلح) و (مسالمہ) ن ئہلین: "ہہموو (بشر) یہک (عائلہ) یہ، ئہبی ہہر کہس بو (مصالح) ی (بنی) (نوع) ی خوئی، بی (تفریق) ی (دین) و خوین و (دم)، (سعی) بکا" (أما صولجان) ی (سیادہت) ی (بر) و (بحر) و (ہوا) ہہر لہ دەست ئوہدابی، ئوہ (ہذیانات) ہ، (مع الأسف) (تأثیر) لہ (مسلمان) آن ئہکا، دەماریان ئہمری، (طاقت) ی بالہ فرکہیان نامینی، ئہوجا بہ تہواوی (استیلا) یان لہسہر ئہکری، بہلام (قابل) ہ، لہ (بشر) دا - (نادراً) - (بعض) ہ (أشخاص) ہہبی، (عن صمیم القلب) ئارہزووی (توحید) ی (بشر) بکا، (مُنافرہ) ی (دینی) و (سیاسی) و (عرقی) لہ (بین) دا نہمینی، (صلہ) ی (رہم) ی (عمومی) - (بعد الإنقطاع) - (وصل) بکری، وہک لہ (صدر) ی (سورہت) رابورد، یہکی لہ (علماء) ی (طبیعت) ئہلی: "ئیسٹا (علم) زور (ناقص) ہ، زیرا (سبب) ی بہ (سوء) ی (سیاسہت) ی (دول)، (ملا) یہکان (ملاقات) لہ گہل یہک ناکہن، (عالم) ی (ألمانی) لہ گہل (عالم) ی (انگلیزی) و (فرہنسہیی) بو (مداولہ) ی (أفکار)، لہسہر (أسرار) ی (طبیعت) لہ جی یہک گرد نابنہوہ، وکذا، سائر) ی (علماء) (دول) ی (مُحارِبہ) و (مُعادیہ)، پیش ئہمرو دوو (عائق) ی ہہبوو، یہکی (دین)، ئہومان - (مہما ممکن) - (إزالہ) ہ کرد، ماوہتہوہ (عوایق) ی (سیاسہت)، ئہمہ (إزالہ) ناکری، (مع الاسف) (علوم) بہ تہواوی (ترقی) ناکا! " (في الحقیقہت) (أيجاد) ی ئہکرد، (أهل) ی (علم) لہ ہہر (فرقہ) و (أمم) ی بی، بہ یہک (کتلہ حساب) بن، (عداوت) نہاویئہ دلی خویمان، (أما بالعکس)، ئہو (بُغض) و (نفاق) ی لہ (بین) ی (ملا) یان دا ہہیہ لہ (بین) ی (عوام) دا نیہ، بہ لکو (عداوت) ی (عوام) (منشأ) ی لہ (عداوت) ی (ملا) یانہ

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ئه وهی ئه وه بکا، (یعنی) (أمر) به (صدقه)، به (معروف) به (إصلاح)، یا خود ئه وانه بکا ﴿أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ بۆ (طلب) ی (رضا) مهندی خوا ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (حاشا) ئه و (مکار) آنه ئه و (سیاسیون) آنه، (مقصود) یان، (رضا) ی خوی نیه، (سواد) ی (أعظم) یان (إیمان) یان به خوا نیه، هرچی بیکه ن، هرچی بیلین، هه مووی (مکر) ه، حوقه بازی، هه لئه تاندنی، بی هیزانه، (أمريکائی)، (انگلیز)، (فره نسه) (ئه لمانیا)، (سائر) ی (دول) ی (غرب) (بنا) ی (مستشفی) و (مکاتب) یان، بۆ (سعاده ت) ی (بشر) ه؟ بۆ (إرتقا) ی (إنسان) ه؟ ئه ی وای، که سیئک ئه و گومانه ببا، (جاهل) ه، نه فامه ! به (غیر) ی (هدم) ی (دین) و (حق) و (شرف) ی (بشری) هیچ (غرض) یان نیه، (وعد) ی (ویلسون) و (مبشر) آن بۆ چیه؟ (ضُعفا) له چه نگ (أقویا) (نجات) بده ن؟ (إنسان) له (عذاب) ی (قیامه ت) قورتار بکه ن؟ کئی ئه و (خیال) ه ئه کا؟ مه گه ر که سی (دماغ) ی وه ک ناوکه کدوو بی، که لئه یه میثکی تیابی، ئه و (توره هات) هی پیوه نانوسی ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ ئه و (عصیان) ی پیغه مبه ر بکا، له (أمر) ی (خصوصی) خوی ﴿مَنْ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ الْهُدَى﴾ به (دلیل) و (برهان) بۆی (ظاهر) بوو، پئی راست زانی، هیچ (عذر) و به هانه ی نامینئ ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ له (مصلح) ی (عامه) دوی پئی یه ک بکه وئ، (غیر) ی رئی (أهل) ی (إیمان)، رئی (مسلمان) آن: (إطاعه) (خلوص) ی (قلب) ه، (إبتغا) ی (رضا) ی خوی، (إیمان) ی بی (شائبه) ی (شرك) و روو (پیا) یه، (تمسك) به (آیات) ی (بیئات) ی (قرآن) و (أکوان) ه ﴿تَوَلَّاهُ﴾ ﴿مَا تَوَلَّى﴾ (رد) ی ئه که ینه وه، ئه و شته ی رووی تی کردوو، (جبراً و قهراً)، نای هیئینه وه رئی راست، هرچی ئه ی کا، بابیکا، روو له هرچی ئه کا، با رووی

تئ بکا، (إنسان) له (أول وهله) وه (قابل) ه، بؤ (أنواع) ی (اشیا)، وهك (هیولا)
(قابل) ه بؤ (صُور) ی (مُختلف) ه ﴿وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۱۱۵)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ زبیرا اگر له شَرِكْ خَوْش ببی ئه بی شریکی
هه بیی. خؤ شریک بو خوا محاله لی خوش بونی شَرِك ئه بیته محال، له دائره ی
أمكان دانیه ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولو عصیان واتباعی غیر
سبیلی مؤمنین بی ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۱۱۶) خودا واحدی
بالذاته، وحدتی ذاتی قبولی شَرِكْت ناکا، وإلا ئه بیته وحدتی إعتباری ئه وانه ی
شریک بؤ خوا په یا ئه که ن له شؤنی ألوهیت بی خبرن (الله) کلمه بیه که به سهر
زبانیان دادی معنای چیه نازانن کئ ئه که ن به شریک ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

إِلَّا أَنْتَ﴾ عجایبه ئه وانى مشرکن غیرى الهى حرب باقى الهه به کچیه کی حسنا
تخیل ئه که ن ایستاش جمعئ هه ن له بشر (فَرَج) ئه په رستن کچی له وانه بگاته
دهره جهی غایت له حُسن وجمال ئه یکه ن به (إله) له بعضه مراسیمی دین
له سهر تختی مجوهر دائه نیشئ جوق جوق به به رده میا تئ ئه په رن دستیان به
فرجی مبارکی دا دینن دهستی خویان ماچ ئه که ن له سه رچاویان دائه نین.
وَأورپایی بالعموم ژن په رستن، سیادهت هی ئه وانه پیاوه کان عبد
وخزمه تکارن، بعضی (مام آلی) له ئیمه زور حز ئه که ن سیادهتی ژنان له ناو
مُسلمانان تعمم بکا. فی الحقیقه غیرى خوا ئه وی هه بی له قوه ی إنفعال و تَأُثر

شریکی ژنانن، خصوص هیولانی محض منفعلن، ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا
مَّرِيدًا﴾ (۱۱۷) تمثالی الهی حرب تمثالی شیطانه خبیث، گرژ، که پو خرو بلند
وأسطور، لچ خه روای روت له هه مو آثاری حسن وملاحت ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ له وو
له اتباعی، ﴿وَقَالَ﴾ شیطانی مرید ﴿لَا تَتَّخِذْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (۱۱۸)

پاش ئہ وہ کہ طرد کرا له ساحہی رَحْمَتِي إِلَهِي، ووتی له مخلوقی تو پیشکی مُعِينٌ وَهَرْتُهُ غَرَمٌ، ئہ بن به یارویا وهر و معین و ظہیری من ئہ وانہ عبارہ تن له شیاطینی الإنس، کہ بؤ انسان گہلی له شیطانی مرید خرابترن. به تلبیسات و تلویثاتیان انسان هَلْ ئُهْ خَلَّهْتِي ﴿وَلَا ضَلَّانَهُمْ﴾ گمراہیان ئہ کہم، ﴿وَلَا مُنِيتَهُمْ﴾ به أمانی باطله مشغولیان ئہ کہم له سعی، (غزالی ئہ فہرموی: فریوی کسی زراعتیہ کی کہ می هہ بی به تہ مای زوربی، ئہ وہ أَمَلٌ وَرَجَائِيہ، ئہ وی ہیچی نہ چہ ندبی به تہ مای غلہی زور بی (أَمْنِيہِیہ) ئیوہ له اولادی پیغہ مہر ان چؤن معدب ئہ بن عیسی، بوذا بوینہ فدیہی نجاتی گنہکاران شیخ نایلی نہ چہ جہنم، خوا غفور و رحیمہ، به عذاب دانی ئیوہ چہ قازانچی پی ئہ گا، ئیوہ ایمان دارن گناہ له گہل ایمان ضرری نیہ، ئیوہ اولیان محفوظن گوناہ تأثیری سوء له نفوسی مقدسہی ئیوہ ناکا، وھکذا.

﴿وَلَا مُرْتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَاذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ بی توقف إطاعہی امری ئہ کہن، گوئی حوشران ئہ برن، شقی ئہ کہن، ئہ مہش عائدی و ئنیہ کانی عربہ ﴿وَلَا مُرْتَهُمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ﴾ قسہ یان زور له و آیہ تہ کردوہ تغییر حسیہ یا معنویہ یا ہر دو کیانہ، ئہ و خلقہی خوی کہ تغییری ئہ دہن ئہ یگوپن چیہ؟ لای مجددی مصری تفسیری فطرتی انسانہ مہیلی انسان أساساً له سہر چاکہ یہ، داک و باب، مامؤستا، شیخ، انقلاب چیہ کان، سیاسیون ئہ یانگوپن، ئہ و فطرہ تہ پاکہی به فساد ئہ دہن و تفسیر به عقل زور معقولہ، ذاتاً چہ شیطانی مرید چہ وکلای ئہ و اولاً سعی له تیہ ک دانی عقل ئہ کہن. بابیون ملاحظہی صوفیہ، قسمی له صوفیہ کانی ئیمہ نہختی له ملایان حاصلی سوفسطائیہ کان له تغییر و تہوینی عقل خہریکن، به مغالطات به مشاغبات به طبعی شاعرانہ ہیژی عقل ناییلن، تا کو خہ لکی وک گووی دریژ علی العمیان تسلیمیان بن، عقل به ترساندن خصوص له عقابی الہی زوو تسلیم ئہ بی، له و

روہوہ بئ (لم) گردن دادہی إطاعہی ئہبئ، محالات ہضم ئہکا. ئہو تفسیرہ مبنیہ لہسہر ئہوہ کہ بلئین تغیرہ کہ ئہبئ، وإلا ئہتوانین بلئین گاجوت ئہکہن بہخوا، أما نابی انسان بکہنہ کورپی خوا، بہخوا (ابن مریم) نابی بہ (ابن اللہ)، ملائکہ ئہکہن بہ کچی خوا، وکلی طائفہ لہ اہلی علم و حکمت خالی نیہ، ئہوجا یا بعضہ مخلوق ئہگہیننہ درجہی خوا، یاخوا ئہہیننہ درجہی مخلوق، تفسیری تاریخ، تفسیری أوصاف لہ شیمہی جولہکان و قساوسہی أوریایی و آمریکانیہکان لہ أفشعی أشیایہ. خولاصہ شیطان نصیبی خوی و ہرگرت، أما لہ صدی نہوہ دونؤ. أما شیطان عالی ہمتہ، شکم نیہ کہ بہ کردہوہی شہدہ لہ بیان راضی نیہ، نہبرا لہ ہمو قیود بہ درہ حتی کفریش نیہ، چونکی کفر معناییکی ہہیہ، أما رفتاری ئہوان ہیچ معنای نیہ، یہک ئمرہی ہہیہ کہ آپروی کوردانی پئ چوو. نہجو، نہ دیان، نہ إباحی، نہبوت پہرست، نہسہگ پہرست، نہفرج پہرست، بہ مُعاملہیان راضی نیہ. أما تفسیری بہ کوتان بہ ددان لہ چرخ دان بہریش تاشین وشتی وا لام وایہ زؤر بئ قیمہتہ ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ ئہوی شیطان بگری بہدؤست و متبوع، تَجاوز لہ امری خوا بکا زاتا متابعہی خوا لہ گہل متابعہی شیطان قط گردنابیتہوہ ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ ﴿۱۱۶﴾ بہ حَقَّہ تئ دہشکئ بہ تئ شکانی آشکرا ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ﴾ چی تری لہ دہست نابی، وہک لہ سورہی إبراہیم ئہلئ خوا موفقمان بکا بیگہینئ ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿۱۲۰﴾ وعدہی ئہو باطلہ مزخرفہ تلبیسہ، حَق بہ باطل باطل بہ حَق ئہنویئ، طبیعتی شاعرانہی زؤر بہ قوہتہ ﴿أُولَئِكَ﴾ ئہوانہی شیطان ئہکہنہ وہلی خویان بہ وعدہ و امانی ئہو ہلئ ئہخہلہتین ﴿مَا أُوذِيهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ ﴿۱۲۱﴾ جئی لاچون و ہہلاتنیان نیہ لہ جہنم، یانجات و قوتار

بونیان نیہ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بہ خواو پیغہ مبرو کتابی الہی ﴿وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ﴾ ذاتا ایمانی بی عمل بی عملہ، اگر لہ قیامہ تیش نجاتی بی لہ
 دنیا بو اہلی ایمان بی کہ لکہ بہ لکو ضرری لہ دشمن زیاترہ،
 ﴿سَكُنْ خِلْمَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ مردنیان
 نیہ لذائذ ونعمیان لی نابری، أصلا ہر ئەمین ہر متنعمن ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾
 اُمنیہ نیہ، غرور نیہ، مقرر و محقق وثابتہ حتی مبالغہ شی نیہ، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ
 مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿۱۲۴﴾ کی قسہی لہ قسہی خوا راست ترہ؟ نیوہ دوای بکہون،
 إطاعہی امری خوا نہ کہن وعدی کبریائی ولو بہ قوی ضعیف ولیت و عسی بی
 خوا ئەی ہینیتہ جی، چ جای وہ عدی قہوی و جازم، ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي﴾
 ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اشارہ مان کرد لہ جملہی امانی و تصورات و خیالات
 فاسدہ و کاذبہ یان کہ لہ طرف شیطان دیتہ دللی انسان، اغترار بہ دین اغترار
 بہ نسب ئەوہ لہ أغلب مکایدی شیطانی گہورہ ترہ، مسلمان ئەلین نیئمہ امتی
 خیر البشر خاتم الرسل خوشہ ویستی خواین، چوں عذابمان ئەدا؟ بنی اسرائیلی
 و بنی الزہراء ئەلین نیئمہ لہ اولادی پیغہ مبرانین بی شک ہر گوناہی بی کہین
 خوا لی مان خوش ئەبی بو خاطرہ ئەو نازدارانہ، وکہ بعضہ ملای مرانی بعضہ
 أحادیثیان ہاویشتہ سہرہ جی ئەگری لہ دلاندا شین ئەبی ہیچ مہ کہ مہ کہ
 نامینی واجبہ انسان بہو خہ یالہ خاوه خوئی لی نہ گوری بپروا بکا بہ اصدق
 القائلین کہ ئەفہرموی ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ تاویل نہ کا بلی ئەوہ بو
 مشرکانہ نیئمہ محفوظین مقدسین گناہ لہ نیئمہ تاثیر ناکا، نیئمہ لہ لوح المحفوظ
 ئەبینین ئەو گوناہمان لہ سہر مقدرہ، آنہ بہ إطاعہی قدر ئەکہین، چونکہ
 سری قدر لہ لای نیئمہ مکشوفہ. ئەوی لہ لوح المحفوظ بو ہاتہ خواری ئەمہ
 قرآنی کریمہ تہ ماشای بکہ چیت بہ سہر لوح المحفوظہ، وقرآن طریقہی لی

خۆش بونی گوناھی بۆ داناون حەز ئەكەن مجازاتان به گوناھ نەبی،
 فەرمودە ی ئەو پەفتار بکەن، ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (۱۲۳)
 کئ له دەست خویان قوتار ئەکا؟ اگر إبراهيم، اگر موسى یه، اگر عيسى یه،
 اگر محمد به عبودیت مَقَرَّب بوون، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ هەر
 کەسه به گویره ی حالی خۆی طبیعی صالحانی ملایان له گەل صالحانی جاهلان
 جوایزه، صالحانی دوقتور له گەل صالحانی کاروانچی فەرقی ههیه و کذا
 صالحانی دەوله مەند و صالحانی فقیر فرقیان دیاره و صالحات به وهقت
 ئەگویری، وَتَمَكَّنْ وَشَرَطْهُ نُووِیژێ حَضَرَ وَسَفَرَ وَأَمَّنْ وَخَوَّفْ یه ک نین ﴿مِنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ چ نیڕ چ می فرقیان چیه نظر به چاکه، ئەگەر چی می لای
 ئیوه مهانه ئەمپۆ کورده کان وهك جاشك و گۆلك ئەیان فرۆشن له پیناو آمالی
 خۆیانیان دانه نین، گوایه به میردیان ئەدەن، به لام خوا رب العالمینه فرقی ئەم
 طائفه و ئەو طائفه ناكا اسرائیلی وقوره ییشی وقبیطی وحبشی لای مساویه،
 طریقى شرف وكرامت و تقرب إلى الله بۆ هه موو شعبی گوشاده جاده یه انسانى
 ئەوی پی دا بریوا لانه دا. حالیش وابی ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ئەوی بی ایمان بی جزای
 چاکه ی له داری دنیا یه، ئیمه قسه مان له آخره ته ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (۱۲۴) أدنى نقصی له ثوابی أعمالیان نابی، (نقیر)
 نُقْرَه ییه که له سه ر پشتی ناوکه خورما، که داری خورما له ویه وه شین ئەبی،
 ئەوهش مئله له که می ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ آینی کئ
 چاتره له آینی ئەو که سه ی که نفسی خۆی پاک کردبئ بۆ خوا غیری خوا که س
 به إله نه زانی، یا به خالصی پوو له خوابئ پوو ی خۆی بۆ که س پیس نه کا
 ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ له حقی عبادی خوا طماعیان تی نه کا، نه یانکاته کۆیله ی خۆی

﴿وَاتَّبَعَ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ مائل له هه موو اديانی منحرفه وپروپوچ ﴿وَاتَّخَذَ

اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ﴿۱۲۵﴾ له سهر ئه و خُلَّتَه و دوستيه بزنانن چي ئه کرد چؤن روی

له خوا ئه کرد چؤن ئه پاراپيه وه ئيوه به و کرده وانه نسهبته تي خؤتان به ابراهيم

بدن نهك به نسب پي مغرور بين ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هه موو

عَبْدَن مَمْلُوكَن مُحْتَاجَن وَه كَ ئِيُوَه لَه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَيَّ إِتْخَاذَ

ئِه كَه نَ بَه شَرِيكَ بَه و لِي ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ ﴿۱۲۶﴾ پوو له كي

ئِه كَه نَ؟ چؤن پزگار ئه بن؟ جنابي كبريائي به علم به قدرت ده وره ي له هه موو

شت داوه، إحاطه ي كُلي هه ر بؤ خوايه، ئه وي إحاطه به شتئ بدا به اذني

ئِه وه، خاصي ئه م و ئه و نيه ته ماشاي قورئان بكه ن له گه لَ اِعتقادي بعضي

كه س كه اُمَّتْ بَه صِفوتِي اَنَامِيَانِ ئَه زَانَنِ ئَه لَيِّنِ قَطْبِي فِرْدِ عِلْمِي وَه كَ عِلْمِي

خَوَايَه لَه گه لَ ذَاتِي كَائِنَاتِ تَيَّ كَه لَه، قَدْرَتِي وَه كَ قَدْرَتِي خَوَايَه، هه موو شت

ئِه تَوَانِي بَكَا، خَوَا أَمْرِي (كَن فَيَكُونُ) ي دَاوَه تَي.

نعوذ بالله له و جهله عظيمه، كه لاي مُسلمانان به ايماني كامل وَاكمل حساب

كراوه. ئه وه يه ليغيرن خلق الله الحاقى ئه كَه نَ بَه اِلَه. اكا دارين تقريراتي مجددي

مصري ليّره ته واو بوو، رحمتي خواي لي بي. ئه و ريگاي ابو مسلمي اصفهاني

كردبويه وه بؤ افكاري احرار شيخي مرحوم تَوْسَعِي پِي دَا گه لِي قِيودي شكاند،

شيخ بؤ مفسران وه كَ عَسِيَايَه بؤ بِنِي اسْرَائِيلَ غَلُّ وَزَنْجِيرِي نَقْلَانِ ئَه كَاتَه وَه تَا

بِتَوَانَن بَه خَطَوَاتِي دَا سَعِي بؤ اِدْرَاكِ مَعَانِي قُرْآنِ شَه قَاو بَاوِيْن ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ

فِي النِّسَاءِ﴾ اِتْصَالِي ئَه وَ آيْتَه بَه مَا قَبْلِي نَزِيكِي نَه خَتِي بَزْرَه، ئِيْمَه بَه سِي وَجَه

بَيَانِي ئَه كَه يِن:

أولاً: جنابي حَق فِه رَمُوي: (إِنْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَاً) قَابِلَه بِيْتَه دَلَانِ رَغْمِ

أَنْفِ عِبَادِ الْإِنْثَا تَحْقِيرِي إِنْثَا بَه لَازِمِ بَزَانَنِ پَاشَانِ كَه فِه رَمُوي: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

الصالحات) له نلی ثواب می له گه ل نیر مساوی کرد له بهینی اهانته ورعایه تردیدیان لی حاصل بوو، بو رفعی خطرات دهربارهی ژنان فتوایان له رسولی اکرم طلب کرد.

دووه م: له حدیث دا ههیه (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)، که مجاهدهی نفسه سوادی اعظم له عرب حربیان گه لی لاخوشتر بوو له محافظهی حقوقی ژنان، پاش امر به جهاد او تفصیلاته که فه رموی، هینانیه سه رئه و جهاده گه ورهیه ئه و استفتایه لیره ایراد کرا، سواء بلین لیره وقوعی بووه یا سابقا یا لاحقاً.

سییه م: زور نزیکه ئه و سائلانه له ضعیفیان بوین، دلیان له تحمل قوارع وزواج ضرباتی شدید ضعیف بووه مقصدیان له و طلبه توجیهی صاحبی رساله بو مسئلهی دی، هه تا له و آلامه نجاتیان ببی، وحضرتی رسالهت نهی توانیوه جوابیان بدا، دلی مبارک له و سؤاله نابه جایه تهنگ بووه، لاکن جنابی حق به مقتضای علم و حلمی مسامحهی کردووه، خوئی جوابی داوه ته وه ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ که وابی له و بی مناسبه ییه، مناسبه یی زور به قوهت دهرئه که وئی. آیاتی بشیر ایجابی ئه کرد ئه وانه ایمانیان به قوهت ببی، اعانهی خائنان نه دهن، عرضی رسالهت بکه ن امرت اجرایه سه رومال و قوم و عشیرهت له پی ناوی توودایه، ئه و نوعه استفتایه ئه که ن مع أنه ئه و احکامه سابقا معلوم کراوه، بویه ئه فه رموی: ﴿وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ ئه و آیاتی که مراراً مستمراً به سه ر ئیوه دا ئه خویندریته وه ئه ویش فتواتان بو ئه دا، یعنی ناگوری حکمی کی جاریه قابلی تغییر و تبدیل نیه. سؤاله که یان له و حقوقانه یه که آیاتی تالیه بیانی ئه کا، وه ک سییدی آلوسی ئه فه رموی: میلی شیخ الاسلام له سه ر ترجیحی ئه وه یه نه ک سؤال له میرات بی وه کی بعضه کی دی فه رمویانه، و معنای اول له مبتکرانی سید رشید نیه وه ک له لاف و گزافی

بہدہرئہ کہوئی، وتعجب له مفسرینان ئەکا آنه خوئی به شیخ محمد عبده ئەنوینی، (کالهرّ یحکی إنتفاخاً صورة الأسد) ﴿فِي يَتَمَى النِّسَاءِ﴾ متعلقه به (یتلی)، ئەوانه زۆر بی دەسه لاتن حفی حقیان له سەر أقویایان گه لی لازمه ﴿الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ﴾ ئەوانی که محرومیان ئەکهن له حقوق، ئەوهی له طرف خواوه بۆیان نوسراوه چه سپاوه پی یان ناگه یینن ﴿وَرَغَبُونَ﴾ ومع هذا مه یلتان لی یه ﴿أَنْ تَنَكِّحُوهُنَّ﴾ اگر جوان بن ومالدار بن ورغبتیان لی ئەکهن، اگر ناشیرن وبی مال بن له صورهتی اول (فی ی) بو مقدر اکهن له صورهتی ثانیه (عن) (حقیقه) زۆر جوانه مختصر وشامل ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ دهربارهی ئەوانیش ئەهه رموی حقوقیان پی بگه یهنن، به عاداتی جاهلیه محرومیان مه کهن، ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ چ نیر چ می امری خوا ئەوهیه چۆن سابقا فهرمویهتی ثابته ناگوری انحراف مه کهن ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ زیاد له ما امر الله به دهربارهی ئەم ضعیفایانه مطلقاً ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ ﴿۱۲۷﴾ اجرتان لای خوا به ضایع ناچی.

سابقا بیانی نشوزی ژنی فهرموو، لی ره به مناسبه ی استفتا له حقوقی ژنان بیانی نشوزی پیاو ئەکات ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ دیاره نشوز هه ر وهکو بو ژنان ئەبی بو پیاوانیش ئەبی پیاو نوعاما سیاده تیه کی ههیه، لکن نه به درجهی نشوز، ئایا ئەوهش داخلی استفتایه یان نا، ظاهری تقریری سید رشید داخله. لاکن نزولی ئەو آیه له حق سودهی حرمی حضرتی رسالت که ترمذی نقلی ئەکا له ابن عباس وئالی حسنه، گوایه سوده ترساوه پیغه مبه ر طلاقى بدا گوتویه تی: یا رسول الله طلاقم مه ده و رۆژی من بو عائشه

بى به نوعه ريهك كه وتوون. نايته ذهنى من ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ له به ينى خويان پيك بكهون. البته پياو اگر پياو بى، پى له نفسى خوى ئه نى نايه لى عهيب وعارى دهر بكهوى ايشى بچيته بهرده ستي حكام وحكم ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ هه ريه كه شه قاوى بو يهك بچن پيك ئه كهون، پيك كه وتن خيره چاكه، اگرچى ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ توخوا خيال ئه كرى آيتى درحق پينغه مبهر وحرمى نازل ببى بهو عبارته وورود بكا؟ نا به خوا، ئه و آيته بنا به روايه تى امام شافعى له ابن المسيب دهر باره ي كچى محمد بن مسلمه كه ژنى رافع بن خديج بووه نزولى كردووه. ئه مه باشه اكثرى منازعاتى ژن وميرد له سهر بخله، دلى پياو برواى نادا ژنى شتى ببه خشى، انه ئه و ژنه وهك خدمه هيچ حقى سياده تى له سهر مال نيه (شح) له كينايه تى نفسيه يه دائما لاي حاضره ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا﴾ له معاشره ﴿وَتَتَّقُوا﴾ له نشوز ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ۱۲۸ هه رچى بى خوا خه به رداره ئه يزاني جزاى خيرتان ئه داته وه ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ قدرهت وقوه تتان نيه له سهر عدالت له بينى ژنان، اگر چى سابقا رخصتى داوه بو تعددى ژن خو واجبى نه كردووه، تا ئه توانن خو بپاريزن، تا ممكن بى يهك، خو تان به خيالات هه ل مه خه له تينن، ناتوانن عداله تيان له به يندا بكهن ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ با زور رغبت بكهن له سهر عدالت تى كوشن ناتوانن ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ له حق ئه وهى ميلتان له گه لى نه بى زور جور مه كهن نه به دل خوشتان بوين نه ماليان لى صرف بكهن نه به خيويان بكهن نه طلاقيان بدهن ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ ته ركيان بكهن وهك حبس كراوان ﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا﴾ شونى معاشره تان باش بكهن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ له مه يلى بى ئه ندازه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿عَفُورًا﴾ عفی اللہ عما سلف ﴿رَحِيمًا﴾ ﴿۱۱۹﴾ زیادہ إحسانتان له حَقَّ نُهْكَا ﴿وَإِنْ يَنْفَرَقَا﴾ اگر له یہك جوايز ببنيه وه ﴿يُعِنَ اللَّهُ كَلًّا مِّنْ سَعَتِهِ﴾ خودای تعالی له فراوانی إحسانی خوی کلیکیان له وی تر غنی نُهْكَا، دلیان له یہك منقطع نُهْبی تأسف وپه شیمانی نابی، چونكه نُهْ ونوعه جُدا بونه وه له تأمل و تَرَوی وترسی به جی نُهْ هیئانی احکامی الهیه، نُهْ و احکامی دائر به معاشره ی عادلانه . أما نُهْ وانہ ی هجوم نُهْ كه نه سهر طلاق وانہ بی دست به جی په شیمان نُهْ بونه وه نُهْ و ملا نُهْ م ملا تذلل وپارانه وه ره شوت دان، عبارت گورپین ملای به سته زمان نازانی چی بكا، كَتیب هه ل گپرو وه رگپر نُهْ كَا، آخر الامر اعز الله الشرع الشريف چاره ماره به جاشه، هه رچی موافقی شرع بی باشه . گه لیک معنایان بؤ دوله مند کردن لی داوه ته وه، حقیقه وائہ بی ژنه كه میردی چاتری به دست نُهْ كه وی عُمری به خوشی سعاده تی له گه ل رائه بویری، أما کلی نیه اکثریش نیه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ ﴿۱۲۰﴾ علم و قدرتی گرمی فراوانه به هه موو شتهك رائه گا، أفعال و احکامی مُتَقَنَه بؤ تضیقیان له سهر ناکا، چی اصلح و بی دل تهنگی یہ نُهْ وه تان بؤ دائه نی، ئیوه کاری خوتان له سهر خوتان تهنگ مه كه ن بی تانی جاهلانه إقدام مه كه نه سهر ایشان : (زلیخا مرد از ان حسرت كه یوسف گشت زندان چرا عاقل كند کاری كه باز زو پشیمانی) .

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ له سهر نُهْ و سَعَتی مُلْك و سلطنت كبریائیة چه إعتانیه کی به ئیوه كردوه به سعتی كرم و لطفی له گه ل ئیوه چه ند به رفقه وائہ زانن نُهْ وه له بهر شرف و گه وره یی ئیوه یه خوتان لی نه گورپی ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ به عواطفی مغرور مه بن، ئیمه ابنائی خواین، احبای خواین اولیاین، به لكو مقابلی نُهْ و كرم و لطف و إحسانه واجبه شُكر بكه ن، زیاتر تی بكوشن حفظی شرعی بكه ن،

فرمایشتی به جی بینن ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ ناشکری بکه ن مقابلی ئه و نعمة مغرور
 بین له إطاعه ده رچن ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ مُلْك و عَظْمَتِي
 خوا هیچ نقصی پی ناگا، خوا هر خواجه مالکی أرض و سمایه ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
 حَمِيدًا﴾ ﴿۱۳۱﴾ ایستاش هر وایه، غنای ذاتیه، احتیاجی به که س نیه، پاک و
 منزه و مقدسه که س ناتوانی زهره ری لی بدا که س ناتوانی نفعی پی بگه نیی.
 (لو أن أولکم) الحدیث القدسی ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ مَلَك،
 إنسان، حیوان، جن، ذی روح و غیره ذی روح هه موی ئی ئه وه ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ
 وَكِيلًا﴾ ﴿۱۳۲﴾ خوی حافظه، رقیبه، آگاداره، مُسَیْطَرَه، ایشی به که س نیه،
 به که س ناکری هه رچی به خیال دابی، مُدَبَّرَه، مُدَبِّر نیه وه ک کوردی ئه لی نه
 عیسی، نه موسی، خوا خواجه تی خوی هر ئه کرد، صوفیه ی ئیمه ئه لین: (لَو
 خَلَّتْ لِقُلُوبِ) وه ی ژیر به ره و ژور ئه بوو أرض و سمایی که اداره و ایدامه ی
 په کی له سه ر غیره خوا که وتبی هر ژیر به ره و ژیر بی ویران بی.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ﴾ خوی تعالی نه به ریشی اسرائیلیان
 ئه نازی نه به چه فیه و عگالی عه ره بان اگر چه ز بکا ئیوه ئه فه وتینی به جاری
 محو ئه بنه وه له وجود یا قومی ترتان به سه ردا مُسَلِّط ئه کا ئه بنه اسیر و ژیر
 ده ست، و کو گووی دریز استخودامتان ئه که ن ﴿وَيَأْتِ بِآخِرِينَ﴾ حَتَّى
 ئه توانی کوردان زیندوو بکاته وه و بیان کا به قومی ذی شأن ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ
 قَدِيرًا﴾ ﴿۱۳۳﴾ یا الله به رحم و قودره تی خوت ره حمی به مُسَلِّمَانَان بکه ی به
 آگابینه وه له و جهاله ت و زله تیان نجات بده ی. ئه مه ش هاته جی: اسرائیلی بی
 خودان بوون مسلمانیش نزیکه ئه وه ی به سه ر ئه وان هاتوه به سه ریان بی،
 الانیش ده ست له لاف و گه زاف هه ل ناگرن ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ له

رُوسای دین و دنیا ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بۆ پوولہ خوا
 وەرئەگێرن دین مانعی تعالی نیہ، مایہی سعادتہتی دنیاو آخرتہ عبودیت بۆ
 خوا نازادیہ، جہادی فی سبیل اللہ مایہی سہر فرازیہ، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 بَصِيرًا﴾ ۱۳۴ ئەبی، ئەبینی خفایای اشیا ئەزانی، بۆ بہ خالص تقوای ناکەن،
 وسائط پەیا ئەکەن، ظاهر و باطنتان یەک نیہ، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بہ حق
 ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ بہ تەواوی بۆ نقص و خلل لہ عمومی اشیا إقامہی
 عدل بکەن، تەرازووی عدالت پابگرن، میل مەکەن بۆ کەس ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ﴾ شُھدا بن بۆ خوا، ئەوہی لاتانہ ادای بکەن، دزو تزویر لہ اہلی
 ایمان ناوہ شیتتہ وہ اگر شہدیتان لہ لایبوو ولو لہ سەر خوتان بی بزری مەکەن،
 إعتراف و إقراریش نوعہ شہدییکە ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ خوا ہرچہ نہ
 کِراراً و مِراراً أمرتان ئەکاتی بہ إحسان لہ حق داک و باب و خزمان، اُمّا ری
 شہادہ دانی بہ درۆ نادا و پری ی کتمی شہادہ ئەگری ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ ئەوی شہادی لی ئەدەن یا بۆی ئەدەن چ دەولە مەند چ فقیر
 فہرقی نیہ نہ بہ (لہ) نہ بہ (علیہ) خوای تعالی دەرحق ئەوان لہ ئیوہ بہ
 رەحمتہ نسبتی خالق و مخلوقی بہ قووت ترہ لہ نسبتی بُووت و اُبُووت و
 اُمُووت و قُرابت، ئەو مصالح چاتر ئەزانئ لہ ئیوہ، مەلئین ئەوہ دەولە مەندہ
 حورمەتی لازمہ یا قہی ناکا با ضرری لی بکەوی زۆر زہ بەندہی ہہیہ، با ئەوہ
 فقیرہ ئەہمیہتی چہی دلی خەلکی بۆ بہیشینم بۆ ئەو، یا جای تَرَحُّمہ با
 شتیکی پی ببری، بہو خەیا لاتہ نہ کەتمی شہادہ بکەن نہ شہادەتی زۆر بدەن.
 إشارہ بۆ تساوی غنی و فقیر لہ و اولویتہ (بہما) ئەفہرموی، وإلا أوفق بہ لعنت
 ئەبواہیہ بفہرموی (بہم)، وەک لہ قرانتی اُبی وارد بووہ، چونکہ فقیر لہ سەر

غنی بہ (أو) عطف کراوہ ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ بہ دواى ھواو ھوہوسی خوتان
 مہکون ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ لہ عدالتہ یا لہ عدولہ، یعنی بؤ خاطرى ئیوہ لہ ھومو
 شت بہ عدالت بن، نہیتان ئہکم لہ إتباعى ھوا، یا دواى ھوا مہکون مہبادا لہ
 حَق عدول بکن ﴿وَإِنْ تَلَوْا﴾ اگر زبان بگوین، شہادۃ بہ حَق نہدن، زبان
 پیچی بکن، یا تأخیری بکن ﴿أَوْ تَعْرِضُوا﴾ ادای شہادہت نہکن بالمرہ
 ترکی بکن ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (۱۳۵) لہ پاش ئہو زواجرو قوارعہ
 ئہلبہتہ جاری تر مُسلمانان خیانت ناکن و مُعاونتی خائنان ناکن، بہ درؤ
 شہادتیان بؤ نادہن ولو بابیان بن یا داکیان یا خزمیان دولہمہند یا فقیر
 ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إجمالاً ﴿ءَامِنُوا﴾ بہ تفصیل و تحقیق بہ دوام وثبات
 بئ نفاق و خیانت و تحویل و انقلاب ﴿بِاللَّهِ﴾ کہ واحد و بئ شریکہ مالکی أرض و
 آسمان وما فیہما یہ آگادارہ ﴿وَرَسُولِهِ﴾ کہ محمد المصطفیٰ یہ (ﷺ)
 پیغہمبہری بہ حَقہ ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ﴾ کہ قرآنہ ایمانتان ببی
 کہ وحی آلیہ لہ طرف خوداوہ بؤی ہاتوہ ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ
 قَبْلُ﴾ ئہو کتیبہی لہ پیشدان ناردراوہ، خوا بؤ پیغہمبہرانی عظامی ناردوہ،
 وہک نوح و ابراہیم و موسی و عیسی و سائری رسل، تفرقہ مہکون وہک
 اسرائیلیان ایمان مہکونہ عَصَبِيَّت و قَوْمِيَّت ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ﴾ بہ إنکار یا بہ
 شِرْك ﴿وَمَلَائِكَتِهِ﴾ بلی نین یا بنات اللہن آلیہی حرب و سلْمن ﴿وَكُنُيِهِ﴾
 گشتی یا بعضی ﴿وَرُسُلِهِ﴾ کذا ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ پوژی وا پہسین، پوژی جزا
 یومی دین، چ بلی نیہ یا بلی کہس لہ و پوژہ سلطنہت و سِطْرہی ھیہ ﴿فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۱۳۶) زور لہ حَق دوور ئہکہ ویتہوہ، عالمی امکان بئ ذاتی

واجب الوجودی فوق الطبیعہ نایتہ وجود، ہر چند بشر عاقل بیٰ له رسالہت
 استغناى نابى، کہسى صاحب کتاب و شرعى غایت مقبول و معقول بیٰ وہک
 نواتى کہ سابقاً بیان کران و ایمانیان پیٰ هیئاون، صاحبى آیات و بینات بیٰ بو
 ئه و پیغہمبہر بیٰ وئہم پیغہمبہر نہبیٰ، من لام وایہ ایمان بہ بعض و انکاری
 بعضیک له حق دوورترہ گہلیٰ له انکاری اساسی نبوت له عالمی وجود۔ دلیل
 له سہر وجوددی ملائکہتان نیہ، اما رُسلی عظام ہہموویان فہرموویانہ ہہن و
 کتابی کریم ناطقہ بہ وجودیان، ایمان بہ رُسل بہ کُتب مقتضیہ بو ایمان بہ
 مَلک، اما نابى له حدّ تجاوز بکہین، بہ وجہی معقول و مقبول کہ له
 پیغہمبہرانہوہ بہ ئیمہ گہیشتوہ بہو وجہہ ئہبیٰ ایمان بہ وجودیان بینین و
 ئہوی انکاریان بکا دلیلی نیہ، ئہوہندہ نہبی کہ بہ محسوس ایمان ناییئى
 له صدری کتاب معلوم کرا ئہمانہ له قران استفادہ ناکہن اگر پوژى جزا نہبی و
 ئہو بشرہ ہہروا بیّت و پروا نہ فریشتہی خوائ گہرہکہ، نہ نبوت، نہ مَلکی پیٰ
 ئہوی، نہ کُتب چہند پوژیہک بہ ہہر نوعی بیٰ بہ سہر ئہباو ئہروا ئہو ہہرا
 ہہرایہی چی پیٰ ئہوی، انکاری پوژى جزا تام و خووی گوناہانہ له
 حہقیقہتیکی علمیہوہ نیہ ﴿ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا** ﴾ بہ رغبتی کاذبہ بیٰ رسوخ
 ﴿ **ثُمَّ كَفَرُوا** ﴾ پاشان و ہرئہگہرین بہ اُدنئ مِیلی انقلابیان ئہبی ﴿ **ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ**
كَفَرُوا ﴾ ئہو نوعہ له ہہموو مسلکی ہہن ئہبینی یہکک تحصیل علم ئہکا
 صبر ناکا دہست ہل ئہگرئ، دوائی مہیلیکی دیتہوہ، دلّ تَشَبُّثُ بہ تحصیل
 ئہکاتہوہ، زور ناچی دہست ہل ئہگریتہوہ، عاقبت مِیلی خونددنی ہیچ
 نامینى، محروم ئہبیٰ له سعادتى دین و دنیا، ئہوانہ (بوالہوس) یان پیٰ ئہلین
 ﴿ **ثُمَّ آذَادُوا كُفْرًا** ﴾ ذاتا اساسی مہیلیان بو ایمان مُحکم نہبوو ﴿ **لَمْ يَكُنِ اللَّهُ**
لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ولو باز عودہ بکہنہوہ زیرا مُحقق ئہوہ تلاعبہ و بی شُبہہ خوا مافی

النفسی عبادی خوی چاتر ئه زانی له ملایان ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ ﴿۱۳۷﴾ هیچ پئی ی صلاحیان نیشان نادا، رأی امامی علی وایه إستتابه ی مُرْتَدّ له سی (۳) جار زیاتر نیه وبعضه مجتهد بنا به رأی امامی علی ئه فہرمون مُرْتَدّ له نوبتی چارہم ئه کوژری، طلبی توبہ ی لی ناکری، ئیوہ ئه ی مسلمانیہ وامہ بن دوامتان له سہر ایمان ببی، ئه وانہ اگر چی له ایمان ناو زگیان یه ک بووہ، به لام چونکی له رغبت و مہیلی تہ واوہوہ نیه به مُنافِقِ حِسَابِ ئه کریں ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿۱۳۸﴾ مہیلی ئه وان بو کُفَرِ اِشْتِدَادِيَانِ له کُفَرِ شَاهِدِه له سہر رغبتیان بو عذاب کہ سی مژدہ یان بداتی به عذاب کائہ مژدہ یان ئه داتی به نیلی مطلب. ئه و منافقانه ﴿الَّذِينَ يَخِذُّونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ئه وانہ نہایتیان له سہر کُفَرُو و لایه تی کُفَارَانِ بوو پویان له مؤمنان نہ کردوہ. ئه وانہ بو وا ئه کەن؟ ﴿أَيَبْنَعُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ﴾ آیا ئه و منافقانه طلبی عزت و مناعت و شدت ئه کەن لای کافرہ کان، اگر مقصديان ئه مہ بی زور غلطن.

﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ﴿۱۳۹﴾ اگر عزتيان ئه وئی پوو له خوا بکەن، ایمان پئی بینن به ایمانی دروست وراست تا خوا عزتيان بداتی کہ سی تعظیمی بوت و أصنام بکا چ عزتی هه یه؟ له جمادات رەزیل تره. کہ سیک آلیک بو گاجووت پابگری له طبقه ی زیرین چ قدرو قیمة تی هه یه ولو پادشاهی پووی زمین بی. عزت و قوت و مناعت و شدت بو کہ سیکه غیري خالقى سماوات و أرض وما فیهما به مَعْبُودِ نَهْ زَانِی، بو کہ س گردن داده ی بَنَدَه کی نه بی ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ أی أهلی ایمانی به راستی ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ له قرآنی کریم، که واجبه ایمانتان پئی ی ببی ئه وه ی بیلی به جی ی بینئ ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ ئه وه تان به سہرا نازل بووہ ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ له گەل ئه و کافرہ

مستہزنانہ ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ کہ وابی چون ئیوہ إتخانیان بکن بہ اولیاو ناصر و پشت و قوتی خوتان یعنی نہ کہن ئیوہ وہک منافقہ کان بن بیان گرن بہ دوست. سیدی آلوسی تہفہرموی: خطابہ بو منافقان بہ طریقی إلتفات تہوہم لہ قلبی خوش نہ بو، تہماشای تفسیری سید رشیدم کرد، تہوہ تہفہرموی: خطابہ بو جمیعی تہوانہی کہ إظہاری ایمانیان تہکرد، چ صادق چ منافق. أما قسہی من باشترہ چونکی تہو آیتہی سابق لہ مکہ نزولی کردوہ، دخلی بہ منافقانہوہ نیہ، منافق لہ مکہ نہ بوون (إذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ) خطابہ لہ گہل پیغہمبہر، أما مقصد ایمان دارہکانہ ﴿إِنَّمَا إِذَا مَثَلُهُمْ﴾ فہرقتان نیہ اگر، وابکن، تہویش وہکو تہوانن، ائہ معاذ اللہ گہپ بہ آیاتی خوا تہ کہن پی کافر تہ بن ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ ﴿۱۴۰﴾ خو بیارین لہ کفرو نفاق و شائبہی کفرو مسخرہ بہ آیاتی خوا ﴿الذین﴾ تہو منافقانہی ﴿يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ إنتظاری حالی ئیوہ تہ کہن لہ غالبی لہ مغلوبی ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ﴾ ظفرو غالبی بہ سہر دوشمن ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ ذاتا تہوی چاکہ بی لہ خواوہیہ و مسلمان لہ خوی تہ زانی ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ ادی ئیمہ لہ گہل نہ بوین؟ جہادمان نہ کرد؟ نصیبمان بدہنی ﴿وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ نافہرموی فتح چونکہ عاقبت بو مسلمانہ کان بوو والعبرۃ بالخواتیم ﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ﴾ تہدی ئیمہ استیلامان لہ سہر ئیوہ نہ کرد؟ چون سائق لہ لارانی ولاغی تہدا تہوہامان تسخیر نہ کردن؟ ﴿وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تہدی ئیوہمان مانت و متانت نہدا؟ بو حفظتان لہ ایمان داران اگر حہ زمان لی بوایہ بہ قطعی مغلوبمان تہکردن. مع آنہ بالعکس نہمان کردو بووینہ باعشی غلبہی ئیوہ، لازمہ

پاداشمان بدہنی ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

پاداشمان بدہنی ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

منافقانہ لای ئیوہن یا طَرَفَداری ئہوانن، ئہو رُوژہ کہ بالفعل لہ گہل کافران لہ جہنمدا گردیان ئہ کہ نہوہ ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

ہیچ ری یان نادا بو غلبہ لہ سہر اہلی ایمان تا ئہو منافقانہ طرفداریان بکہن بہو نوعہ. حقیقہً اگر خودا کشفی اُسراری ئہو منافقانہی نہ کردابوایہ زور دور بو پیغہمبہر موفق ببی ، ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

لہ خودا ئہوہ بو کہ خویمان بہ نوعیک ئہنواند ولہ حہقیقہتدا وانہبون، زیپرا مُعاداتی ئہوان لہ گہل پیغہمبہر وأصحاب ہیچ وجہی نیہ غیرى ایمان بہ خواو دَعوتی إلى الله بى شرك و شائبه.

گہل لہ صحابان خزیمانن تا ظہوری اسلامیت، لہناو ئہواندا عداوتیان نہبوو خوای تعالانیش بالمقابلہ معاملیان لہ گہل ئہکا. بہ ظاہری قبولیان ئہکا لہ احکامی دنیوی ئہیان کا بہ شریک لہ گہل مُسلمانان، لہ رُوژی جَزَا کہ اُسرار دہرئہ کہوئی نَظَر بہ مافی القلبیان إلحاقیان بہ کافران ئہکا ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

بہ گرانی بہ سستی بوی ہل ئہستن ایمانیان بہ وجوبی نیہ خاصہ بو صلوتی خوف بہ جماعت لہ خزمہت پیغہمبہر (ﷺ) ابدأ کیفیان لہ گہل نایہ ﴿رِءَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

لہ نویتدا ہہیہ ئہوہی بہ دزی بی نایلین، ئہو بعضہ کلماتی بہ جہر بی اکثری ئہیلین بو ریا، تاوابرانن نویتدی تہواو ئہکەن، ئایا ئہوہ عینی خدعہ لہ گہل خوا نیہ؟ تاویلاتی چی پی ئہوی نازانن خوا سہرو علنیان ئہزانئ ﴿مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

مضطربین دین وئہچن لہ بینى مسلمان وکافران ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

لہ گہل ہیچ لایان راست نین ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

ئہوہی خوا گومراہی بکا بہ کہس ہدایہت نادرئ، نہ تو نہ غیرى تو ری بو

نادوڑزیتہ وہ، زیڑا اگر مثقالہ دَرِّیْکِ اِیْمَانِ لہ دلیان جی ی بووبوایہ وہ مہردی و آدمیت عہ لاقہ ییکی لہ گہل ئەوان بمابوایہ خوا پڑی پاستی نیشان ئەدان و گوپراہ نہ ئەبوون ولو بعد حین ئەی ہینانہ پڑی ہدایت. بعد رسوخ الاحوال خوی تعالی بو ہر کہ سہ بہ گویرہی مہ لہ کہی خوی پڑی بو ئەکاتہ وہ ئەوانی سیاسیونن حیالن پڑی وا ئەدوڑنہ وہ بو فریفتہ دانی عباد کہ عقلاً تئیدا حیرانہ، و ہکذا تہ ماشای پڑوشتی عالم بکہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بہ پاستی و دوستی بی خدعہ و نفاق ﴿لَا تَنۡخِذُوا الْكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنْ دُوۡنِ الْمُؤۡمِنِيۡنَ﴾ و ہک منافقان لہ پاش چہندی لہ زمانی رسالت مُسَلَّمَانَانِ خُو بہ خُو بوونہ دوشمن و مُحَارِبِ ہرہ کہ دوستی لہ گہل فرقہ دولہتی لہ کافران بہ ست، عاقبت مالیان و پیران بو تاج و تختیان نگونسار کرا، ہر لہ وقایعی اُن دلس تا حربی عمومی تہ ماشای تآریخ بکہن، کہ وابی آیہی (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا) کہ تازہ پابوورد اِعتراضی نایتہ سہر زیڑا ئەو آیتہ مشروطہ بہ اِتْحَادِ لہ گہل یہک اولیا نہ گرتن لہ دوشمنان، سبحان اللہ اِتْحَادِی بہ اولیا لہ مشایخ و کافران چوون بووہ باعشی نشوستی اِسْلَامِ و نزیکی لہ اِنْقِرَاضِ ﴿اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ عَلَیۡكُمْ سُلۡطٰنًا مُّبِيۡنًا﴾ خوی تعالی بی حُجَّتِ و بُرْهَانِ ہیچ ناکا، یعنی بہ صفتی قہاری یا خود بہ لآبالی معاملہ دَر حَقِّ عِبَادِی خوی ناکا تا حُجَّتِ قاطع بہ دہستہ وہ نہ بی کہ س مغلوب ناکا کہ س عذاب نادا، پیغہ مہبران نانیری تکلیفات ناکا. اگر مسلمان پیک و پیک بان، تہ ماشای احوالاتی زہمانیان بکردابوایہ بہ ناوی سُنَّتِ دہست پی ی عبادیان نہ بہ ستایہ، بہ تہ مای نیسکی لہ اِیْمَانِ نہ گرابان خوا مغلوبی نہ ئەکردن، معاذ اللہ بی کردبوایہ! بی حُجَّتِ ئەبوو. لہ صَلَاةِ الْخَوْفِ نہ یفہ رموو نویتز بکہن من ناگاداریتان ئە کہ م، کرارا فہرموی لہ اَسْلَحِی خُوْتَانِ غَافِلٍ مہ بن. ئیمہ بہ تہ مای طویپی (کہ لہ) و (گہنج عثمان) و فِلَانِ و فِلَانِ لہ خُوْمَانِ گہ پراین و مغلوب

ببین (ولله الحجة البالغة) ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ درك به عكسى درجہ به لای خوواره وه ئه چى، مُنافق چونكى نامردن له ژیر هه موو كافران ئه بن له آگردا. كافر نَظَر به مُنافق مرده دوشمنایتى به ئاشكرا ئه كا مُنافق مُخَنَّتَه بى غيرت وناموسه، دینى اسلام دینى غیورانه، یه كيك مالیک غصب بكا دهستی نابری، به لام دهستی دز ئه برى، چونكه دزی لآمته ﴿وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾^(۱۴۵) نه خویان لایه، نه مسلمان، نه كافر، شیطانیش كه یفى پى یان نایى، زبیرا له گف و گوى كه له خدمت خوا ئه یكا دیاره مرده مه یلى مُخَنَّتَى نیه ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ وكى مسلمانه كانی راستى ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ چونكه مُتَصَف بون به صفتى ئه وان ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(۱۴۶) له دنیا و آخرت نائلى ظفر ئه بن فوز نائل ئه بن به رضوانى خوا ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ﴾ خوا چ ایشى به عذابى ئیوه هه یه كه یفى پى نایى شفای خوى بى نادا إنتقام ناستینى بو خوى ﴿إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾ اگر شکرانه ی نعمتى خوا بكن وایمان به راستى بهینن ولو زور سیئاتتان هه بى خوا عفتوتان ئه كا ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾^(۱۴۷) بزانن خیریک ئه كهن خوا چه ند إحترامتان ئه كا، وائهبى یه ك و حهوت سه د پاداشتان ئه داتى. جنابى حق به لطف و إحسانى خوى إتمامى نِعْمَتان بو بكا^۱.

¹ - تفسیری جوزئی خامس ته و او بوو، و قتی مغرب، رۆژی دوشه موو، بیستی ذی القعدة، دوازده ی شباطی

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ خودای تعالی دَمی نَجْوای کرد و طَعنی زُوری له مُنافقان دا له بری ئه وه دیتہ خیال که اخفای خراپه چاک نیه، مُخالفه ی مُنافقان ایجاب ئه کا مسلمان چ قسه ی خراپ چ عملی خراپ به آشکرا بیلی و به آشکرا بیکا، بو دفعی ئه و خیال و تَوَهْمَه ئه فہرموی خودای تعالی آشکرا کردنی قسه ی خراپی پی خوش نیه، نای حُوبینی، عملی خراپه هر هیچ ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ إلا ئه و که سه ی ظلمی لی کرابی، بوی هه یه به قدر حال و ظرف قسه ی بد له حق ظالم بکا، تا ببیتہ باعنی رَفعی ظلم. حُسن و مُعاشره وا ایجاب ئه کا اگر شتی ناشرین به حتی لی بکری، به عبارتی نازکانه تعبیری لی بدریتہ وه، وقرانی کریم له و نَزاکت و نِزَاهتہ یه کانه یه حتی له بهر تعبیراتی نازکانه اُتمه ی کرام مُخالفه ی له به ینا ئه بی ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ ﴿۱۴۸﴾ ادب له خوا لازمه، انسانی کامل الایمان ئه بی اولا حیا له خوا بکا که آگاداره، ئه وی بیکه ی ئه یزانی ئه وی بیلی ئه بیستی ﴿إِنْ بُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ له خوا بزر نابی، و تہ ماشای نیت ئه کا، ئه وی لای خوا معتبر بی خلوصه ﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ حقی مسلمانئہ وه یه به مُسامحه بی، خاصه له حق مسلمان چاو له سیئات بیوشی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ ﴿۱۴۹﴾ عَفوی عند المقدره لای خوا زور خوشه، چونکه خوی زور به قدرهت و دهسه لاته زوریش له سیئاتی عباد خوش ئه بی، بلندی عابد تشبہه به معبود، بوی گاو صورت په رست له ترقیاتی بشری محرومن، گه لی له حیوانات دورن ترن، فائده ی ایمان به خوا اِقتدا به خودایه، ئه وانہ ی اِدعای ایمان ئه کهن وا شَرِیک له افعال و صفاتی خوی له ئه واندانیه دعویان باطله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ به جُحد یا به شَرِک ﴿وَرُسُلِهِ﴾ ویریدون أَن يَفْرُقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ایمانیان به خوا هه بی به رسالهت نه بی وهک (ناپلیون)، یا ایمانیان به خواو به رسلی هه بی انکاری اصلی

رسالہت نہ کہن، بہ لَامِ اِنْكَارِی بَعْضُهُ رُسُلُ بَكَهَن وَهَكَ جَوُوْدِیَانِ ﴿وَيَقُولُونَ
 نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ ﴿خَوَا دُونَ الرَّسُلِ، یَا بَعْضُهُ رُسُلُ دُونَ بَعْضٍ
 وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ﴿۱۵۰﴾ گواہیہ بہ عَقْلِی خَوَّیَانِ رِئِیٰ دَا
 ئَہْنِیْنِ بُوْ اِنْتِظَامِی بَشَرِ، تَحْرِیْرِی قَوَانِیْنِ وَقَوَاعِدِ ئَہْ كَہْنِ ﴿اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
 حَقًّا﴾ ﴿بَا اِیْمَانِیْشِیَانِ بَہ خَوَا هَہْ بِیْ﴾ ﴿وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا﴾ ﴿۱۵۱﴾
 حُكْمَایِ اِلْهَیْوُنِ اِنْكَارِی رَسَالَتِ نَاكَهْنِ، غَايَتِی لَہ تَصْوِیْرِی وَحِی اِنْزَالِی كُتُبِ
 مُخَالَفَہِیَانِ هَہِیہ لَہ گَہْلَ نِیْمَہِ . وَعَذَابِی مَہِیْنِ زِیَا تَرِ لَا یَقِی كَہ سِیہ كَہ خَوِی لَہ فَوْقِ
 عَامَّہِی بَشَرِ بَزَانِی بِلِیْ نُبُوَّہْتِ بُوْ عَوَامِی بَشَرِ لَا زَمَہِ، اَمَّا بُوْ خَوَاصِی وَهَكَ مِنْ
 پِیْیِ نَاوِیْ عَقْلِ وَ عِلْمِی خَوْمِ كَافِیہِ، ئَہْمَہ تَكْبَرِی گَہ وَرَہِیہِ، لَا یَقِی وَایَہ رَہْزِیْلِ
 بَكْرِی، قَدْرُو قِیْمَتِی نَہ هِیْشْتَرِی ﴿وَالَّذِیْنَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِہِٖ وَ لَمْ یَفْرِقُوْا بَیْنَ اَحَدٍ
 مِّنْہُمْ﴾ ﴿وَهَكَ ئَہْوُ مُؤْمِنَانِہِی لَہ اٰخَرِی سُوْرَہِی (بَقْرَہ) (فَہ رَمُوْیَانِہِ لَا نَفَرَقُ بَیْنِ
 اَحَدٍ مِنْ رَسَلِہِ ... اِلْخ)﴾ ﴿اُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِیْہِمُ اُجْرَہُمْ﴾ ﴿ذَاتَا ئَہْوَانِہِ اُجْرِی
 دُنْیَا یَانِ نَاوِیْ، وَاِلَّا ئَہْوَانِیْشِ ئَہْ یَانِ تَوَانِی رِئِیٰ بُوْ خَوَّیَانِ اِتْخَاذِ بَكَهْنِ بَیْنِ بَہ
 رِئِیْسِ گَرُوْہِی نَاثَلِی عَزُوْ جَاہِ وَثَرُوْتِی دُنْیَا بَیْنِ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا﴾ ﴿۱۵۲﴾
 ئَہْوَانِیْشِ سَیِّئَاتِی خَہ لَکِی ئَہْ پُوْشَنِ تَجَاوِزِیَانِ لِیْ ئَہْ كَہْنِ وَرَحْمِیَانِ دَرِ حَقِّ
 ضَعْفَا یَانِ زُوْرَہِ، حَتّٰی كَہ دَہْعُوْتِی خَہ لَکِی ئَہْ Kَہْنِ بُوْ اِیْمَانِ، لَہ جَہَہْتِ رَہْ حَمَہْتِ
 نَا تَوَانِنِ بَشَرِ لَہ ذُلّٰی كُفْرُو شِرْكَدَا بَیْنِنِ، بَشَرِیْتِیَانِ لَا عَزِیْزَہِ، حَہْزِ بَہ عَزَّتِی
 بَشَرِی ئَہْ Kَہْنِ ﴿یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنْزِلَ عَلَیْہِمُ كِتٰبًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ﴾ ﴿گواہیہ
 بَہ ہَانِہِ یَانِ ئَہْوَہِیہ كَہ اِیْمَانِ بَہ پِیْغَہ مَبَہْرِ نَاہِیْنِنِ ئَہْ یَانِہْوِیْ پِیْغَہ مَبَہْرِ كَتِیْبِ
 بَنِیْرِیْتِہِ سَہْرِ ئَہْوَانِ بَہ خَطِی اَسْمَانِی (اَیَا ئَہْ بِی بَزَانِنِ خَطِی اَسْمَانِی چَوْنِہِ) ئَہْوُ
 كَتِیْبِہ صِرَاحَۃٔ بِلِیْ تُوْ پِیْغَہ مَبَہْرِی، یَا بَہ نَاوِی جَہ مَاعَہْتِی اَہْلِی كِتَابِ، یَا بَہ
 نَاوِی چَہ نَدِ اَشْخَاصِیہ كَ لَہ اَحْبَارِیَانِ صِرَاحَۃٔ اَمْرِیَانِ پِیْ بَكَا ئِیْوَہِ اِیْمَانِ بَہ

محمد بہینن یا خود جملہ کتابت بوی، وہ ک توراہ کہ جملہ واحدہ بؤ موسی ہاتوہ، وکذا انجیل بؤ عیسی، توراہ کہ جملہ واحدہ نزولی کردوہ قسہ ییہ کی مشہورہ لہ ناو موسلمانان، لکن غلطہ ظاہر وایہ ئەمہ لہ مغالطہی اُحباری یہود کہ وتبیتہ اُذہانان بی مُحاکمہ و اُگاداری، ذاتی وہ ک موسی چہند سال خہریک قومی خوی بوو تا لہ چہنگ فرعون قورتاری کردن، لہ بحر نجاتی دان، ئەو ہہموو اُطواری مختلفہ بہ سہر قومیا ہات ہہر طورہ ہہر حالہ نوعہ حُکمیکی ایجاد ئە کرد، ئەوہ چؤن تصور ئە کری قبل الوقایع اُحکامی ئەو مسائلہ سیاسی و اُجتماعی و حریبی و سلمی نزول بکا، ئەمہ محالہ، وکذا حضرتی رسالت بیست و دوو سال تی کؤشی ہجرتی کرد بؤ مدینہ، لہ ویش توشی گہرداوی مُنافقان بو وردہ وردہ قوتی ساند تا امری کراییی بہ حرب، الحرب سجال بعضاً ئە شکا، مُنافق و ضِعاف اُلیمان اُفکاریان ئە گؤرا تا نہایت خوا موفقی کرد. بہ گویرہی ئەو ہہموو وقایعی متباینہ آیات ئەہاتہ خواری، چؤن خیال ئە کری بو ئەو نوعہ شخصہ کتابی سَمَوی جملہ واحدہ نزول بکا، حتّی بہو عبارتہ نزولی قرآن یا توراہ بو لوح المحفوظ یا بیت المعمور اُسمانی اول غیرہ قابلہ. بہ لی کتیبی تاریخ و حکایت و نصایح قابلہ جملہ واحدہ بیت. ذاناً قسمی اعظم لہو توراتی حاضرہ لہو مقولہ ییہ و مُلحقاتی پاش موساشی زؤر تیایہ، ئەوانہش ہیچی بہ اُحکامی سَمَوی و وحی اُلیہی ناچن. ئەو اُقتراحہ لہ گہل جوابی ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ زؤر مُوافقہ لہ بہر مُناسبہی اُستحالہ ﴿فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً﴾ وَاِلَّا اُیمانت پی ناهینین. قومی لہ گہل زعیم و منقذی خویان و ابن لہ گہل نیوہ چؤن ئە بن. ئەو نوعہ اُقتراحہ وہ ک بیان کرا نشأتی لہ کثرتی معجزات و کرامات تَعَنّت و حَمَاقَت و بی فکری غلبہ ئەکات تفریقی محال و ممکن نامینی. دیتنی خوا بہو نوعہ کہ یہ کتری ئەبینین محالہ اُشاعرہش لہ گہل معتزلہ لہو صورہتہ مُتفقن غایتی اُشاعرہ نوعہ اُدراکی تر پەیا ئەکەن تعبیری بہ رُویت ئەدەنہوہ ئەمەش لہ دنیا نابی. تی گہ یاندنی

اسرائیلی بہ دلائل نزکی استحالہ یہ، بویہ لہ جوابی ئہم إقتراحہ یان ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةَ يُظْلَمُونَ﴾ بہ جس پہرستان بلیٰی خوا نابیندری بہ جاریٰ انکاری وجودی ئہ کەن ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ چہند لہ یہ ک دورن تجاوزی حد بہ و دہرہ جہ؟ لہ لایہ ک طلبی رؤیتی خوا بکەن وە ک سرآمدانی صوفیہ ی ئیمہ ولہ لایہ ک عبادتی گولگ بکەن ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ بیاتی ئہ و تو مندالیش ئہ یزانی إحتیاجی بہ تأمل و تفکر نیہ. انفلاقی بحر کی بوی کردن؟

گاجوتی آسمان یا گاجوتی زہ مینی: خیام ئہ لی: گاویست بہ اسمان نامش پروین وان گاور بگر نہفتہ در زیر زہ مین چشم خروت گشای چون اصل یقین زیرو زبرد و گاومشتی خربین

﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ لہ پاش توبہ بہ و نہوعی کہ لہ سورہی (بقرة) تی پہری ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا﴾ ﴿۱۵۳﴾ حُجَّت و بُرہانی موسی لہ سہر جہالت و حماقتی قومی خوی زور چاک آشکرا بو، خوشیان مُنفل بوون لہ بہر ئہ وہ إنقیادیان کرد بوخو کوشتن ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقٰلِ هَمٍّ﴾ بہ و طوره قبولی تہ و پاتیان کرد، ئیستاش بہ ددانان ئہ یگرن پاش ئہ و ہموو تحریف و إحاق و خرافاتہ ی کہ تیایہ تی ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ مطیعی امری قوماندان بن ئہ ویشیان تبدیل کرد وە کو پابرد ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا﴾ بہ اعمالی دنیوی اشتغال مہ کەن ﴿فِي السَّبْتِ﴾ لہ رۆژی شہمو، لہ ویشیان تجاوز کرد ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقًا عَلِيًّا﴾ ﴿۱۵۴﴾ عہد و میثاقی توند، مع الأسف ہیچیان بہ جی نہ ہینا لہ وەقتی کہ کہ لکیان بگری ﴿فِيمَا نَقَضْتُمْ مِثْقٰلَهُمْ﴾ سبب بہ برینی پیمان ﴿وَكُفِّرْهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ﴾ ای موسی و سائری رسل ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ﴾

سبحان الله! جنابی حق حقی چہند لا خوشہ، حتی بو پیغہ مبه رانیش اگر تصور بکری ری کوشتنیان به حق ئەدا ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ ئەوی پیمان کردن به سبب ئەوانه پیمان کردن، نہایت رشمالی ذلت و مسکنتان له سہر هەلدرا استقلالیتیان نہما، ئەی موسلمانینہ ئیوہش رمقیکتان ماوہ، اگر به حق به خو نہ بینہ وہ ئیوہش به جولہ کان إلحاق ئەکەن ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ نفوذی ایمانی تیا نابی (ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة) ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿۱۰۵﴾ ایمانی بی ثمر کہ مہ کہ لکی ناگری یا کہ میان ایمان ئە هینن ئەوانہی دلیان زور رەق نہ بوہ علی تفاوت مراتبهم قابل ئەوی دە عوتی گەیشتی ایمانی هینا ﴿وَبِكُفْرِهِمْ﴾ به عیسی و گە لی له رسلی خویمان (فريقا کذبتم وفريقا تقتلون) رابورد له سورہی (بقرة) ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ ﴿۱۵۶﴾ لاشک پاش تقرری قاعدہی لقاح بوو تناسلی بشری آفرہتی بی میرد مندالی بیی إتهام ئەکری، لو ظاهراً صالحه و عفيفه وله بهینی قومی باش بی، شاهی قاطع له سہر برائتی مریم نطقی عیسیایه له باوہشی دایکی، وهك له سورہی مریم تفصیلی دی، کہ سی ئەم وحی یه الهیه بو حضرتی محمد إنکار بکا تبریهی مریمی پی ناگری إلا به ادعا نہ بی، له پاش شہادتی عیسی حقیقہ تبئی ئەکا کہ إتهامی مریم به زینا بوہتانی گہ ورہیہ موجبی سخطی إلهیه وبرائتی حضرتی مریم بو وبرائتی مقامی نبوتہ، به لکو بو مقامی ألوهيته له إختيار کردنی ولد الزنا بوو نبوت ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ئەوان إعتقادی رسالہ تیان پی نہ بوہ، تنصیص له سہر رسالتی له طرف خودایه، إشاره بو برائتی و تکذیبی دیانان، کہ ادعای ألوهیہتی کردووه، معاذ الله، ادعای ألوهیہتی کردبایه هہ زار رە حمت و رضوان خوا له سہر ئەو کہ سانه ئەبو کہ إعدام و صلبیان کردبایه. پیغہ مبه ر ئەکوژین

ئەمرن، ئُبُوتَ إِنْسَانٍ نَجَاتٍ نَادَا لَهُ وَأَمْرَهُ عَادِيهِ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾
 إستعظامی قتل و صلبی عیسی له بهر زاتی خوئی نیه، (وما محمد إلا رسول قد
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسَالُ أَفِئَاتٍ مَاتَ أَوْ قَتَلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَيَّ أَعْقَابِكُمْ) که له سورہی
 (بقره) پابورد، با پیغهمبه ریش بی ویش کوژری، به لکو له بهر إستعظامی
 سببیہ تی که بنی اسرائیلی ادعا ئەکن ئەو شخصه، چونکه ولد الزنا بو به
 حُکمی تهورات ئیمه کوشتمان و له دارمان دا که سی تصدیقی رساله تی بکا
 ئەبی والدہی محترمه ی له و لوئە تہ بریہ بکا.

لطیفه:

۱- صاحبی نظره ئە فہرموی ئەو نسیبہ تہ یان ئەدا بو قانیدی پۆمانی گومان
 ئە بردری دیانی اورپایی به دل ئەو قسہ یه پروا بکن و پی یان خووش بی که
 عیسی له ئەوانه بوبی وابلندی ئەکن و ئەی گه یینه مقامی ألوهیت ونزیکه
 له بهر ئەو گومانه بی که مقری وکیلی عیسی یعنی باب (پاپ حضرتی) له
 پۆمایه، و إلا له أهلی غرب دوره شخصی شرقی له قومی جوله که به و نوعه
 ایمانی پی بهینن و گه وره ی بکن.

۲- سلیمان نظیف حکایتی بو کردم فہرموی: له گه ل جمعی له ادبا
 دانیشتبوین له هه ر طرف قسه مان ئە کرد بحتی حضرتی عیسی که و ته مه یدان،
 ادیبی یهودی له میانه دابو پوی کرده بعضه ادبای فرنسه ووتی: سببی عداوتی
 ئیوه له گه ل ئیمه چی یه؟ ووتی ئیوه عیساتان کوشت و صلبتان کرد، ووتی
 ئیوه حقتان چیه عیسی خزمی خو مانه، خو مان کوشتمان ئیوه خوین گرو
 خوین ئەستینی عیسی نین و او وه قته که عیسی مان کوشت ئیوه وه ک
 حیواناتی وحشیه له چیاو چولی اورپا به سهرتان ئە برد ئیستا چ مداخلتان
 هه یه.

۳- یه کیک له ادیبان ئەلی جوو له نظری اورپاییان من حیث المعنی له
 هه موو عالم مقدس تره، غریبی له سهر ئەو هه موو سلطنت و علم و عرفان و عزو

کبریائیہ کچہ جولہ بیک و کورہ جو بیک ئہ پهرستن شایانہ یہودی إفتخار به سہر
ہہ موو عالیہ مدا بکہن.

حقیقۃً ولادتِ عیسیٰ اذہانی عامہ ی مُشوش کرد، ہہر کہ سہ قسیہک ئہ کا.
اگرچی آیتی لہ آیاتی خودا بوو، بہ لام کردیان بہ مَصِیْبَتِی خودا بو مُوَحَّد
وخودا پهرستان. سَوادی اعظم لہ موَحَّد لہ مؤمن بہ رسالت بون بہ اہلی
شِرک، خَوَزیئا ئہ ویش وہک سائری عبادی خوا بہ طَرِیْقِی مُعتاد ہاتباہہ دُنیا، بہ
ملیون توشی ئہ و ہہرا ہہرایہ نائہ بون. ئہ و جا بزائن شت لہ مَجْرای طَبِیْعِی بی
چہند باشہ، خَوَارِقِی فوق الطبیعہ چہند خطرہ ﴿وَلٰكِنْ شِئًا لَّهُمْ﴾ اساسی
إدعیان شُبہہ بو شرعی موساش نہ گہ یشتبووہ درجہ ی تُبوت، پاش نُطقی
عیسی حَقِّی شُبہہ یان نہ ماو، ئہ و شخصہ ی کوشتیان لی یان گُورا عیسی نہ بو،
بہ عیسا ی تی گہ یشتن، إعتقادی ئیمہ لہ حَقِّ حَضْرَتِی عیسی مع الاسف نہ
لای یہودیان نہ لای سہوادی اعظم لہ دیانان نہ بوہ مظہری تقدیرو محظوظی،
لہ گہ لَ جولہ کان اساساً موافقہ مان نیہ. ئیمہ بہ واسطہ ی تصدیقی رسولی
اعظم عن صمیم القلب شہادۃ ئہ دہین لہ سہر بَرائتی مَریم لامان صدیقہ یہ،
بہ لکو لہ سہر نسائی عالم تفضیلی ئہ دہین، وہ بعضی لہ ئیمہ اعتراف بہ
نُبوتی ئہ کہن. لہ گہ لَ دیانان اگہرچی لہ و اساسہ موافقین لکن لہ مَسْئَلِی قتل
و صلب موافقمان نیہ، ئیمہ ئہ لَین نہ بوہ، معاذ اللہ اگہر بوبی، تُہمتی جولہ کان
ئہ بی راست بوبی، ئہ وان ئہ لَین بووہ، أما فائدہ بیہ کی زور گہ ورہ ی تیا بووہ،
ئہ مہش عبارہ تہ لہ (فدیۃ)، ئہ لَین آدم و مَن دُونُہ سبب بہ گوناہی آدم لہ عذابدا
بوون بعد دُهور و اَعْصَارِ جنابی حَقِّ تَفْکَرِی کرد ئہ مانہ چہ تر لہ عذابدا بن
مُنافی رَحْمَتِہ، ہہ روا بی بہ ہانہ عَفْوِ بکرین خِلافِی عَدالَتِہ (بعد اللتیا واللٹی)
وای بُوہاتہ بہر نَظَرِ فِدِیْکِی نَجَاتِ پہ یا بکا، بہ و ہہ موو عَظَمَتِ و جِا ہ و جلال
و کبریائیہ ہاتہ ناوزگی مَریم.

طبیعی بہ طَرِیْقِی رَحْمَدَا چووہ، لہ وی تجسّدی کرد بہ بدنی عیسی، بہ و لَد

بوو، گہ ورہ بوو، دواپی خوی کرده فدیہی نجاتی آدم ومن دونه که نوح و ابراهیم و موسی و سائری رُسلی عظام و کرام. هر که سی نه و اعتقادهی هبی پوژی جزا نجاتی نه بی، و الا فلا. بعضی اهلی تحقیقیان و وتویانہ نه و تطوراته شتی ممکنه، و خودا له سهر هه موو شت اقتداری هه یه، به سفتی قدره نه و حاله بو خوا اثبات نه کهن، نه وانہ له مسئلهی عدل به معتزلی نه چن، وله مسئلهی سعتی قدرت وینه بیکی اشاعرانیان هه یه، اگر ئیمه بلین له و وقته که هاتن عیسی ببهن بو صلب که سیه کی هینایه سهر صورتی عیسی، و عیسی ی له نه وان بزر کرد، نه لین نه مه نابی محاله. نایه له پاش نه م تطوراتی الهی محال نه مینتی؟ آیا نه مه ش شتیک نیه بو داخلی قدرتی خوانابی؟ آیا انکاری مسخی جوله که نه کهن به میمون و بران؟ مع انه نه وهی بردیان بو اعدام یهودای اسخربوطی بوو زور به عیسی نه چوو، بی چاره هاواری کرد من مسیح نیم، گوی یان نه دایی، له انجیلی (برنابا) و کو قران نه فرموی، عینا وائالی، اما مسیحی نه لین نه وه موضوعه هل به ستراوه، حتی نه لین نه وه له طرف مسلمانان تألیف کراوه، مع انه بعضه نسخهی قدیمی دیتراوه ته وه که قابل نیه له طرف مسلمانان وه بی، (طنطاوی) چند فصلیه کی له و انجیله نقل کردوه، نه وه که له قیس بچی، چونکه انگلیزو سائری مه سیحیه کان زور اهتمام نه کهن به امحای نه و انجیله، له هرجی یه نسخهی بدوزنه وه نه یبهن نه یسووتینن ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَقِيَ شَكٌّ مِنْهُ﴾ له شانی ((عیسی)) حتی پاش صلبی نه و شخصه که صلبیان کرد، ووتیان نه مه ((عیسی))، ادی این صاحبنا، یعنی اسخربوطی، نه وچی لی هات له کووی یه ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ﴾ له اناجیلی معتمده دا هه یه که (عیسی) به تلامیذی خوی گوتوه هه موتان نه مشه و شک له من نه کهن، که نه وان شکیان هه بی خه لکی تر چی، ذاتا نه وان له و هنگامه حاضر نه بون هه لاتن ﴿وَمَا قُلُوهُ يَقِينًا﴾ (۱۵۷) مُحَقَّق بزنان حَضْرَه تی (عیسی) نه کوژرا نه صلب کرا ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ خوا نه زانی چی به سهر

ہات، ذاتاً حَضْرہ تی (عیسی) ولادتی حَیاتی، مَماتی ہہموی غامضہ، حَتّی بعضہ اوروپایی ئەلّین (عیسی) مُحَقّق نیہ لہ مُخیلاتہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ۱۵۸ ﴿﴾ غالبہ، مغلوب نابی، حکیمہ شت لہ موقعی خوی دائئہنی. انسان تَعَجُّب ئەکا لہ (ملیون) خصوصاً (فریقین) لہ اہلی کتاب خویان لا زور سوکہ، ہہیبہت و خَشِیْتی اِلهی لہ دلّیاندانہ مایہ، عادہتا خوا شتہ کہ لہ ژیر تصرف خیال وئہوہامی ئەوان، وقتی جلال کبریائی تَحْمُلی نہبو کہ طلبی دیتنی بکری ئەوانہی طلبیان کرد بروسکہ و صاعقہی لی دان (وخر موسی صعقا) دوابی بؤوہ دەمداری لہ شکریان دائماً ئەہاتہ (خیمۃ الرب) مُحاکمہی ئەکردن، تا نہایت ذلّت و حَقارتیان گہ یاندہ ئەو درجہ یہ کہ خوا بیئہ ناو پرہمی مریم بہ خوین و خوزاوک نما بکا و گہورہ ببی وەک سائری حیواناتی بی قدر، ئەو ہہموو مَنقَصہی بیئہ سہر صلّیش بکری. ئەہی وای. خوزیا ہہموو بنی اسرائیلی لہ ئاودا خنکابان، اَمّا ئەو سَفاهتہ و حَمَاقَت و جَہالتہ اِختلاق نہ کرابایہ، آدم و عالم اَبَد الّآباد بسوتین نہک ئەو تَخِیلاتہ فاسدہ لہ حَق خوا اِختراع بکری، معاذ اللہ، ئەگہر کہ سیک بلی مریم زناہ کردووہ چ پوو ئەدا بؤ امری وا، تَصوُری ئەو خرافاتہ چۆن ئەبی، حاصلی ئەو جہلہ عظیمہ لہ ہیچ ملتیک دا نہ بؤہ، وە ہەر چہند ئەکەم نازانم ئەو خرافاتہ چۆن بہ میشکانہوہ چہ سپاوہ، والآنیش خہریکن بؤ اُغواہی عالم. ئەگہر بہ ہہشت بہو نوعہ اِعتقادہ دەست کہوی ہزار لہ عنہت لہ بہ ہہشت ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اُی عصری خوی، لہ جولہ تلامذہ، ئەوانہی عیسایان ناسیوہ ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ بہ (عیسی) ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ ۱۵۹ ﴿﴾ پیش مردن و بزربونی (عیسی) ہہمویان ئەیانزانی انسانہ ابن مریمہ، نہ خواہی نہ کورپی خواہی، ئەو کُفرو جَہالتہ پاش ئەو بہ زمانیک پہیا بؤو، اُناجیلی بی سند و سَبَب تالیف کران، پاش فہوتانی ئەو، ئەوی تہ ماشایان بکا ئەوانہ وحی اِلهی نین، حکایتن گردیان کردوہ تہوہ، ہہرکەسہ بہ نوعی، ئەوی

دی بچینی کہ صحیح بیٰ انجیلی برنابایہ، ئەویشیان لا بیٰ اصلہ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (۱۵۹) وەك له آخری سورہی (مائدہ) دی وئەو وەقتە جزای ئەو أسبابی مسرودە، ئەو حقیقە بەو نوعە معنای لەو آیتە دایتەو، مفسرین دوو معنایان فەرموو: یەکیان لام وایە مخالفی واقعە، ئەوی تریشم بە دلەوہ نانوسی، والآن لە حیات و مماتی (عیسی) قسە ناکەم، (إنشالله)، پۆژی دی ئەو طلسمەش بشکی ئیمانم هەیه (عیسی) رسولی خوایه، عبدی خالصه خاتم الأنبياء تصدیقی رسالتی کردوو، ئیمەش بەسەر چا و قبۆلی ئەکەین والسلام.

﴿فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ إحتمالی هەیه ئەمەش نوعە شبههییەك بیٰ بۆ ئیمان نەهینانی یهود بە (عیسی) و محمد (ﷺ) که گەلی شت لە توراە حرام کراو، ئەمانە إباحتی ئەکەن و حکمی توراە لا یتغیرە، (خاصةً) که (عیسی) ئەویوت من بۆ تغیری توراە نەهاتووم، جنابی حق دفتی ئەم شُبُهە ئەفەرمووی سبب بە ظلم و تجاوزاتی ئەوان ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ طبعاً و شرعاً حلال بو بۆ ئەوان، إباحتی ئەو طیباتە موافقی طبع و شرعی سابقە، ئەمانە تەرکی ظلم، بکەن جنابی حق دفتی ئەو قیودانە لائەبا، شراییعی إلهیه بۆ تربیە و تزکیە نفسە، بۆ تعذیب و پڕی تەنگ کردن نیە، شرع تا مُحَرَّماتی زۆر تر بی قوم زۆرتر بە هلاک ئەچن، تووشی گوناھان ئەبن، أهلی تقویان کہم ئەبی، شریعتی إسلامیش (حقاً) زۆر گران کراو، (خاصةً) لای أصحابی ورع.

بنا لە تقریری (سید رشید) ئەو آیتە بۆ تثبیتی جزای أسبابی سابقەیه، یعنی کہ مستحق بوون بۆ ئەو نوعە تضییقە بە واسطەئە کفرو بھتان و دعوائە قتلی مسیح و سائری أسبابی سالفە، چۆن مستحق نابن بۆ گەورەترین خزی و نکال لە دنیا و قیامت ﴿وَبَصَدَّ هَمَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (۱۶۰) زۆر جار منع ئەبوون لە و پرییەئە کہ خوا بۆی دائەنان و ئەبو بە پری نجاتیان، پویان تی ئەکەرد. یاخود منعی خەلکیان ئەکرد لە سلوکی سبیلی خوا بە سیاتی اعمالی

کم و کیف نایتہ تقریر و حساب و (المقیمین) مبتدایہ (أولئك) خَبَرِیہ تی. عُلْمای تفسیر و إعراب إضطرابیان ہہیہ، (بَصْرَى) و (كُوفَى) مُحَارِبِن. مَالَى بَابم کوردی (مقیمون) و (مقیمین) ی نیہ، (حقیقۃً) زبان تا بسیط تر بی بؤ إفادہ ی علم باشترہ.

أَكْثَرَى تَفَنُّنٌ و إختلافاتی أسالیبی زبانی عربی بؤوہ تہ باعثنی مُخالفہ و مُخاصمہ، لہ گہ لآ جئِ قرآن ئہینوینی کہ ئہم قیوداتہ شتیہ کی باشہ مقصود و تفہیم و فہمہ ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ ھیچ فرق نیہ، بؤ ایمان بہ ئہ وان ئہہینن؟ بؤ ایمان بہ تؤ ناهینن وہ ئہ گہ ر کہ سئِ ئہ و نوعہ إقتراحہ ی لہ ئہ وان کردبایہ، ئایا لای ئہ وانہ ی کہ ایمان بہ توو ناهینن ئہ بووہ معذرتیکی حقیقی بؤ ایمان نہہینانیاں؟ آیا ئہ توانن بلین لہ آسمان بہ ناوی أشخاص کتاب ہاتووہ؟ یا ئہ وانہ (جُمْلَةً وَاحِدَةً) کتابیان بؤ ہاتووہ؟ سابقاً عرض کرا ئہ وہ ی ئہ و إدعاہیہ بکا زؤر غَلَطَ، عجایب ئہ وہیہ کہ گہ لآ لہ ملایانی ئیمہ بہ قسہ ی ملایانی جوو ہل خہ لہ تاون.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ﴾ تا ئیستا ناوی سبقہ تی نہ کردوہ ﴿وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ﴾ دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ حتّی ئہ ویش جُمْلَةً وَاحِدَةً نزولی نہ کردووہ، زبیرا أناشیدی روحیش موافقی مختلفہ ی ہہیہ، لہ زبوری داود نووسراوہ (إن الأرض یرثها عبادی الصالحون)، ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ ہہ ناردومانہ چہند پیغہ مبرہری، کہ بہ یانی شؤون و أحوالی ئہ وانمان بؤ کردی، ﴿وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ تؤش وہ کو سائری (رُسل) رسولی ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ ﴿١٦٤﴾ و حی إلیہی إتیانی کتاب إرسالی رُسل قسہ لہ گہ لآ کردنی خوا شتی نیہ توو إختراع کردبی شتیہ کی إلیہیہ، جاریہ، کہ وابی ئہ و تفریقہ بی معنایہ و لہ آیہ ت دا نیہ.

خوا ہر لہ گہ ل (موسی) قسہی کردوہ، مقصود بیانی امکانہ، اُما چوَن قسہ ئہ کا لازم نیہ بی زانین، ئہ گہر تصدیقی رسالت پہ کی لہ سہر ئہ وہ کہ وتبی بو ہہ مووان وہ ک یہ کہ ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ بیانی چاک و خراپ ئہ کەن، بشارت ئہ دہن بہ وانہی رپی چاکہ بگرن، وئہ وانہی بہ رپی خراپہ دا ئہ پوَن ئہ یان ترسینن. ئہ و ئیرسالہ بو چیہ؟

﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ملت إتفاقیان ہہ یہ کہ عقل مغنی نیہ لہ إرسالی رسل ئہ گہر چی معتزلی ئہ لئین عہ قل حاکمہ، اُما لہ گہ ل چی ری بہ مصالح ومفاسد نابا، خصوص پاش إختلافی آرای عہ قل، إرسالی رسل حتمہ، لاشک سوادى أعظم عہ قل یان قاصرہ، عہ قل زبونی دەستی ہہ وایہ، إحتیاجی ہہ یہ بہ کہ سیہ کی مؤیدی من عند اللہ لہ مزلقہ قورتاری بکا، عہ قل خو ی ہاوار ئہ کا بو ناردنی إمداد لہ طرف واهب العقل. بہ لئ وجودی نظر لہ معجزہ أوائلی دعوت لایان محض بہ عقل، لام وایہ ئہ م قسہ یہ خراپ نیہ، ولو مہ لایانی ئیمہ ئہ مہ شیان لی قبول نہ کردوون. ئہ وی بلئ عقل مغنیہ إنکاری نبوت ئہ کا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (۱۶۵) ئہ گہر چی بہ قدرت ئہ توانی (طوعاً أو کرها) عالم بینیتہ سہر شاہراہی ہدایت، لاکن ئہ مہ لہ دائرہی تکلیف ئہ چیتہ دہر بہ مقتضای حکمت تشریح پاش ئہ و ہہ موو مدارک وقوایہ کہ داویہ تیہ بشر بو رفعی شُبہہ بہ معجزات آیاتی بینات کہ مندالیش تی بگا، رسلی ہہ نارد ہہ موو شتی بہ چاکہ و خراپہ، (خاصةً) قدر و قیمتى بشریتى بو ایضاح کردن، بشر بہ ہانہی نہ ما بہ غیری عنادو پوچوون لہ سفاهت وإفسادی فطرتی بشری، طمعى مال حُببى رئاست، إستنکاف لہ طاعتی إلهی فوق الطبیعہ، تذلل بو مساوی ومادونی خو یان، پاش ئہ و آیاتی بیناتہ، ئہ گہر ئہ مانہ شاہدیان لہ سہر رسالتی تودا باشہ، واللہ وإلا دل لہ دل مہ دہ، غم مہ خو با ئہ وان شاہدی نہ دہن.

﴿لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ ﴿جَنَابِي حَقَّ شَاهِدِي نُهُدَا بِهِ حَقِّيَّتِي﴾
 ئەوہ ناردویہ تہ خوارئ بو لای تو. شاہدیہ کہی ئەوہیہ ﴿أَنْزَلَهُ وَيَعْلَمُ﴾
 بوی بئ تناقضہ، موافقی فطرہ تہ، بئ مہیل و محابایہ، (لو کان من عند غیر
 اللہ لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً) (حقیقہ) خوا لہ قرآن (خاصہ) لہ نظمی علمی تیا
 بہ جئ ہیئاوہ، وەك بنائی غایت ماہر، کہ علمی خوی لہ وضع ہندسہی بنا
 صرف بکا ﴿وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ ئەوانہی کہ أمنای وحی إلهین، ئەوانیش
 شاہدی ئەدەن، زیړا خدشہ بیکی وای تیا نیہ بلین مداخلہ جنوکہ و شیطان
 وأرواحی خبیثہی تیابئ ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿۱۱۶﴾ شاہدی ئەو بہسیہ بو
 مدعای، ولو فرضنا مہ لائکہ تیش شاہدی نہدەن پە کمان لہ سہریان ناکہ وئ۔
 ((کجا با شد گواہی مثل حکم الحاکمین)).

(سابقاً) عرض کرا لہ عالمی (کون)، دلیل لہ سہر وجودی ملائکہ ت نیہ.
 دلیل سمعہ، وجودیان و احوالیان لہ رسل و ہرئہ گیری کہ باورپیان پی بکہن،
 لہ سہر وجودیان ئە بئ باورپیان پی بکہن لہ سائری احوالیان ﴿إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا﴾ بہ خواو رسل جمع و تفریق ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ خہ لکی منع
 ئە کہن لہ إتباعی پی خوا کہ دینی فطریہ ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا﴾ ﴿۱۱۷﴾
 ناینہ سہر پی ہدایت نزیکہ محال بی، چونکہ ئەوہندہ لی ی دوور بوون.
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾ کفری لہ نظرو دلیل نا، کفری مجرد، ظلم
 ناشئ لہ حقد و حسد عداوت ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ﴾ ہیچ معذرتیان نیہ لہ
 کفر تا قابل بی خوا لی یان خوش بیبی ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ ﴿۱۱۸﴾ إِلَّا طَرِيقَ
 جَهَنَّمَ ﴿ بہ گویرہی مسلکی کفریان ئەوہیہ بیانہین بو جہنم، ہدایتیان بو
 ئەو پیہ ئەدہین و بہس.

﴿خَلْدَيْنَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿١٦٩﴾ تعذیبی ئه وان بهو نواعه لای خوا آسانه مع أنه جنابی أرحم الراحمین حزن ناكا عبادی خوئی عذاب بدها، مادام ری بهدی بیهك بكا. ئه وانه بالکلیه له ری چووینه دهر، پوویمان له خوا نیه، (محضاً) خویمان ئه پهرستن وناشیلن خه لکیش خوا به راستی بپهرستن، (بناءً علیه) بالمرة دهرگه ری په حمه تیان له خویمان به ستووه.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ﴾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ ئه وهی ئه و هیناویه تی گشتی (حقه) کتیبی دینی فروع و اصولی ﴿مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ ایمان خیری محضه بو خوتان کهس اومیدی به نفعتان نیه، چونکه خودایه غنیه، پیغه مبهه رطمعی ریاست وحبی مال و استخدامی عبادی نیه، خوئی عاده به یه کی له افرادی اومت حساب ئه کا، له نصبی (خیراً) اضطرابیان هه یه.

مُعْتَمِدٌ لَأَيِّ حَقِيرٍ قَوْلِي (فَرًّا) یه، که صَفْتَهُ بُو مَصْدَرِي مَحْذُوفٍ تَقْدِيرِي (إِيمَانًا خَيْرًا لَكُمْ) وله خولاصه ی معنا دهر ئه که وهی، چ غباری تیانیه ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ خوتان ضرر ئه کهن ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ئه و غنیه له ئیوه هزار نواعه عبادی هه یه، وه کو ئیوه و له فوقی ئیوه و ئه توانی رسولی خوئی حفظ بکا، و مکافاتی که لایقی ئه و بی پیئی إحسان بکا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٧٠﴾ نارذنی ئه و رسوله به و دین و کتابة یه کیه که له آثاری علم و حکمتی خوا ﴿يَتَأَهَّلَ

الْكِتَابِ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ﴾ تجاوز مه کهن له دینی خوتان له حق خوتان، دینیه که خاوین اتم الشرایع، کافل به نظامی عالم، کاشفی حقایق و مشکلات کامل و شامل، دینی موسی سبب به ظلمی جوله کان زور ته نگه، که سی به و غل و زنجیره ناتوانی خطوه باوی، وه ک مشربی سلفیانی ئیمه مسلمانان مَفِيدٌ ئه کهن به سنت، حتی له اموری حرب و اداره و تشکیل و

انتظامی حکومت، ئو نوعه دینه بالکلیه له فطرت دوره، دینی (عیسی) نازانین چیه؟ ئو مدھی به پیغمبری ژیا چی لی وهرنه گرا تدوین بکری، و تا رفع بوو له سهر احکامی تورا ئه پوی، إلا له بعضه احکامی ثقیله، که آره زوی ئه فهرمو تعدیل بکری، پاش ئو هرکه سه شتی کی ئه ووت (بولسی الرسول) به جاری احکامی ته وراتی هل گرت، به ناوی مسیح طبیعتی به ره لالا کرد، تا کو مسئله ای اعترافی جرم و صکی غفرانی هاته سهر، به جاری دینی ژیر به ره ژور کرد، وه کوردی ئه لی ((کفن به من بپری، مردی گوپ به گوپ چی)) رؤسای کناس منتفع بین امت چی به سهر دی بابی، که وابی به لاف و گه زاف ئو غلوه مه که نه معذرت بو ایمان نه هینان به پیغمبری آخری زمانی نبوت، حق الانصاف تورا گه لی احکامی وای تیا به انسان ناتوانی بلی له وضعی حضرتی موسایه فضل له وحی و کلامی الهی به ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ﴾ دائر به ذاتی اقدس و صفات و افعالی، ئه وهی حق نه بی، لایقی شانی ألوهیت نه بی مه یلین، ئه وی بو مادیات و طبیعیا ته نسبه تی بو خوا مه دن، من له عالم په روشی یونانیانم له هه موو که س زیاتره، پاش حکمتی افلاطون و ارسطو فلسفه ای الهیان، چون بوونه دیان؟ چون به جاری له عقل تجرید کران، حقا چی تأسفه تحویلی ئه وان بو مسیحیه تی له تحویلی جوان بو مه یمونی له عقل دورتره، هرچی بووه تأثیری وراثی بووه له ابای اقدمینیانه وه بویان بویته میراتی معنوی. ئیوه لای خوتان اهلی کتابن موحدن ایمانتان به رسلی عظام هه یه خبر دارن به دعوتیان به معجزاتیان، له سهر ئه و حاله چون ئه و افراط و تفریطه ئه که ن له حق (عیسی) ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

ابن مريم رسول الله﴾ چون ئه لین بیژیه انکاری معجزاتی باهراتی چون ئه که ن؟ ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ یعنی محصولی کلمه ای ئه وه، که امری (کن) ه. (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون). هه مو شت

وایہ، اَمَّا (عیسی) چونکہ له میانہی سلسلہی بشری سببی قریبی کہ باوکه نیہ نسبہتی بُو امری (کن) ماوہ تہ وہ (مثله کمثل آدم خلقه من تراب) وہک رابورد ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ خوا مبدای وجودہ، ہمہ مو عالم له ویہ وہیہ، اَمَّا خَوٰی خارجی سلسلہیہ، وِلا عالم بی مبدأ ئہ بوو. حکما و متکلمین إتفاقیان ہیہ کہ انسان عبارہ تہ له جَسَد و روح، نہ روحی حیوانی کہ مبدہئی حس و حرکہ یہ وبہس، بہ لکو روحی کہ مبدای إدراکی کلیاتہ. لای حکما و بعضی مُتکلمین ئہ و روحہ جَوہری مُجرده له ناو بدن دانیہ، نوعاً ما تَعَلَّقِکی پیوہ ہیہ، لای باقی مُتکلمین جَوہری لَطیفہ له ناو بدن دایہ اِمْتیازی بشر بہ و جَوہرہ لَطیفہ یہ، ئہ و جَوہرہ بہ نَفخہی إلهی دیتہ بر بدن، بہ قوتی قاهری خوی تیا حبس ئہکا إلی أجل معلوم، وہ روح چ حیوانی چ انسانی سرری مکتومہ، آثاری دیارہ حقیقتی نازاندری، ئہ و نده ئہ زانین جَوہریکہ له طَرَف خوا ئہ هاویژریتہ بدن. (عیسی) و غیری (عیسی) وہک یہ کن، انسان و غیری انسان له و امرہ مُساوین. وہک سابقاً و وتمان (عیسی) چونکہ بلا آب بووہ ئہ و روح و مبدای حیاتہی رأساً له طرف کبریائی ہاتہ بہر بدن بویہ ئہ فرموی (منہ) ﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ﴾ بہ وحدانیہتی ایمان بہینن ﴿وَرُسُلِهِ﴾ تفریق له بہ یینیان مہکن ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾

﴿ثَلَاثَةً﴾ مہلین إله سین (۳) آب و ابن و روح القدس. کہسی آرزو ئہکا ایمانی بہ آله و وحدانیتی آله ببی له علمی حکمت و کلام مبحثی وجوب و امکان و امتناع و وحدة و کثرة إتقان بکا. علمای نصاری له بحثی وحدة مُغالطہ ئہکن، عادتہ فرق ناکن له بینی وحدتی حقیقی و ذاتی و شخصی و اجتماعی، بویہ ئہلین سی یہ کہو یہک سی یہ، ئہ گہر ئہم قضیہ تصور بکن ئہ زانن واحد نابی بہ دوو، دونابی بہ واحد، إلا بہ اعتبار و اجتماع، وحدتی حقیقی چ کثرتی اعتباری نیہ، أما وحدتی ذاتی قابلی کثرتی اعتباریہ، ئہوی مُتصّف بی بہ وجوبی وجودی ذاتی له فوقی طبیعتہ، ہرچی احوالی طبیعیات بی بؤئہ و ممنوعہ، زمان و مکان و اتحاد و حلول له واجبی حقیقی محالہ، أصلاً تعددی إله له

مشرکانہ، کہ ایمانیان بہ نُبوت نیہ . لہ اُتباعی رُسل دور بوون . ثنوی دوو شتی مختلفیان دیت لہ خیرو لہ شر، ووتیان خوا خیری مَحَضہ نابیتہ مبدأی شر، دو مبدأیان دانا یہ کئی یہ زدان یہ کئی اهریمن . رُومانی تہ ماشای انواعی خیرو انواعی شریان کرد إلهیان زور کرد، اُمّا ای دیانان سی (۳) بؤ مع اُنہ خلق و ایجاد خیر و شر عُلوی و سُفلی بہ ملیون سال پیش (عیسی) عیسای چ پی دہوی و ہک قطبی فردی صوفیہی ئیمہ کہ سی طبیعیون بی ایمانی بہ نُبوت نہ بی چون تصدیق ئەکا (عیسی) بی باب بووہ مردوی زیندو کردوتہ وہ ہیکلی طیری لہ قور دروست کردووہ وفوی تی کردووہ بؤتہ طیر، ئەگہر ایمانی بہ نُبوت ہبؤ چؤن ئەلئ ئەوہی ئەو جورہ خوارقہی لہ سہر دستی ئاشکرابی خواہی؟ حقیقہ مُناقفی حقیقی ئەوانہن، نہ طبیعیون نہ إلهیون، علاوہی ئەوہ مریم لایقترہ بہ ألوهیت لہ (عیسی)، چونکہ (عیسی) لہوہ، ئەو مصدری إلهیہ بؤ چ اب و ابن إله بن، بؤ اُم إله نہ بی، علمای اسلام نسبتی و لد الزنایان لہ باب پی قطع کراوہ اُمّا لہ داک نہ کراوہ، زیرا امری قطعہ رابطہی بہ کہ س نابردری سید رشید تفصیلاتی زور بہ فائدہی ہہیہ شایانی تہ ماشایہ، طنطاوی جہدوہ لیہ کی ہہیہ لہ بؤذہ ویان مُوافقی قولی نصاری، وگہ لی قولی بؤذہ ویانی تیا بہ بیان فہرموہ، چاک وایہ لیہ بنووسریتہ وہ بہ بعضہ اقوالی عبداللہ کولیا میش شایانہ لیہ ایراد بکری، لہ وہ قتی تبیيض انشاء اللہ ئەیکہین ﴿أَنْتَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ﴾ بہ سیہ لہو ہہذہ یانہ دست ہہ لبگرن ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بی شبہ و شریک و ضد و ندہ ﴿سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ نہ (عیسی)، نہ ملک، نہ غیر نہ زیر، جنابی حق مقدسہ لہ تولید و توالد، و إلا ئہ ویش داخلی زمرہی نباتات و حیوانات ئەبی و ئەبی بمری، چونکہ قوہی مؤلدہ بؤ بقای نوعہ، واجب الوجودی بالذات، بالذات باقی و قدیمہ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ نیسبہ تی ہہموی بؤ ئەو یہ کہ عالم ممکنہ ئەو واجب الوجودہ، عالم مُفتقرہ ئەو غنیہ، عالم متکثرہ ئەو واحدی حقیقیہ بہ ہیچ وجہ

ناگہ نہ یہک فضلًا کہ ببہنہ یہک ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿۱۷۱﴾ خالق ئہوہ، حافظ ئہوہ، زوال و وَهْنِي بہ سہردا نایی، قادری بالذاتہ، وُلْدِي بؤ چیہ؟ ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ مسیحی قہ لہ ندرہ ئہ لئی؟ اُبد الآباد لوت بلندی لہ عبدایہ تی و بہندہ گی بؤ خوا ناکا. عَجَابِيہ خَوِي بہ عُبُودِي سہرفرازہ، اِتْبَاعِي ئہیکہ نہ خواو کوپی خوا، ئہ گہر (عیسی) بہو دوو سئِ خَوَارِقہ ببیتہ خوا یا کوپی خوا، ئہ بی (دَجَال) چ بی؟ زَیْرًا بہ ملیوَن عَجَابِيَاتِي وای لی ئہ گَیْرَنہوہ کہ (عیسی) پِی پئی نابا، وچوَن ئہ توانی ئہو اَعْجُوبِيہ بکوژی. خلاصہ ملیوَن لہ شَرِك و کُفْرُو خورَافَت پہرستی دہرنہ چون، اِیْمَان بہ قدرتی خوا توسیعی خَیَالِي زیادکردن، خَاصَّةً کہ گوتیان ملائکَت قسہ نامینی، کہ کرامتی (ولی) ہاتہ گورپی بہ جارئی زِمَامِي هُوش و اِدْرَاک لہ دہستیان ئہ چیتہ دہر ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ لہ سہر ئہو ہموو قدرت و قوہ تی کہ بویان اِثْبَات ئہ کەن، و نہ داکیان ہہیہ نہ باب، نہ ئہ خُون نہ ئہ خُونہوہ، نہ ئہ نون فتور و ہنیاں بہ سہردا نایی، لام وایہ ئہ لَیْن ناش بؤرژین. ئہ وانیش اِمْتِنَاع ناکەن لہ عُبُودِي. لَاشْکَ لہ و جِہتہ ئہ وان لہ فَوْقِي بَشَرِن (چوَن فَوْقِي بَشَرِن لہ و جِہتہ)؟ ئہ لَیْن (عیسی) لہ نَفْخِي یہک یہک لہ و مُقْرَبَانِيہ ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ ئہوہی اِمْتِنَاع بکا لہ عِبَادَتِي خَوای ﴿وَيَسْتَكْبِرُ﴾ گہورہیی بنوینی، اُنَّ دہعیہی نہ ہینئی خوا بپہرستی، و ہک مُنُورہ کانی زہمانی ئیمہ، لہ (کَلْمَنُصُوي اِفرنجی ئہ گَیْرَنہوہ کہ پِيش مردن ووتوویہ تی (من اِیْمَان بہ خَوای ضَعْفَايَان ناهینم) وگہ لی کہ س ہن دہعیہ یان ناهینئی لہ گہ ل عَوَام لہ مَسَاجِد عِبَادَت بکہن، و اِشْتِرَاکِي عِبَادَاتِي عُمُومِي ناکەن، گویا ئہ وان خَوَاصِّن لہوہ گہورہ ترن کہ تہ کہ لاوی عَوَام ببن ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ ﴿۱۷۲﴾ مُؤْمِن و غیر مُؤْمِن مُتْکَبِر و مُتَوَاضِع ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ئہوی

مُہان و سام و بیّ سلاواتن ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ هہ موتان بزائن ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ دلیل و حجتی قاطع و ساطع بی شک شُبہہ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ ﴿۱۷۴﴾ پیتان بہ تہ واوی بؤ پوناک ئہ کا، ہیچ بہ ہانہ تان نہ ما، پہ رده ہل گِیرا، عادۃً ایش بووہ عیان ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ بہ بُرہان بہ نور یہ وہ دەست بگری ﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾ صلہ ی ئیمہ لہ خدمت خوا عبودیتہ، صلہ ی ئہ و بؤ ئیمہ رَحمتہ. کہ سی مُحافظہ ی ئہ و صلہ یہ بکا خوا ئہ یھاویتہ ناو رَحمتی خوئی، چؤن ایمان چوویتہ ناو دلئی ئہ و، ئہ ویش ئہ چیتہ ناو رَحمتی إلهی، ئہ وی صلہ ی رَحم لہ بینی خواو عبد پہ یا بکا لہ صلہ ی پہ رَحمتی خوا مَحروم ئہ بی. موقعی ئہ و (یا ایہا الناس) ہ زؤر عجابیہ. کہ سی آیاتی سابقہ بہ تدبیر بخوینتہ وہ ئہ و جا دل پابگری ئہ و خطابہ بہ عامہ ی بہ غایت مؤثرانہ دیتہ گوئی ﴿وَفَضَّلِ﴾ فضل بی لہ طَرف خوا، خوا بہ مُہمی دابنی ئہ بی چ ئہ بی. (کَمًّا) و (کَيْفًا) لہ عالم مجهولہ. مُحاطی علمی إلهیہ وبہ س ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿۱۷۵﴾ ہدایت بؤریی راست بَعَد الإیمان باللہ مَرَبوطہ بہ ایمان و تَمَسُّک بہ قرآن، و ہ ک لہ اولہ وہ زاندر ا کہ جہ نابی حَق إجابہ ی دُعای ایمان داری کرد بہ (ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین) قرآن ہیشتا زؤری ماوہ نزول بکا و بی، ہہ تا زیاتر بی ہدایت زیاتر ئہ بی، ئہ وہ ہندہ ی ہاتوہ دەستی پیوہ بگرن، لہ ہہ مو خصوصی خوا ی تعالی ریی راستیان نیشان ئہ دا، مقصدی کبریائی ہدایتی عبادی خو یہ تی. از جُملہ ئہ گہر مسئلہ ییہ کیان لی إشکال بوو بؤ زیدہ ایضاح جنابی حق آیتیان بؤ ئہ نیری چ لہ أصول چ لہ فروع ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ لہ کلالہ بہ قرینہ ی جَوَاب ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (جابر بن عبد اللہ) لہ حالی نہ خوشیدا بوو عرضی پیسالہ تی کرد أصل و فروعی نیہ، میراتی بؤکی ئہ بی لہ آقاری؟ ﴿إِنْ أَمْرًا﴾

﴿هَلْكَ﴾ (وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)، کہ واپیٰ ئہ و ہیا لکہ ہیا لکی کوردی نیہ
 ﴿لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ﴾ بابیشی نہ بو ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ یہ ک ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾
 ئہ گہر و لدی ہہ بوو، نیڑ یا می، عجباً اُخت ئہ گریٰ یانا گریٰ چہ ند ئہ گریٰ چوٰن
 ئہ گریٰ؟ ئیرہ مَحَلّی نیہ، وکذا نِصْفِ آخِرِ بَوِّ كَيْ يَه مَوْضِعِيكَ تَرَى هِيَ
 ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ برا لہ خوشکی ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ﴾ ہیچ. ئہ ی باب؟ ئہ ویش
 بہ نَظَرِ مَقَامِ ئَه زاندری، کہ برای باب مردوو دیارہ خوشکیش بی بابہ، یعنی
 ہہ مو مالہ کہ اُبتہ ہی برا ﴿فَإِنْ كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ﴾ دو خوشک بووون ﴿فَلَهُمَا
 الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ لہو (ہو یرثہا) ئہ زاندری کہ دو برا لہ خوشکی ہکذایی، لہ
 تقسیم بہ تساوی اِرْثِ ئہ بہن، ئہ گہر لہ دوو زیاتر بوون حُکْمِ نَاگُورِی، ثلثان لہ
 بینیان تقسیم ئہ کری. ئہ فہرمون اُخواتی جابر حہوت، (بعض) یہ ک ئہ لَیْنِ نُو
 بوون ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ نیرومی بہ ہہر جوڑی بی بالعدد
 متساوی، یا مختلف ﴿فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ بہ قاعدہ ی مُقَرَّرہ مَذکورہ
 لہ اولی سورہ ﴿بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ یعنی بہ یانی ئہ وہندہ آشکرایہ بہ
 ادنی انحرافی گومراہ ئہ بن، بہ یانی وانیہ کہ مَحَلّی اِجْتِهَادِ بِي وَنَائِلِي ثَوَابِ
 بِن. حَقِيقَةُ بَيَانِي هِدَايَةِ مُتَضَمِّنِهِ بُو بَيَانِي ضَلَالِ، وَحَضْرَتِي كِبْرِيَايِي هِه رُوهُ كُو
 كُو رِيِي هِدَايَةِ اَشْكَرَا ئَه كَا، رِيِي ضَلَالِيْشِ اِيضَا حِ ئَه فِه رُمُوِي، مِه يِلِي
 مُشَاغِبَاتِ وَطَبِيعَتِي شِعْرِي لَه قَرَا نِدَا نِيَه ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۱۷۱)
 ئہ فرمون ئہ و آیتہ لہ ہاوین نازل بوہ، آیتی سابقہ لہ حَقِ كَلَالِه لہ زستان.
 اِمَامِي عَمْرِ مَسْئَلَه ي كَلَالَه ي لَا زُوْرُ مُشْكَلِ بُو، بِالْوَاسِطَه وَ بِلَا وَاسِطَه مُرَاجَعَه ي
 پِيْغَه مَبَهْرِي ئَه كَرْد، لَه خَوَا ي ئَه خَوَاسْتِ بَه يَانِي كِي شَافِي. عَمْرِ لَه لَايِي كَه وَه
 نَا حَقِي نَه بُووه. اَوَّلَا قَسَه لَه كَلَالَه يَه مِنْ حَيْثِ اللِّغَةُ اِطْلَاقِي ئَه كَرِيْتَه سَهْرِ مِيْرَاتِ
 گہر اِطْلَاقِ ئَه كَرِيْتَه سَهْرِ مِيْرَاتِ لِي گِيْرَاو، لَه قَهْوَلِيَه كِ غَه يِرِي وَالدِ وُولِدِ لَه مِيْرَاتِ

گر کلالہ یہ، لہ قہ ولی اولادی أم فقط. لہ قہ ولی بنی أعمام أبعاد دورتر لہ آموزا لہ تعارفی کوردی بن عامیان ئہ لئین، لہ قہ ولی ئہ و عصبانہ یہ کہ لہ گہ ل کہ اولادی أم میرات ئہ گرن، میرات لی گیراوی بی باب وولد، ئہ مہ رأیی أبو بکری صدیقہ، یا بی ولد با بابیشی ہہ بی مہیلی فاروق بو ئہ وہ یہ. لہ أوائلی سورہ کلالہ بہ ارث ذکر کراوہ بی تفسیر، چ تاق لا ذکر نہ کراوہ. لیئرہ ہہر نفی ولد ئہ فہرموی تَعْرُضی بو باب نیہ، تقیید بہ إعتباری سببی نزول لای فاروق خوش نہ بوہ، خصوص مع التفریق وکو ایرہ، کہ سی طعن لہ عُمَر بدا لہ بی فہمی خویہ تی. گہ لی انسان شتیان لا سہ ہلہ، لاکن بعد الدقہ دہرئہ کہ وی صعبہ. عمر ئہ یہ ویست جنابی حق مفصلاً بی ری ای اجتہاد خودا کلالہ یان بو بہ یان بفہرموی. أم قرآنی کریم لہ گہ لی جی (خاصةً) لہ فرائض ری ای استنباطی کردیتہ وہ، ئہ مہ ش حق الإنصاف موجب ترقی اہلی نظرہ. ہہرچی بی بہ صراحت و ہرگیری، قوم بہ لہ د ئہ بن اہلی نظرو فکریان نابی ئہ گہر اجتہاد نہ با، ئہ و ہہ موو ملا گہ ورنہ لہ اسلامہ تیدا پہ یا نہ ئہ بوون، ہہر کہ س چاوی ہہر لہ یشک و سپیلکہ بی، میشکی ئہ بیئہ ناو کہ کودو، ناتوانی بہ گویرہ ی مقتضای حال بہ فکری خوی اختراعی بکا، ئہ گہر قسہ ی ملایکی لابوو ظریفہ، وإلا مُعَطَّلٌ ئہ بی، بو یہ من گہ لی جار ئہ لیم کورد ملای کتیبیان زور بووہ، أم ملای مفکر کہ بتوانی لہ ذہنی خوی بہ گویرہ ی مقام قسہ بکا دوو ملایان بووہ، یہ کی مفتی زہ ہاوی، ئہ وی تر بابم پہ حمہ تی خویان لی بی، حقاً ئہ و دوو ذاتہ لہ نوادراتی دہر بوون. لہ ابن عباس ئہ گیرنہ وہ اول کہ س گہ یشتہ سہر (فاروق) (کہ بریندار کرا) من بووم، فہرموی لہ من سی (۳) شتان حفظ بکہ، ئہ ترسم خہ لکم نہ گاتہ سہر، من حکم لہ کلالہ نہ کردوہ و کہ سم بہ خلیفہ دانہ ناوہ، وہ ہہر عبدیہ کی ہہ مہ ئازاد بن. روایت ئہ کہن (فاروق) لہ سہر منبر سُوالی لی کرا لہ کلالہ، دستی ہاویشتہ سہر ردینی، فہرموی کلالہ، کلالہ، کلالہ، واللہ، کلالہ م بزانی بایہ پیم خوشتر بوو لہ وہ ی پوژی لہ سہر ہہ ل دی، من سُوالم لہ پیغہ مہر کرد، فہرموی آیا ئہ و آیہ تی لہ ہاوین نزولی کرد

نہت بیستووہ؟ (بعض) ئی ئہ لئین لہ آخری عمری لہ فکری خوی گہ پرایہ وہ بؤ فکری صدیقی اکبر، ئہ و ماجرایہ دلالت ئہ کا لہ سہر بُعدی نظری عمری کمالی احتیاطی لہ استنباطی احکام، ئہوی بہ راستی ملا بی حَق وایہ لہ و فکرہ اتباعی عمر بکا، بہ أدلہی واهیہ هجوم نہ کاتہ سہر حُکم...

لله الحمد والمِنَّه، تفسیری سورتی (نساء) تہ واو بوو، گہ لی عوائق کہوتہ بہین، ئہ و مُدّہی لہ چنارۆک بؤم ہیچم نہنوسی، دواپی چوومہ تعزیہی مرحوم شیخ محی الدین، کہ ہاتمہ وہ ناساغ کہوتم، تہ واوی رمضانم بہ ناساغی رابوارد، لہ شہ شی شوال شیخ عبدالعزیز وفاتی کرد، حقاً داغیکی نابہ سہر جہرگم دائماً ئہ کزیتہ وہ، بی ہیژی کردم، جنابی حَق بیہاویتہ ناو پہ حمہتی خوی. لہ خیری ئہ و تفسیرہ بہ شہ کی چاکی پیّ بدا وموقفم بکا بؤ اتمامی تفسیری کوردی آمین. ذی القعدة آخری پۆژی سیّ (۳) شہموو بیستی شباط رومی سنہ ۱۳۵۳ھ و ۱۹۳۵م.

خیانہ ت! ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ ریئی (مکّہ) کراوہ حہ صرتان لہ سہر نہما! بہ کہ یفی خوتان تصرفیان تی ئە کەن!

بہ ہوی ئە نیرن لہ نُسک وکە فارات تقدیمیان ئە کەن. حیواناتی بہ ری بہ چوارپی برروا بہ ہیمہ ی پی ئە لّین! (انعام) بہ مہرو بزن و حوشتر و رہ شہ ولاغ وگامیش ئە لّین. غہ یری ئە وانہ ش حہ لالان ئە ممالیرہ ئە وانہ مقصودو مَناسبن بۆ مقام. تَقَرُّبٌ بہ دَبْحِي وانہ بۆ غَیْرِی خوا نہما! گوئی ہەر تلپیشاندنی (انعام) تی پەری! ﴿لَا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ﴾ عَن قَرِيبِ دِی! ﴿غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ لِّلّهِ الْحَمْدُ کہ وتینہ دەوری راو و شکار، دەست و بازومان کراوہ لہ حِلِّ وَحَرَمٍ! ئیوہ نیچیر حلال مە کەن! ﴿وَأَنْتُمْ حَرَمٌ﴾ حالیش وابی ئیوہ لہ احرام دابن! بہ حەج، بہ عمرہ، بہ ہەردووکیان! نہ راوکردن، نہ خواردنی نیچیر، بۆتان حلال نیہ! ﴿إِنَّ

اللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (سید رشید) حُکْم بہ مَنع وَقَضَا تفسیر ئە کا، حقیقەت لہ لغەت حُکْم بہ و دوو معنایە ش ہاتیہ، أَمَّا صَاحِبِي قَامُوس ئە فەرموئی: (أَحْكَمَهُ أَنْقَنَهُ) فاستحکم ومنعه من الفساد لام وایہ چونکی بہ بی تَعَدِي نہ کردیہ بۆیہ وای تفسیر ئە کا لکن حکم لہ سەر معنای مە شوری بی چاترہ (ألوسی) ئە مە ی اختیار فەرموہ بۆ مسئلە ی تَعَدِي تَضْمِينِي معنای (يَفْعَلُ) وی کردیہ. خلاصہ ئەوہ ی ارادە و قصدی بکا وای دادەنی ہەر نہوعە حکمی بی ایجابی بی سلبی بی قضائی أنفادی بی لہ ہەمو ی دا رعایە تی حکمت و مصلحت ئە فەرموئی مقصدیش ئەوہ یە إحترامی حریمی بیت ألحرام باقیہ ماجرای قریش خللی پی ناگہ یینی ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ﴾ شعارو علامە تی کہ لہ زەمانی خلیل لہ طرف خوا دانرایہ تیکی مە دەن حدودی حرم مە بە زینن. ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ حرمتی أشهر (ألحرم) یش محافظہ بکەن بە شەر و دعوی پەردە ی إحترامیان مە درینن ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ ئەوہ ی کہ بو کعبە بە ہدیہ

ئە نیردری بە هیچ نوع دخلی مەکن ﴿وَلَا أَلْقَيْدًا﴾ ئەو قەلییە کە علامەتی
 ھدیە لە ملیان لی یان مەکنەوہ نەبادا نەناسرین وە نەب بکرین ﴿وَلَا آءَامِينَ﴾
 اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ ئەوانە ی قسیدی بیت الحرام یە عنی کعبە ئەکەن ری یان لی
 مەگرن وە منعیان مەکن ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ شکر لہ بیت
 الأصنام بۆوہ بە بیت الحرام، لە مسجد الحرام ئەوجا توجە بۆ بیت الحرام
 ئەکری ئەوہی بۆی دەچی طلبی فضل و رضوانی خوی ئەکا. ئیوہ نەبنە حائلی
 ئەوانە ی کە طلبی زیدە ی و رەزامەندی خوی خویان ئەکەن بە توجە بۆ بیت
 الحرام. ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ کە لە احرام ھاتنە دەر بۆتان مباحە راوکردن
 و نیچیر، عوداً علی ما کان. اساساً راوکردن واجب نیە وە مندوب و (سُننەت) یش
 نیە، و اکثر لەوانە ی کە ئەفەرمون امری مطلق بۆ وجوبە ئەلین امری بعد
 التحريم بۆ رفعی تحریمە. غرض لەو مقدماتە ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
 صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ لەو آنی دا توجە بۆ مسجد الحرام بوو
 چونکی کعبە پر لە أصنام بوو ﴿اَنْ تَعْتَدُوا﴾ ئیوہ حمل ئەکاتە سەر عدوان
 و تجاوز و عدواتی قومی بۆ ایوہ لەبەر ئەو ضلمی کە کردیان ئیوہ یان مەنع کرد
 لە چوونە مکه بۆ حج عفی الله عما سلف ئەم کۆنە رقە بەخاتر مەین
 ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ﴾ لەسەر چاکە ی فراوان وە پەر ھیزکاری یارمەتی
 یە ک بەکن ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ معاونە مەکن لەسەر گوناھو تجاوز
 لە حدود و سنور.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ خۆتان لی نەگوری بە نظرو لطفی
 إلهی مغرور مەبن لە ھەموحالان خۆتان بپاریزن لە مخالفە ی فەرمايشاتی
 خوی تعالان شدید العقاب چی دنیەوی چی أُخروی، رووی لی وەرگیرن لی تان

وہرئہ گری ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ﴾ ئو شورعہ لہ مصادقی إلا ما یُتلی،
 خواردنی یا تناولی مردار لہ ئیوہ حرام کراوہ ﴿وَالدَّمُ﴾ خوین نفسی بہیمہ نی
 یہ اما مداری حیاتیہ، بویہ وئویش أستثنا ئہ کا دیارہ خوین نہ بی حیوان
 نابی. ﴿وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ﴾ گوشتی بہ رازی ﴿وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ تحریم کرا،
 وہئوہ مجرد لہ جہتی دینہ دخلی طبیعہ و فطرتی تیا نی یہ، بُت پەرستہ کان
 بہ ناوی لات وعزی وسائری أصنام ذبحیان ئہ کرد دہنگیان بہ ناوی ئہوانہ بلند
 ئہ کرد ئہ مہ ی بؤ تعظیم وتقربى الا غیر اللہ بکوژریتہ وہ لہ ئیوہ حرام کراوہ
 خبائثی معنوی عبّادی أصنام تأثیر ئہ کا ذبحشیان پیس ئہ بی.
 ﴿وَالْمُنْحَنَقَةُ﴾ بیانی أنواعی مردارہ خنکاو و خنکاندراو وہ ک یہ ک حرامہ لکن
 (سید رشید) بہ إتباعی (ابن جریر) إختباری قولی (ستری) و (ضحاکي) کردیہ
 ئہوی ئہ خنکی سہری ئہ کہ ویتہ بہینی دوو دار یا پەتی داوی نیچیرہ وان وہ زور
 قوتی داینی، لام نہختی سیاستہ تحریکی کردیہ، (ابن عباس) ئہ فہرموی اہلی
 جاہلیہت بہیمہ یان ئہ خنکاند وہ ئہ یان خوارد ئہ مہ لہ مسلّمانان حرام کرا،
 سیّدی آلوسی ئہ فہرموی اولی وایہ تعمیم بکری لہ مَخْنُوقٌ وَمُخْنَقٌ ﴿وَالْمَوْقُودَةُ﴾
 ئہ وہ ی بہ لیڈان بمری بہ دار بہ بہرد بہ بہندہ قہی قرینی قوچہ قانی، اما
 تفہنگی زمانی ئیمہ ئہ گہر نفسی رمیش حرام بی مرمی حرام نابی تفصیلی لہ
 بحثی صید عرض دہ کری ﴿وَالْمُتْرَدِيَةُ﴾ لہ جی ی بلند بہ ربیتہ وہ وہ بمری
 ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ بہ شہر قوچ بمری ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾ گورک شیر و امثالی وان
 ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ئہ گہر مردار بو حرامہ ئہ گہر حیاتی مابو وہ سہرتان بری حلالہ
 ولو محققاً بمری ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ﴾ جمعی نصابہ یا أنصاب عبارہتہ لہ
 بہردی بی نقش و تصویر چہند بہدری وایان دانابو لہ اطرافی بیت ذبیحی
 الإہہکانیان ئہ کوشتہ وہ، ئہ وہش نوعیکہ لما ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴿وَأَنْ تَسَنَّسِمُوا﴾

﴿بِالْأَزْلَامِ﴾ ئەویش حرامہ، تفسیری ازلام بە ميسر لام جوان تره له تفسیری به و سہامه له یه کیان نوسرابو خوام ئەمري پی کردم له وي دوه م خوا نہی کردم، سیی یه م چی لی نہ نوسرابو بو سفر یا کاری مهم ئەگەر سہمی (أمرني ربّي) بہاتبا ایشہ کہ یان ئە کرد ئەگەر (نہانی ربّي) ہاتبا یه نہ یان ئە کرد. ئەگەر سادہ کہ ہاتبا دووبارہ ئە یان ہاویشتہ وہ، گەرچی جمہور لە سەر ئە و قسہن اما لە گەل قسمت و محرماتی سابق من کہ مفتونی نظمی قرآنم کہ بہ نظمی جوان بی یا جوانتر بی مہ یلم لە گەل ئە وہ و لە سەر رأی جمہور تقسیمي مال نی یه بە لکو طلبی طلب ترجیح کردن لە سەر نہ کردن نہ کردن لە سەر کردنہ وہ له توجیہی حرمتی اضطرابیان ہه یه حتی بعضی فرقی ناکەن لە گەل قرعہی شرعی و حقیقہ و جہی حفظی عہ قله له خرافات و سخافات اعتقاد و اعتبار بہشتی پرووچ لکن مع الاسف ئە مرؤ مزخرفات و ترہاتی کلینانیان له عالمی اسلامیہت زیاد ئە کا وہ صورتی ہمہت و کراماتیشی وەرگریہ ئیتر چارہ ناکری.

﴿ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾ ئەمہتان یعنی استقسام بالازلَام خروجہ له عقل یا له رعایہتی مصلحہ. گەرچی ميسرہ نوعاً ما نفعی ہه یه اما ضرر (زہرہری) له قازانجی پترہ. یا جمیعی ما ذکر وەك ابن جریر ئە فہرموی خروجہ له طاعہتی خوای ممکنہ بلیین له قواعدی حفظ الصحة حقیقہ طبعی بشر وەك سائری حیوانات گوشتی ئەوی لکن ئە بی بہ گویرہی لطافہتی مزاجی بشری تفریق بکری له بینی ضار و نافع ماددی و معنوی، حتی حیوانی درندہ ہه مو نوعہ گوشتی ناخوا. ئە لئین شیر استنکاف ئە کا فریسیہی غیر بخوا وە مردار ناخوا گەلی جارم دیوہ پشیلہ مشکي مرداری نہ خواردیہ ئە وہی خوی شکاری بکا ئەوی ئە خوا لکن أتباعی ((بؤلس الرسول)) له ہه مو شتیان تی پەراندوہ. ﴿الْيَوْمَ﴾ ئە مرؤ کہ رۆژی ظفرہ رۆژی نیلی مرادہ رۆژی عزی اسلام و دلی کفرہ رۆژی نزولی ئە و آیہ تہ یه ﴿يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تا سہرامہ دانسی کفر و ضلال نا

ئومید بووین ﴿مِنْ دِينِكُمْ﴾ له إبطالي له وه رگيرانه وهي ئيوه، رۆژی (ودوا لو تکفرون) تی پهری چهندی تی کوشین به دسیسه و مکرو احتیال به طعنو ضرب و جنگ وجدال چیان پی نه کرا سه عیان به هباء چوو. دین چه سپا، ظفرتان بو، فتحي مکه کرا هه مویان له و رۆژه ئه ترسان چ رۆسای اهلی چائمهتی شکر و ثنا ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ له الحمد. بی هیز بوون که لکی بی ترسانیان پیوه نی یه، له وان مه ترسن. ﴿وَإِخْشَوْنَ﴾ خوا ئه فه رموی له من بترسن (مُحَوِّلُ الْأَحْوَالِ) نه کهن مهستی صهبای ظفر نه بن. رابطهی اتحاد و اخوتی اسلام مه پسینن. دائم الاحتراس بن. ئه وه ترس نی یه، تحفظه مقابلی طوارئی خارجی، ئه مپو ته ماشا کهن اعظم ترینی دولی ارضی له هه موان دوور ئه ندیشه وبه احتراس تره. ئه مپو له جی یی سدئی ئه کا نه ک پاش صه د سالی دی له وی تووشی لافاوی بی، ئه مپو محافظهی ره ژوویی پاپوری حربی ئه کهن نه وه ک پاشی هه زار سالی دی په کیان که وی سیادتی بحریان له قیس چی.

مع الأسف مسلمانان ئه مه به شیئی ئه زانن بو بقای نوع تی ناکوشن فضل له بقای سیاده. بویی چوو، صه د سال وهه زار سال بو عمري أمه وه ک سه عات و رۆژه بو عمري شخص ((فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ)) سعی به دوامی عزّی دنیا سعیه بو قیامة ﴿الْيَوْمَ﴾ ئه مپو که رۆژی عرفه یه قاندي اعظم رسولي اکرم له عرفاته له هه مو جوانب ته ماشا ئه کا له و موقفه اعظمه له و مشعر الحرام به غیری اهلی ایمان و توحید که س نابینی. په ره ردگاری عالم ئه و آیه ته بو حبیبی خوئی ئه نیروی حقاً ئه وه رۆژیکه تاریخی هیچ پیغه مبه ری ئه و رۆژه ی نه دیوه ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ نظر به نظمی قرآنی مدون به نصر و فتح و فیروزی ئه توانن به مصلحي اجرای ئایینی خوتان بکه ن حر و سه ربه ست بینو بچن بو حج وه قرابین صرف بو خوا ذبح ئه کری هیچ درکتان له سه ری نی یه ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ئیوه مشرکان منع ئه کهن، شکری خودا بکه ن له چ رۆژی

گہ یشتنه چ روژی ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ حقاً زور زلتان دیت گہ لی تالوتان چیشٹ تهرکی دارو دیارتان کرد. نفس ونفیسیشٹان صرف کرد، نہایتی صبرو ثبات وغیرہ کیشتیان تا نائی فتح ظفر بوون. حقیقہ شایان کہ دینی اسلام بہو قدسیہت وعلویہتہ دین وئیینی ئیوہ بی. خوا بہوہ راضیہ ہیچ اعتراضی لہ ئیوہ نی یہ، دین ووفاو غیرہت وعزت ومہردایہ تی لائقہ بہو نوعہ دلایوہرانہ. وہ نظر بہ یومی نزول ئہمرو دینم بو ئیوہ اکیمال کرد. اصول وفروع، بہ اجمال وتفصیل تقرری کرد. لہ مہیانی احکام. امری اجتہادم بو علمایان ہیشٹہوہ تا ئیوہ قومی متفکر بن اہلی استنباط واستخراجی احکام نہک وہک ببغا ئہوی پیتان بلین وا بلین، چوار دلیل بو ئیوہ ثبت کرا. کتاب، سنت، اجماع، اجتہاد بہ قیاس وغیرہ قیاس. ئیتر زیدہی ونقصانی نی یہ بہس توسیعی دائرہیہ. وہ لہ مزایای اسلامہ فرق لہ بینی زمانی وسعت وزمانی تہنگانہی فرقی نویژی حضر وسفر فرقی خواردن لہ ہنگامی بون ونہبون

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ئہگہر مرداریش بخون بہقہدہر ضرورہ باکی نی یہ بہلکو واجبہ اما چونکہ تازہ لہ (عہربان) ((مؤمنان)) حرام کراوہ میل بہلای تحریم زیاتر ئہنوینی ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ لہ غیری بہیمہ الأنعام سائری حیوانات بری وبحری ما یدب وما یطیر وممکنہ سؤالہ کہ عام تر بی حقیقہ سؤالی زور بہجی یہ نشای ((غیر محلی الصید وأحلت لكم بهيمة الأنعام)) ہ ہیچ دخلی بہقتلی صہگہوہ نی یہ، جمعی لہ عشاقی روایہت نقل ئہکہن لہ ابي ((رافع)) ئہلین ((جبریلی)) آمین ہاتہ لای پیغہمبہر اذنی دخولی طلب کرد، پیغہمبہر اذنی دا ((جبریل)) تأخیر بو لہ ہاتنہ حضور، پیغہمبہر لوی چو ئہویش لہ بہر دہرکہی راوہستابو فہرموی اذن مان دابوی بی یہ ژور بو نہہاتی؟ ((جبریل)) فہرموی بہلی اما ئیمہ ناچیتہ خانوی صورہ یا صہگی تیا بی تماشایان کرد گوجیلہ

صه گیک له خانو دا بو ((أبو رافع)) ئه لی آمری کرده من هه ر صه گیک له مدینه دابی بی کوزم، منیش آمرم به جی هیئا.

جماعه تی هاتن عرضی پیغه مبه ریان کرد چی بو ئیمه حلاله له و أمه ته ی که أمرت کرد به قتلیمان، پیغه مبه ر سکوتی کرد ئه و آیه ته نازل بو. توخوا له و قسه پروپوچانه گهرین سوال له کی؟ جواب له کی؟ تعجب ئه که م محدثه کان کویان

قبول کردیه که ی ((جبریل)) هاتبیته لای پیغه مبه ر أستئذانی کردیه؟ ﴿قُلْ

أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ هه رچی پاک و خاوین طباعی سلیمه نَفَرْتِي لِيْ نَهْكَا، له

ئیه حلاله. لام وه به أمری مراجعه ی أطبای کیمیایون بکهین باشه، ئه وه ی موافقی مزاجی بشری بی نه فرهت و دهردو به لا حلاله، ئه وی تر حرامه ئه وه ش بو ئه و حیواناته ی که نصی له سه ر نه بی و إلا حاجه به مراجعه نی یه. له ((توراتی)) که الان لای ئیمه یه بو حیواناتی چوار پی قاعده أخذ ئه کری،

هه رچی دوو سم بی وه کاویژ بکا حلاله، ما عدا ی دی چی یه ک سم بی وه کاویژ نه کا یا کاویژی بکا وه دوو سم نه بی وه ک حوشتر که رویشک یادوو سم بی

وه کاویژی نه کا وه ک به راز لییان حرامه. ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ نیچیری

حیواناتی راوی چ به بال چ بی بال ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ زور باش فییره پواتان کردین یعنی به تعلیمی که م اکتفا ناکری ئه وانه ی فییره راویان ئه که ن ئه بی زور مه لا بن

له و علمه ﴿تَعَلَّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ له طرقي تعلیم و تأدیبی فیری نیچیر گرتن.

خوزی بمزانیبایه شیخی اشعری له طریقی ئه و تعلیمی الهی چی ئه لی. وه حیه؟

إلهامه؟ خلقی علمی ضروریه؟ کامیانه؟ ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ له وه ی بو

ئیه یان راگرت بخون، ئه وه ی لییان خواردبی دیاره بوخویانه مه یخون. وه

هیچ فرق نی یه له بینی سباع و طیور بعضی فرقیان کردوه اما قولی بی وَجْهَهُ

عجائبه له ((مالک)) و ((لیثی)) نقل ئه که ن ئه گه ر لیثی بخوا ئه خوری. حتی

روایه تیان له ((سَلْمَاو)) ((سعدی ابن أبي وقاص)) و ((أبو هريره)) ی کردیه.

نه گهر کلب دوو به شیشي بخاوو ثلاثیكي مابي بیخون. نه مانه تفسیري نه و آیه ته چون نه که نه وه یا نه بی بلیین منسوخته، بلیم چی؟ اختلافیان ری علمی له نیمه به ستوه، ته ماشای قیمة تی علم که ن له نظری خوا نیچیری کلبی معلوم حلاله له بهر علم. دست کورتي مشرک حرامه له بهر جهل وه بزنان چ نوعه علمی لای خوا مقبوله، معلوم اکثری نه و علمی نه و علمی که خومانې تیا نه کورتي لای خوا قیمة تی نی یه. ﴿وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ له سهر خواردنی ناوی خوا بیین زور موافقه پاک و خاوینه جی وهیه ناوی خواي له سهر بیین. نه و معنایه مختاری (أبو حیانه) لام زور جوانه نه گهر چی ((سیدی آلوسی)) نه لی دووره. یاله وه قتی تاژي مثلاً بهر له نه که ن ناوی خوا بیین نیمه نه وه انکار ناکه ین بابه حدیث اثبات بی. بعضی نه لین نه گهر به نیچیره که گیشتن حیاتی تی مابو ناوی خواي له سهر بیین تذکیه ی بکه ن. لای من نه وه له عباره تی قرآن زور دووره ((سیدی آلوسی)) یش به قیلی داناوه ((تفصیلاتی له تذکیه لازمه)) ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ له محرماتی خاصه له مسأله ی صیدی مکتب ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ زور ناگاداره که م و زوری لی بز نی یه. نازام بو چی ملائکه هنده خوایان له سهگ نه پاریزن وه خواي تعالانیش نیچیری ((سهگی)) له نیمه حلال کردوه. نه گهر عرضی ((أبو رافع)) که ین جبریل وأمثالی جبریل ناچنه خانوی که ((سهگی)) تیابی یا هه موو ملائکه حتی کرام الکاتبینیش که وابی مرحباً له راو که ران هه رچی نه ی که ن ملائکه ناگیان لی نی یه. نه بی ته ماشای راویش نه که ن به لی آمری پیغه مبهری به ((سهگ)) کوشتن بی حکمه ت نی یه. نیمرو بشر له و دستوره زور خیر نه بیینی خصوص ((سهگه)) گره وه کانی بهر له کوشتنیان لازمه، نه وانیش نجاتیان نه بی انسانیش دهر دو به لای که م نه کا. نقل نه که ن له شاهي ((نقشبه ند)) له أوائلی معنا مأمور بوو به تداوی کردنی سهگه کانی گروو و بریندار شهل ونه خوش. نه ی فهرمو که تیمارم نه کردن نه نوزانه وه دوعایان بوم نه کرد من هر بهر که ته کی نائلې بووم له

دوعای ئو سہ گانہ ی ئہ زانم. سبحان اللہ ئہ مہ حالی شاہی نقشبہ ندہ ئیستا گہ لیٰ لہ اُتباعہ کانی لہ سہ گی گرد خراپ ترن. حاشا اُتباعی ئو نین بہ لکو ناوی ئو زاتہ محترمہ بہ ناوہ بَدَل ئہ کەن. خوا بیان کوژی ئو سہ گانہ لہ کۆل مسلمانان بکاتہ وہ. ﴿ **الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ** ﴾ عام لہ حبوبات، لہ محصنات، انسان ئہ گہ رحسیاتی ہبئ لہ زہمانی منکوبی وذللت لہ دەست دوسمن ہەرچی بیخوا وہلہ و اَلَّذِي اطعمہ بی لای ناخۆشہ تالہ گہ روگیرہ، کە سہر کەوت شتی ناخۆشیش لا خۆش ئہ بی. خۆش گوار، بہ خۆشی بہ گہ روی دا دە چیتہ خوار. ئہ ی مجاہدینی ربی نۆشی گیانتان بی ہەرچی پاک و خاوینہ بو ئیوہ حلال کرایہ ربی لیتان حلال بی و ہک شیری دایکی خۆتان. وادیئہ بہر حیسی حقیرانم رسولی اکرم کہ ئہ م ئایہ تہ ی لہ (مَشْعُرُ الْحَرَامِ) لہ سہر سَوَادِي اعظمی مسلمانان خویندۆتہ وہ بہ دەنگیکی بلند لہ قلبی قوی وہ بہ نشاط بہ نوعی کہ لہ کیوی کہ ئی عرفات دانگی دایتہ وہ و ہدلی مسلمان لہ استعمالی بانگی مُحمدي دلیان و ہک نقارہ خانہ ی طَرَب لئی داوہ و ہو چہ خۆشہ دەنگی قائد لہ پاش ظَفَر بہ خوا لہ گوئی شاکری ظفر اُتر گہ لیٰ لہ عودو کہ مان خۆشترہ. ئہ ی واہ مع الأسف ئو دەنگہ نہ ہاتہ گوئی ئیمہ لہ آیامی نحوستی ئیمہ بہ غیری نوکہ نوکی حُزن، سہر دولکە ی ماتہ م، شکستمان نہ بیست. ﴿ **وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ** ﴾ چ جو چ دییان لہ عہرہب لہ غیری عہرہب الا دیانی (بنی تغلب) امامی علی فہرمویہ تی ئہ مانہ لہ سہر دیانی نین بہ غیری شُربی خَمَر چیتریان لیٰ دہرنہ گرتوہ. حبوبات بی نِزاعہ، نِزاع لہ زیحہ یانہ، نقل دە کەن لہ (ابن عباس) مقصد لہ طعام زیحہ یہ، حبوبات جیی قسہ نی یہ. (سیدی آلوسی) دەلیٰ اکثری مفسرین لہ سہر ئو قسہ نہ کەوابی (عشای) ربّانی دییان لہ ئیمہ حلال نیہ، و ہ شرطی معقول دہریان کراوہ وہ لہ اِضافہ ی طعام اِستفادہ دہ کری طعمای اہلی کتاب بہ و شرطہ خویان لیٰ بخون لہ ئیمہ ش حلالہ، ئہ گہر خویان لیٰ نہ خون و ہک حیوانی (تریفہ) حہ رامہ. ظاہر

واہ ئه گەر به ناوی (عزیز) یا (عیسی) ذبحی بکەن حَلال بی، اَمَّا لای (إبن عمر) حەرامە .

(حَسَنِي بَصْرِي) دە فەر موی ئه گەر گویت لی بو ناوی غیری خوایان هینا مه یخو حەرامە، وه إلا مباحه . اَمَّا مه یلی حَقیر له سەر ئه وه یه مادام (أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ) بی حرامە . عام تخصیص دە کری مطلق مُقَيَّد دە بی. که سی ته ماشای

تفسیری (سید رشید) بکا له إختلافي علمایان سەری سور دە مینئ ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ ئه و طعامه ی له ئیوه حلال کرا هەر له ئه وه یه له وان حلال کراوه .

جه نایي حَق طیبات له که س حەرام ناکا . جو ئه وه موو شته طیباتە یان له خو حەرام کردیه بی معنایه، حَتَّا فازو قولینگ وبو قلمون . لاقیدی دییان له (عیسی) وه نیه له (بولص) ه وه یه . أحكامی إلهی بی علتو حکمه نابی له مقتضای حکمه تیه تی گوشتی له انسان حلال کردوه . طبیعه ئه یه وی ذاتاً کائنات یه کتر ئه خون به شریعت به س بو تعدیلی طبیعت حکمی هه یه . هەر دینی بالکلیه له سەر خلافي طبع دانری منهدم ئه بی . که وایی که س حَقی إعتراضي له شرانعی سماویة نی یه . سبحان الله ئه وه ی بَشَرٌ ئه ی خوا له حیوانات روژ به روژ زیاد ئه کا . ئه وه ی نای خوا زور که مه ئه وه سَرِّي غریبه . یاخوت طعامی ئیوه له وان حلاله . که وایی ئه گەر إطعامیان که ن له حبوبات بیان ده نی له لحوم بو ئیوه باسی نی یه . ئه وان ئه ی خون یان نای خون

سندانیان بی. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ حُرَّةٌ یاعفیفه ولو جاریه ش بی. مُحْصَنَاتِي مُؤْمِنَاتٍ ئیمرو حلال نه کراوه به لام بو دفعی دَغْدَغه ئه ی فەر موی. زیرا قبائلی عَرَبٌ عداوته ی زوریان که وتوته به یین مه بادا له رووی کونه عداوت تجنب له یه ک بکەن . ژن له یه ک نه خوازن . إعلامی إباحه ی نکاحی مؤمنات کرا .

پیش دان محاربه بو بن . ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ هەر ملله تی أهلی کتاب بووبی مُحْصَنَاتِي وان له ئیوه حلاله ئیوه غالبن روژی عطفه له گه ل مغلوب . به أنواعی ملاطفه حتی به مصاهرة تلطیفیان بکەن . ترستان لی

نہین ئیوہ قطعی صلہ مه کهن. لای حقیر مختار ئوہ یه ئوہی له مبدائی وجود که خویه لیمان جوودا نه بووبی ژن لی خواستنیان جائزه. زیرا له مبدأ من حیث الاعتقاد إتصالمان هه یه. أمّا ئوہی له مبدأ دا جوودا بووبی وصل له بهینمان نابی. مصاهره له گه لیان حرامه. ئیمروکه روژی سیاده تی ژنانه وه عصری دین و ایمانه لای حقیر بو مسلمان جوازی نی یه له غیره دین ژن بخوازی. لاشک ئه ولا سه لامه ته.

﴿إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ وهك ژنه مسلمان سبحان الله خوا دانی مهري زور لا مهمه حتی عباره تی وا ئه نوینی که حلی مُحَصِّنَاتِ مشروط بی به إیتای مهَر. که چی مسلمانان أبداً اهمیه تی ناده نی. ﴿مُحَصِّنِينَ﴾ به نکاح خو له قه لا ((قلعة)) نین خاوه نی عفة بن. یاخوت ایمانتان مُحَكَّمْ کهن. ﴿غَيْرِ مُسَفِّحِينَ﴾ زنا کار مه بن ﴿وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ دوست و بناژویان مه گرن. ئه ی وابی...! که ی؟ نیرو می ئه بنه دوستی راستی بی میلی خیانه ت. احوالی بشر له سایه ی غریبان زور گوپاوه ئه بینی ژنی قولی له قولی دوستی هه لکیشاوه وه میرده که شی به دویان دا ئه روا گه لی مسرور و ممنونه، شرفیش گه لی که یفیان به و نه وعه دوستیه دی. که سی ته ماشای جرائدو مجلات بکا ئه بینی له رویی دوستی چی فضائح ئه قهومی. أمّا لای منورو مدنیه کان هیچ عه یب و عاری تیا نی به. حقیقه چون انسانی غیور وه به ناموس هه ز ئه کا ژنی ته نها بو خو ی بی وه ک کابرای خوشناو به ژنی خو ی ئه گوت: فاتی خو زیا خو زیا به ته نیم ئی خو بای.

ژنیش هه ز ئه کا پیاو به ته نی ئی خو ی بی، هه ردوولا عفیف بن چاو له دهر نه بن ئه وسا به سه لامه تی رای ئه بویرن مقاصدی ازدواج به جی ئه گه یین ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ مفسران تأویلی ایمان به (مؤمن به)، ئه که نه وه یعنی ئه وه ی انکاری شرایع بکا وه قبولی نه کا ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ من لام وایه حاجه ت به

تأویل و تقدیری مضاف نی یه، یعنی ربُّ الإیمان، که سبب به ایمان کافر بی گویا ایمانیه به یه به خواو به شرایع اما انقیاد ناکه نئوی خویمان په سندی بکه ن، نئوی نئکه ن، نئوانه نئوی نئیکه ن هدره هه بایه.

گه لى که س ایمانیه هه یه خوا (عَنِّي عَنِ الْعَالَمِيَّةِ) نئو ایمانه ده کاته سببی انکاری گه لى احکام که جه نابي حق له رووی لطفه وه اعتنای پی کردیه آن زیاده بو نئو احکامه ی عاندي ژن ومیردایه تی بیت انکاری ده که ن ده لین لای خوا نی یه. زور کفریان هاتیه ناو اعتقادیاتی اسلام. که سى ایمانی به ونوعه کفریاته نه بی، لایان مسلمان نی یه. ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ وه ک مازی که ری کون له پاشو لی له سبه ی تا ئیواری مازی نئکا نئوی هاو یته پاشو لی لی نئکه وی ناگای لی نی یه. ئیواره صفر الید دیته وه مالى ﴿يَتَأْتِيهَا

الذین ءامنوا﴾ لایخی نئو روژه که امر کرا به توجه بو مسجد الحرام مقصود نئمرو بو. بوی له وی باسی دست نویژی نه کرد. نئوی ایمان دارینه گه یشتنه مرام کعبه تان پاک کرده وه له اصنام، طعامی پاکتان لی حلال بوو. ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ له خه وه خبر هاتن وه ک امامی شافعی نئفه رموی: یا که بی دست نویژ بوون، وه ک له شرطی تیمم به دهر نئکه وی، که وای حاجه نی یه بلین دست نویژ بو هه موو نویژ له صدري اسلامه تی واجب بوو دواپی نسخ کرا إلا بو بی دست نویژ. که هه ستان بو نویژ کردن ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ رووی خوتان بشون ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ تا نائیشک. نائیشک بالضرورة نئبی بشوری وه ک بعضی له سه ر بو دم وچاو ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ دست به سه ری خوتان دا بینن ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ لاقتان بشون ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ تاهه ردوو قاپان به پاک و خاوینی پوو بکه نه کعبه دست ودوولاقتان له غباری شهر بشون، له خوینی اعداء دهستی خوتان پاک که نه وه، به سه ری خاوین بی اغبراری ذله نویژ بکه ن، سه ری افتخار بو خوا

له وانه كافيېه بؤ إنقراضى عاجل، فقر، عداوه تى خوږه خوږي، أنواعى نه ساغى. پاش چه ند سالى ئه وانه منقرض ئه بن. ئه وجا بى شه رو ده عوا ميراتيان تقسيم كهن)). ﴿وَلَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ به وهنده فتوحاته راضى ني يه بؤتان زياتر ئه كا ئه وهش له قضا ئه خوازى دىنى به سماحه تان بؤ دانى، نه ك به إجراي ئاييى مشغول بن، چتان وپى نه كرى و ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦﴾ كه خودا به دىنى گران مشغولى نه كردين، دىنى پاك وخفيف وهك روح خفة كه واته به دهن به نشاط وحرکه ي ئه خات. ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ له بىرى مه كهن له حالى هينايه چى حالى، دىنىكى دانى چ دىنى..! كه پى بويىنه سيدي دنيا و آخرت ﴿وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾ بداي له آخري سوره ي بقره تى پهرى ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ دائماً تذكارى بكه ن به ته واوي (غفرانك ربنا واليك المصير) إلى سهرى ئه م سوره ته. إطاعه ي امرى خواو پيغه مبهرو أولوا الأمر بكه ن، رابطهي اتحاد تيك مه دهن.

ناشكرى نه بى وا پسا جارى تر گرى نادرته وه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اول و آخر ظاهر وباطن، سرو علن خو بپاريزن له خوا بترسن خاصه له إعتقاديات ناگادار ين به إيمان توشي كفر نه به ن ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٧﴾ ما فى الضمير له و بزر نابى كه سى به دقة بنوارى ئه زانى ذكري ده ست نويز چه ند له و مقامه چه ند منتظم وجوانه. نويز له أوائلى اسلاميه ت واجب بوو، ده ست نويز ئه شورا نيزيكه بليين ئه و آيه ته زور پيش تر نازل بووبى، اما مناسبه هه لي گرت بؤ ئيره و جمله ي ((إذ قلتم سمعنا وأطعنا)) ئه و سوره تانه چون پيك ئه چه سپينى سبحان الله چى ناظميكه..! ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ به راستى نه هه ر به عنوان ﴿كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ﴾ زور قيام كهن به به جى هينانى حقوقى خوا حقى له سهر ئيوه زوره، ﴿شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ شاهدي به حق وعدل بن، أولا

له سهر وحدانيه تي إلهي ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. الآية ثانياً له سهر حقيّه تي رساله تي حضرتي محمدي، ثالثاً له سهر حقوقي عباد هه ركي بادا باد. ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ﴾ ﴿شَدَّتِي رَقِي نِيَّوَه لَه وَان يَاءَه وَان لَه نِيَّوَه﴾ ﴿عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ﴿ثَه و عداوه ته حملي نِيَّوَه نَه كاته سه ر ناعه داله تي﴾ ﴿أَعْدِلُوا﴾ ﴿ثَه ي ايمان دارينه ده باره ي دُوست و دوزمن خوئيش بيگانه ده وله مه ندو فقير﴾ ﴿هُوَ﴾ ﴿عَدْلِي مَفْهُوم﴾ ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ﴿عَدَالَت لَه هه مو شت نيّزيك تره له تقواو خوا په رستي زيّرا عدالت وه سه طه له بيني إفراط و تفريط ناوهند له هه ردو لاي خراب دووره، حتى عدالت له إيمانيش لازمه، كه سيّ إفراط كا له إيمان توشي كفرو جهالت نَه بيّ، توشي إنكاري بديهيات و مشاهدات نَه بيّ، حَق نَه كاته تابعي فكري خويّ، نابيّه تابعي حق، حتى ((إفراطي في الإيمان)) رابطهي موجوداتي له بعضه كه س تيك داوه، نَه لَيْن أرتباط له بيني هيچ كائنات دانيه. ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿كُوو جنابي حق، حقي أدني كه سيّكي بو حبيبي أكرمي خويّ ضائع ناكا، نِيَّوَه ش حقي كه س ضائع مه كه ن، خواي تعالان ربّ العالمينه په ره يّزكاري نَه و بكن ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨﴾ ﴿سِرُّو عَلَن﴾ ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ﴿چا كه به گويره ي وخت بگونجيّ وه مناسبي حالي عامله كه بيّ، گه ليّ ده وله مه ند هه ند له أيامي نيمه كتكي (أبا هريره) نمه كيان ناكا شه وو روژي ده هه زار صلوة ليّ نَه دن، نَه بيّ خوا به وه عده ي به جيّ دابنيّ..؟﴾ ﴿هُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٩﴾ ﴿كافيّه أجرىّ كه خوا بفه رمويّ عظيمه﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ﴿كفري بالله وبالرسل سه ر چه شمه ي هه مو سيّاته، ياخوت هه ر سيّاتيّ بيّ نَظَرُ به كَفَرُ لا شَيء شاياني ذكرني يه﴾ ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿خويان صاحبن، حاجه ت به وعد وعيد ني يه﴾ ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ﴿چه ند

خوشه و ئه و ندایانه له گۆشی هۆشی أهلی ایمان ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ لای أهلی مروّت تذکاری نیعمه تی منعم خصوص حفظ له دوزمن له و جائبه، وه تذکاری کُلی جار سروری زور عظیم ئه داته انسان ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ﴾ أما چی قوم، قومی جهنگی مستعد بو غلبه. ﴿أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ دهستی تطاول و قتال بو ئیوه دریژ کهن ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ ظاهر وهیه ئه و قهومه، ئه و قهومن که إعلانی حیادیان کرد، معاونه ی هه م دینی خویانیان نه کرد، ئه وهش له ترس نه بو، به لکو شتی بو له طرفی خواهاته دلّیان وایان بو شیرن بو، که مداخله ی هیچ لایئ نه کهن. أما ئه وه ی له سببی نزولی نه لّین که حضرتی رسول چوو نه دیوی شیر ی به داری هه لاوسی ((غوٹ بن حارث)) چوو به دزی شیره که ی هینایه خوار هه لی کیشا چوه سهر پیغه مبه ر، گوتی ((کی حفظت ئه کا له من؟)) پیغه مبه ر فه رموی ((الله)) کابرا له رزی وله غزی و کهوت، پیغه مبه ر شیره که ی له سهر راگرت وفه رموی ((من یمنعک منی)) کابرا طلبی عفوی کرد، هیچ مطابقه ی له گه ل عباره تی قرآنی نی یه، ئه گه ر چی حفظی رسولی اکرم لای ایمان داران له فوقی هه موو نعمه تانه، حاصلی روّاتی أسباب نزول چه رته میان زوره ﴿وَأَنْقُوا لِلَّهِ﴾ له هه موو اوقات ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هه رئه وه ئه وه ی له عهدی وانه بویان به یان ئه فرموی ایقظیان ئه کا ری غه فله ت وغروریان نادا، ئه وی عانیدی خو ی بی بویان ئه کا، ولی گه لی دوشمنیان له حق نه رم ئه کا. ئه وه مو ئیشه باشانه کی بویان ریك ئه خا غیری خوا؟ لاشک أصحابی گزین معنابی توکلی علی الله یان به ته واوی زاناندوه، نه وه ک أخلاق خاصه بعضی أهلی تصوّف بویه دائماً بهر حذر بوون بعد إكمال العدَدِ والعدَدِ دلّیان به خوا مربوط بو. أما ئیمه پال ئه دهینه وه سعی و کوشش ناکه ین ئه لّین متوکلی علی الله ین، حاشا حاشا ئه مه توکل نی یه، سستیته ته نبه لیه، ((أصحاب)) صلاة الخوفیان له فکر نه چوه،

((حُذُوا حَذْرَكُمْ وَلَا تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ)) یان دائما له یاده . ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ کہ عمل به آمری خوا بکن وه له إطاعه ی رسولی خو یان بن به و جوړه که په یمانمان له ئیوه وهرگریته ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ﴾ هه ناردومان له خو یان بو خو یان ﴿اثنی عشر نقیباً﴾ هه سبٹی نقیبی رئیس ی ته ماشای آمریان بکات، دائم له تفتیشی أحوالیان دابی ئیوه ش ئه و دوری خلافت و ملک و سلطنه تان نزیک بووه هه ر عشره ته و رأسیکی هه یه ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ به واسطهی رسول ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ من له گه ل ئیوه م ناگادارتانم ﴿لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ که رابطه یه له به ینی عبء وخوا بو ده و امی حضوری خدمت خوا داندراوه ﴿وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾ له زکات دانه بو أهلی استحقاق چاکتر نی یه، فقرو تسأل وهر زاله ت له به ینی أمه ت ناهیلی، ئه ویش رابطه یه کی زور به قووه ته له به ینی مله ت.

﴿وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ هه ر که سیکی بی، اسرائیلی یا غیره اسرائیلی ﴿وَعَزَّزْتُمُوهُمْ﴾ نصره تیان بده ن له گه ل تعظیم شه ره فی مقامی نبوه ت محافظه بکن. رزائی که مناسبه ی نه بی له گه ل نبوه ت نسبه تیان پی نه دن. خاصه شتیکی عائی عرض و ناموس بی.

حقاً بنی اسرائیلی نه حفظی مقامی ألوهیه تیان کرد نه حفظی مقامی نبوه ت أمه تی ئیمه ش ألان زور دور نین له وان ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ زیاد له زه کات ئه وی لازم بی بواعتلای شأنی ملت و أمت، بو استحصالی مال صرف بکن بیده نه خوا به قرضی حسنه، ئه گه ر ئه مانه به جی بی نین ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أثری گونا هانی سابقه له نفوسی ئیوه ناهیلین، یائه گه ر ورده ورده بعضه ئیشی نابه جیش بکن، لی تان خوش ئه بین. ﴿وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ﴾

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿۱۱﴾ له دنیا وه له قیامت ﴿فَمَنْ كَفَرَ
 بَعْدَ ذَلِكَ﴾ پاش ئه وه عهد و پیمانہ ﴿مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
 السَّبِيلِ﴾ ﴿۱۲﴾ پی راستی گوم کردوه، ئه وی جاده ی بی پیچوک و خواره که
 بزر بکا له کۆچه و دهر بونان پی دهرناکا. ﴿فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ هه لیان
 وه شاندا پارچه پارچه یان کرد بویه ﴿لَعْنَهُمْ﴾ له نصرهت و پر حمت دورمان
 کردن ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَدْسِيَةً﴾ رهق وهك بهرد به لكو له بهرد رهق تر.
 اما له پاش ئه وه مو مجارات و مداراته که خوا له گه لی کردن، نهك خوا له
 اولی دلّی رهق کردن بویه وایان کرد، وایان به سه ر هات. تفصیلی له سورہی
 (بقره) زاندرا.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ کلامی إلهی له موضوع له خوئی
 لائدهن، چۆلی ئاره زویان کرد له گه ل غرضی خوئیان بی زیاده یانقص یاتقدیم
 و تأخیر تا تأویلی پروپوچ پیکی ئه خه ن ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ بی
 له وه که کتابی اصلیان نه ما، به شی گه وره یان له وه ی که پیی وعظ ئه دران له
 فکریان کرد، از جمله ئه و میثاقه یه که تازه به یان کرا. ایمانیان له حهق خوا
 صحیح نیه، به گه لی پیغه مبه ر کافرن، جهه تی اتحادیان نه هیشت ﴿وَلَا تَزَالُ
 تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ قومی خائنین به غش پاک نابنه وه، تو خبردار ئه بی
 به سه ر خیانتی وان جوسته جوسته بۆت ئاشکرا ئه بیئت ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ یعنی
 اکثریان خائنین که میکیان هه ن به صادقی مسلمان بوون وه کو (عبد الله بن
 سلام) ره ضای خوی لی بی، وه بعضه کیان مسلمان بوون وه کو (کعب الأحمبار)
 و (وهب بن منبه) خالی نه بوون له خیانهت، له گه ل مسلمانان خیانه تی وان
 خراپتر بو له خیانه تی ئه وانی مسلمان نه بوون. خرافاتی اسرائیلیان هیئا ناو
 اسلام له بهر حسنی ظن لی یان قبول کردن، گه لیکیان بعد عصر بوونه حدیث

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ عفو (عند الأقتدار) ه. ئە مرپۆ ﴿وَأَصْفَحْ﴾ إعراضیان لی نی
 وخیاناتی مخفیہ، تجاوزیان لی بکہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿۱۳﴾ عفو
 إعراض له و خائنانه احسانی گہ ورہیہ له حقیان. له زہمانی رسالت تا ئە مرپۆ
 باوجودی مسلمانان له حقیان زور به لطف بوین، له خیانت خالی نہ بوین،
 باز مسلمانان مسامحہیان کردہ، ئە و حقارەتی کوشتن و برینی سائری أمم به
 جوانی کردہ، مسلمانان پیان نہ کردینہ. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
 نَصْرَى﴾ له وانیش ﴿أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ﴾ ئە وان لای خویمان أمہ تی رسولی
 سلامن یاخود عبادُ الله مُسلمن، بہ و گویرہ میثاقیان لی وەرگیرا ﴿فَنَسُوا﴾
 ئە وانیش وەک جوان له فکریان کرد ﴿حَظًّا﴾ أمّا چ حَظِّي؟ نَصِيبِي زور
 گہ ورہ ﴿مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ خاصَّةً تذکیر به حالی (یہود) مع هذا ئە وان له
 جوان خراپتربون له ناشوب وفتنہ ئەنگیزی سبقیہ تیان کرد ﴿فَأَعْرَبْنَا بينهم
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ دوژمنایہ تی وړقمان ہاویشتہ بہین،
 پیمانہ وە نوساند، وەک سہی بہ سہی وہ ئەنن، وەی دیان لی ئەکەن چہ پلہ یان
 بو لی ئەدەن تا بہ گژیہ کا بچن ﴿وَسَوْفَ يَنْبِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ﴾ ﴿۱۴﴾ مقصد له بہ یانی حالی طائفہ تین عظہ و اعتبار بو
 مسلمانان.

ئە و عہد و میثاقہی خوا له گہ لای کردبون، تیکی نہدەن. إعتقادیان
 دہبارہی خوا پاک بی تعظیم و توقیری (رسولی اکرم) بکہن. له أمر و اطاعہی
 دابن نگہ دار بن بو محافظہی رابطہی اُخوہت، له مکایدی دوژمن غافل نہ بن.
 مع الأسف ئە وانیش تیکیان دا، ہندہ نہ چو پاشی وە فاتی پیغہ م بہر
 دەستیان دا شمشیر چەند مەیدانی کارزانیان له خوئی یەک سوور کرد،
 تفرقہ یان بوولہ إعتقادیات له عبادات له تدبیری مُلک و سیاسەت، چەند خلافەت

وملكيه تيان تشكيل كرد، له بهر شه پو شوري خويان هه موو منقرض بوون، تاده وله تى عثمانى پى گه يشت، اسلام قوه تىكى بوو، نه وانيش له گه ل حكومه تى ايران تىك گيرسان ده وامي حرييان بو، هه ردوو لايان سست بوون. نه وروپاي قوه تيان ساند ورده ورده به تجارته به دوستى به (رقص) وبه (دانس) به كارخانه چيه تى به شهر به طوپ و طياره، له هه موو جوانب به سهر موسلمانان غالب بوون. تا حربي عمومي به جاريك وه حده تى اسلاميان تىك دا، بو اغواء مبشریان بلاو كرده وه تا موسلمانان وه رگيرن بيانكه نه دييان. به تحريكاتي وان چهنه كه س وهك باب وقاديانى (هندي) وه بهاي (ايراني) هه لستانه سهر پى ده عواي رساله تيان كرد، ألان به كمالي حريته ده عوه تى موسلمانان نه كهن بو ايمان به و جرو جاموشتانه. موسلمان بى صاحبن، اسلامه تى بى كه سه. بعضه مه لايى وهك (سيد رشيد) وامثالي وي بينه كه س به جواب ناي. حاصلې اسلامه تى چ روژي واي نه ديوه، دوست و دوژمنى لى بوو به دوژمن. ألان كان كما كان، مه لا خه ريكي نزاعي (معتزلي) يانن، (جعفري) له سهر ماته م وزيره تى (امامان) ه، فاك و فيكى شيخ اوليايان له وى پاره سستى، شيخ قطبه مدبري عالمه له گه ل ده وراتي كائنات تيكه له هيچ شت بى امر و اراده ي وي حركه يك ناك. خودا نه گهر رحميك نه كات زور ناچى به جارى ديني اسلام مه حو ده بى (نعوذ بالله تعالى).

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ﴾ جوو وه دييان سائري اهلي كتابي سماوي ﴿قَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾ زاتى كه حقه شياننه خوا به رموى رسولي نيمه

﴿بَيِّنْ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ده ليل

له وه ي ئاشكرا تر نيه، بعضي احكام كه متداوه له بلين له السنه ي عوامي زانيوتي. نه دي نه و احكامه زوره ي كه خوتان بزري نه كهن له كى بيستوه؟ دياره صرف به وه حي الاهيه، من نه وه م له هه مو اخباري غيب عجيب تره

کہ سیّ ناشارہزا بفہرمویّ له فلان مَذْهَبٌ ئو حکمہ وایہ، مع أنه له اکثری
علمای مَذْهَبُ بزرہ. في الحقيقة ئوہ ہیچ شائبہ ہلناگریّ.

﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ گہ لیک شتیش ہیہ إظهاری ناکا چونکی
إيجاب نابینیّ ئوہ ندہی إظهار ئوہ فرمویّ کہ خەلکی بزانی ئیوہ چ جانگہ کن،
مہ بادا خەلکی پیتان ہلخەلەتی بلینّ ألبتّہ خوارى نیہ ئوانہ ایمانی پیّ
نایەنن. ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ کاشف الحقایق مظهر الخفایا
نەتەنہا یدی بیضایہ. سہراپا نوورہ رووناکی ریّ راستہ. دەک له ہەر دووک
چاوان کۆر بن ئوگەر بہ إتباعی ئوہ نوورہ ریّ دەرئەکن ﴿وَكِتَابٌ

مُبِينٌ ﴿۱۵﴾ قرآنی کریم کتیبیّ و ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ﴾ ئووی تابعی رەضامەندی خوا بیّ ایمان نەکاتە قەومیەت و تعصبی
جاہلیەت بە لکو مقصدی خوا بیّت، ئوانہ بالطبع له ہەر کوئی نووریکیان چاوو
پیّ کہوت دواى ئوہون. خودای تعالان بہ و کتیبہ ئوان ہدایەت دەدا.
﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ سەلامی تەمام، راست، بیّ سیاسەت و درۆ.

﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ له تاریکی جہالەت و عبادەتی
طواغیت بو لای ئوہ نوورہ باہرہ دەریان دینیّ کہوابیّ له و نوورہ باز مقصد
ہادی سُبُل خاتم الرسلہ. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ زاتاً ئوہ نوورہی بوئە نارده کہ إتباع

بکری، ئووی بو لای ئوہ نوورہ بچیّ بو جہەتی خوا دەچیّ. ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾ ریّ راست بو مقاصدی دینی و دنیوی ﴿لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ سوادى أعظم له
نصارى ئه لّین عیسی خواہیہ عیسیایہ یعنی یەك شَخْصە عیساş پیّ ئه لّین
وہ خواشی پیّ ئه لّین، نەك دووی مُتَّحِدِن تا بلیین ئوہ لازمی مَذْهَبە، أبایە

(زَمْحَشَرِي) و (فخري رازي) و (بيضاوي) و ثوقيان به قرآن زياتر بيايه ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ كى مالكي شتى ئه بى له جهه ت خواوه؟ ئايا كه س ئه توانى معارضه و مقابله ي بكا؟ منعي قُدرتي إرادهي كبريائي بكا ﴿إِنِّ ارَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ كه ئه لئىن خوايه. ﴿وَأُمَّهُ﴾ ئه لئىن (أُمُّ الرَّبِّه).

﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ حَتَّا (پاپى) حضرتلري. نه (عيسى) مانه وه داكي. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. چين به چين ئه رواو موحو و نابود ئه بى. (عيسى) (وه كو خويان ئه لئىن) به نووره نوورد و گرین وزاري هاوار هاوار له دار درا نه لاهوت به كه لكي هات نه ناسوت. ئه و كلى له لاهت و ناسوت، مه لاو صوفيانى ئيمه ش به ده ميانه وه گرتوه ئه لئىن (عيسى) له قَبْر نرا خَوْل و به ردي به سه ركرا، زيندوبووه هاته دهر له قَبْر و چو بُو ناسمانان و له ته نيشت باوكي دانيشتوه. به خوداي لايزال (عيسى) نه بى (جبريل) بى بمرى و بيخه نه ناو قَبْر تا قيامت نايه ته دهر. به لى له په نارا (مليون) رپى درويان بُو واسعه، اَمَّا له شتي به ره و مهيدان ناتوانن قسان بكن. بعضه كُفْرى هه يه تَوْرى معقوله، اَمَّا ئه و نَوْعه كُفْره حقا كُفْرى كه رانه يه. ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ به خلق و ايجاد به تدبير و تَصْرُفْ عاندي ئه وه. ئه م اَرْض و ناسمان و مابينهما ما فيهما به (عيسى) خلق ده كرى؟ ئه ي به ريشت له گهل ئيشت! خوى زهرره يه كه له زهرراتي عالم، مقابل به و ملك و ملكوته عظيمه هيچ نانويى. ئه و طبيعه ته جَبَّارَه عاصيه ئه و قوه تي قَهَّارَه كه له كائنات دا هه يه بُو خوداي (واجب الوجوب) عليم و قدير نه بى، رام نابى. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ چُون إراده بكا له خالقي ناكه وى. تفويضي خلق و ايجاد بُو كه س ناكا. كه س له شئوني إلهي شرکه تي نابى غير ممكنه. گه لى مه لاي گه وره گه وره له ئيمه ئه لئىن به تَبْعِيه تي صوفيان خوي تعالان تفويضي امرى ((كُنْ فَكَانَ)) ئه كاته

بعضی اصفیای خوی . وای له و کفره عظیمه وائے زانن خوا به لفظ ایجادي
 اشیا ئے کات، ئے وه آمری تکوینیہ توجیہی قدرهت و ارادهیه، ئے و شانه شانه
 خویہ نادرئ به که س محاله . خوا له سهر خوی و شئوني ذاتي خوی قدرهتي
 نیه . شرطي مقدور امکانه . (ملیون) به شمولي قدرهت حکم له سهر ذات
 و ذاتیاتی خوا ئے که ن، ئے وه ش نه و عیکه له کفری بالایمان .

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ که ممکن بی، با به نظر عقل دوور بی، هه رچی بی .

أهلي علم فرق له به يني مُستحيل و مُستبعد ده کات ﴿قَدِيرٌ ۱۷﴾ أما ئے وه ی
 محال بی مقدور نیه . که سی تجویزی محالی بکا، هدمي هه مو ادياني إلهي
 ئے کات . ئے گهر محال جائز بیت، اثباتي صانعمان پی ناکری . چ قه یديه با ئے و
 عالهمه بی صانع بووی، ئے وسا نه ألوهیهت ده میئئ نه نبوهت . نه (أب) نه
 (إبن) نه (روح القدس) نه (أُم الأله) گشتی بای لی ئے دات . به لام طوري
 (مسیحیونان) و (صوفیونان) و رای طوری عقوله . ئے ی خاک به ده هه نیان ئے گهر

بچین بو طوري و رای طوري عقول ئے م باس و خواسه هیچ نامیئئ . ﴿وَقَالَتْ

أَلَيْهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ خدا مبارکی نه کا له و ابناءیه نا
 خَلْفَانِه له و أَحْبَابِيَه منافقانه قه درو قیمه تي ألوهیه تیان نه هیشت، خویان کرده
 مُسَخَّرُو تَابِعِي هه وای خویان . وه قتی جلالی کبریائی به نوعی به طلبی
 رؤیه تیان ئے کرد صاعقه ئے ی گرتن . (موسی) له پ و پروو بی هوش ئے که وت .
 ورده ورده گه یانندیانه دهره جهئ وه کی ذراتي حیویه ی حیوانات بچینه ناو
 په حمي کچه جووی بی به (عیسی) بیبه ن بو دار نفي لی که ن تاجی درکی

له سهر نین به هزار ئے تک و سیاست له داری بدهن . ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

بِذُنُوبِكُمْ﴾ ئے گهر ئیوه ابناءو أَحْبَابِي خوان چوئن له بهر ده سستی دوژمنی خوا
 په زیل ئے بن؟ قبله گاهتان خراپ ده کری؟ یابوچی شتی وائے که ن خوا عذابتان
 بدات؟ آمری به جئ ناهینن ئے وه ی ئے و لای ناخوشه ئے یکه ن، حقی بئوهت

وَمُحِبَّتِ وایہ؟ ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ حاجہتی بہ ابناء و احبا نیہ عالم

مخلوقی ئوہ، کہس لہ سہر کہس امتیازی نیہ، إلا بہ تقوی نہبی ﴿وَإِلَيْهِ

الْمَصِيرُ﴾ ﴿۱۸﴾ مبدای وجود لہ وہ، گہرانہ وہ بؤ لای ئوہ. ئو وہقتہ معلومتان

ئہ بی چتان بہ سہردی. گہلی مسلمانان ادعا ئہ کہن ئیمہ خوشہ ویستی خوداین،

ہہرچی بیکہین خوا لہ گہلمان بہ مُحِبَّتہ لیمان خوش ئہبی عذابمان نادا.

طائفہیک ئہ لین اولیاءمحفوظن یعنی گوناہ تأثیر لہ قدسیہ تیان ناکا، ئہوانیش

نا شکری نہبی توشی زلہت بوون حالاش بہ خہ بہر نایہن، خویمان بہ نازدار

ئہ زانن حالیشیان معلومہ. وامہ زانن عَزَّہ تی (نصاری) ئہ مرؤ لہ سایہی ابناءئی

و احبائیہ، لہ سایہی علمای طبیعہ تہ کہ خرافاتی مسیحیان فری دا، حتا لہ

قہیدی ایمان بہ خوا چونہ دہر، قوای طبیعہ تیان بہ قہ دہر حال کشف کرد

رییان بؤ استخدامی برد تہرہ قیان کرد. ہہمو مخترعہ کان لایان وایہ دین مانعی

تہرہ قیہ، حقا دینی جوو دیانان مانعی ہہمو شہرہ فہ. اما ئیمہ ئہ لین ئو

دینہ مُخْتَلَفہ اِلهی نیہ. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ (جوو) و (دیان) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ

رَسُولُنَا﴾ محمدی اسماعیلی ﴿يَبِّئُكُمْ﴾ ئیوہ لہ خہ لکی احتیاجیتان بہ

رہسولی زیاتر ہہیہ، بہ یانی حہقتان بؤ بکا، سبب بہ ایمان و ہرگہ راون. ﴿عَلَىٰ

فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ﴾ انبیاء و رسل لہ بنی اسرائیلی ہندہ زور بون نبوہت لایان

بوہ ملعبہ، قیمہ تی رسلیان لانہ ما ئہ یان کوشت رہزالہ تیان بہ سہر ئہ ہینان.

افترای ناشیرن ناشیرنیان پی ئہ کردن حکمہ تی اِلهی اِجابی کرد جاری رسول

نہ نیری، زہمانہ کی بکہ ویتہ بہین. بویہ گہلی لہ بنی اسرائیلی تینوبون بؤ

بعثی رسولی. خہ بہریان بہ قُربی زہمانی ئہ دا. خوا ئہ فہ رموی لہ سہر ئو

انقطاعہ طولی عہدہ وا رہسولی خومان بؤ ناردن. بہ یانی احکامی اِلهی

أصولی و فروعتان بؤ ئەکا. ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ مۇدەپە کە کەس نە هاتوہ لە طرف خودا بؤ سەر ئیمە بە شارەت بدابە مۇطیع عاصیان بترسینی ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ ئەواہات، یاخوا بە خیر بیئت، سەر سەران سەرچاوان. تە ماشاکەن چ بە یانە کتان بؤ ئەکا. کو حق و باطل لیک جودا دەکا. أخباری مسرەت أفزای بؤ أهلی تقوایه، خصوصیت لای ئەو نیه. ترساندانی بؤ أهلی شقایه. هیچ شخص بە ذاتی خوئی نە خو شە ویستە نە مَبغوضی خودایه.

فەرقي إسماعیلی و إسرائیلی لای وی نیه. ئە گەر چی (دار قطنی) بە و قسە راضی نیه. دەلی ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَخْتَارَ مِنْهُمْ الْعَرَبَ﴾ ئە و جا نۆرە عەرەبانە ببنا (شعب الله) و (أبناء الله) و (أحباء الله). ئە ی وای چۆن دواي إسرائیلیه کان کە و تن، ئە مانیش وە کی وان تی کە و تن ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾ حتا ئە توانی لە کُلی شعبی ره سولان بنیری ئە مه به مُحال مه زانن بؤ به هانه زیاتر وەر مه گەرین جه وابی ئە و ده عوه ته له طرف أهلی کتاب کُفرو عناده، ئە وه (شَنشَنه) که له أباو أجدادیان به میرات وەر گرتوه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ (علیه السلام) کلیمی خوا زه عیم أعظم منقذی أكبر ﴿لِقَوْمِهِ﴾ که آباي ئە مانه ن له عصري توودان.

﴿يَقَوْمِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ شکرانه ی خوا بکەن یادی نعمه تی بکەن که له حق ئیوه ی کردوه ﴿إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾ له خو تان حتا له تشریعی قوانین احتیاجتان به ملل وده وە لی دیکه نیه. حقا ئە وه نعمه تی کی گه وره یه، لای من أسیر ئە و قومه یه که إتباعی قوانینی أجانب بکا وکو ده وله تی بی وە کی (بریطانیا) استلای قطعاتی أرضی کردبی. ﴿وَجَعَلْكُمْ مَمْلُوكًا﴾ له أساره ت دەرچون بونه متصرفی خو تان حاکم له سەر خو تان. أما تشکیلی

ئو شیر وعسلہ نہ حرب له گهل ئو قہومہ. ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ دوو پیاو (یوشع بن نون) (کالب بن یفنه) ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ له بنی اسرائیلیان کہ دہ ترسان له جبارینان یا له وانہ ی کہ له خوا ئه ترسان یا له و قہومہ بون کہ بنی اسرائیلی له وان ئه ترسان له بعضی قراءت (یخافون) بہ بنا مفعول خویندراوہ تہ وہ، بویہ بعضی ئه لئین ئو دووپیاوہ له عمالقان بون ہاتبونہ خدمت (موسی) ایمانیان ہینابو بہ خوا. بہ و قراءتہ (زَمَخْشَرِي) تایدی معنای ثالث دہ کا، زور دوور نیہ.

ترسی وای غلبہ بہ سہ ردا کردبون له و اول و له آخر کہ سی بہ ہیژیان نہ مابو. بناءً علیہ معنای ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ بہ ایمان بہ حضرہ تی (موسی) یا جہ نابی حہق انعامی له گهل کردبون بہ غیرت و شجاعت و صبر و ثبات له حرب. حقیقہ له بہینی بنی اسرائیلی ترسنوک ئوہ نعمتہ تی فوق التصورہ.

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ دیارہ ئو وانہ شارہ زا بوین زاناندیانہ شار له کیئہ طرفی ئه گیری قوم معطل ئه بن ناتوانن شہر بکہن دہروازہ ی شاریان لی بگرن ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ﴾ ئه گہر چونہ ناو دہر کہہ ﴿فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ فہرمون پروولہ شار کہن مہ ترسن ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ دل بہ خوا ببہستن و ثوقتان پی ہہ بی ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ئه گہر بہ حہق ایمان دارن ﴿قَالُوا يَا مُوسَى﴾ ئو قسانہ پرو پوچن خو مان بہ فیرو نادہین. ﴿إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ ئیتر دریژہ ی پی ناوی ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ تو ئیمہت له (مصر) ہینادہر وہ عہدہت پی دانی بہ أرضی مقدس کہ (تَدْرُ لَبْنًا وَعَسَلًا) کو بحرہت بو شہق کردین انواعی خوارقت نواند بور تو له گہلأ خوات شہر بکہن.

ټه و قومه بشکینن دهریان کهن ټیمه ایشتراکي حهرب ناکهین لیږه
 داده نیشین والسلام. قومی له گه لآ زه عیم و سیدی خویان معامله یان و ابی له گه لآ
 تو چوڼ ټه بن! ﴿قَالَ﴾ حضره تی موسی له وان نا امید بو عرضي (کبریائی)
 کردبا ﴿رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمَلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ﴾ یاره بی ټه من هر نفسی خوموبرام
 به دهسته ټیمه له ژیر امر و ارا دهی توین، ټه و قومه خوټ ده بیني چوڼ لاساری
 ټه کهن. اما دوویاوه کان نظر به سوا دی اعظم نانوینن تابینه ذکر کردن، زاتا
 قومی (موسی) گوئیان نه دا قسه ی ټه وان حټا پروی خطابیشیان تی نه کردن
 ﴿فَاَفْرَقَ بَيْنَنَا﴾ خوم وبرام ﴿وَبَيَّنَّ الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ﴾ ﴿۲۵﴾ فصلمان له بهینا
 بفرموی نزاع وجدالمان ببریته وه ﴿قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ﴾ ارضي مقدسه
 حرامه له وان نایچنی ﴿اَرْبَعِیْنَ سَنَةً﴾ ټه مه جزای تمردیانہ ﴿بِتِیْهُونَ فِی
 الْاَرْضِ﴾ له ټه و چول و صحرايه به مُتَحِیْرِي و سه رگه ردانی ټه خولینه وه. مقصد
 له وه چی یه؟ ټه و قومی حاضره ترس غلبه ی لی کردینه قابلي حرب و خرب
 نینه له و مُدَّه نسلکی (بدوی) (حربی) (بی ترس) (دوور له ذلټتی)
 حضاره تیان لی هه لکه وي به تعلیم و تربیه ی عسکری گه وره بین، ټه وانه نالی
 وه عده ی اِلهی ټه بن. اما ټه و مُتَحِیْرَانَه ناگه نه ټه و مه رانه. ﴿فَلَا تَأْسَ عَلٰی
 الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ﴾ ﴿۲۶﴾ غه مگین مه به له سه ر ټه و قومه له اطاعه ده رچوانه.
 ټه وه شاهدیکه جه نابی حه ق ټه و قومه که ټه لین: ټیمه ابناء الله و اَحِبَّاءُ الله ین
 به و نوعه ټه یان گری، عذابیان ټه دا. شاهدیکی تریش له و خه به ری آتی
 وهر ټه گیری ټه و مؤاخذه ی آتی له گه لآ اِدَّعَايِ و ان ظاهراً زور لیك دوورن. که و ابی
 ټه م شاهیده ت به قوت تره له شاهدی سابق ﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ اَبْنِیْ اٰدَمَ﴾
 له سه ریان بخویننه وه خه به ری دوو کوپی آده می ظاهر وایه له صُلْبِی خوی بن
 بلا واسطه. ناویان چ بو لزومی نیه، گه رچی له (تورات) ټه لی یه کیان اول

أولادي آدم بؤ (قابیل) دووم ثانی ولدی بو (هابیل) ﴿بِالْحَقِّ﴾ بی مزخره فات وخرافات (أسفار) صفوه ت القول ئه وئنده یه که قرآن به یانی ده فرموی ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ وه قتی قوربانیان تقدیم کرد چ بوو؟ نوعی بو؟ یادوو جنسی مختلف؟ یه کیان صاحب مه ر بوو یه کی صاحب نمله، بی لزومه.

﴿فَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ له یه کیان قه بول کرا ﴿وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ له وی دیکه یان قبول نه کرا. کیه یان کیه یان کوشت؟ علامه تی قبول چ بوو؟ فائده یه کی علمی تیدا نیه؟ له (تورات) ده لی قابیل هابلی کوشت. بعضی ئه لئین نابی، چونکی مشهور لای وان (قابل) ه له قبوله، چوئن ئه مه قابله؟ قابل غیره قابل بکوژی؟ له تورات ئه لی قوربانی وه دیه که یان تقدیمی زاتی (کبریائی) کرد خودا ته ماشای هابل وه دیه ی هابلی کرد ته ماشای (قابیل) وه دیه ی (قابیل) ی نه کرد. آیهو ئه و خوای ئیمه ایمانمان پی هه یه له گه لآ خوای لای

إسرائيلیان فه رقی زوره. ﴿قَالَ﴾ ئه وه ی قوربانی لی قبول نه کرابو به وی دی گوت ﴿لَا قُتِلْنَا﴾ ئه تکوژم ﴿قَالَ﴾ له جوابی دا بویه ئه مکوژی چونکی قوربانیت قبول نه کرایه؟ ئه مه قه باحه تی منی تی دا نیه، سببی عائی خوته.

﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ تو له أهلی تقوا نی بویه خوا له توی قبول نه کرد. خوا صدقات وقرابین هه ر له په ره یزگاران قبول ئه کات. نفسی خوت بکوژه به مخالفه ی هه وای، بو من ئه کوژی. ﴿لَنْ بَسَطَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي﴾

ئه گه ر تو دست دریژ بکه ی بو لای من بو کوشتم ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ﴾ ﴿لَا قُتِلَا﴾ من دست دریژ ناکه م بو لات که بتکوژم. نه تو حه قی کوشتمت هه یه له سه ر من، نه من له سه ر تو. ئه مه ش له بی هیزیم نیه.

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ من له خوای عالم ئه ترسم حه ق وایه توش له خوا بترسی. تو ئه گه ر له أهلی تقوا بای بلا موجب بو قصدی قتلی من

ئەكەي؟ ﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾ چونكي هەندە بئى پەرھیزی لە خوا ئەمن قەصد ئەكەم ئەخوالم ﴿أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي﴾ ئەگەر بمکوژی هەر گوناھیکم هەبئى بئتە ئەستوی تو، تو بیگیریه وه داری جزاء. ﴿وَإِثْمَكَ﴾ گوناھ، ئەو قتله، وه سائری دیکه ﴿فَتَكُونَنَّ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ خاوه نی ئاگری لئى جودا نابى ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ ئەمەش پاداشی ظالمانه ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ ئەو قسانه تأثیری تی نه کرد، نفسی خبیثی قتلی برای بو مزیّن کرد ﴿فَقَتَلَهُ﴾ کوشتی. ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ برای له قیس چو، نفسی له فطره تی بشری محروم بوو. مستحقی لعن و عذابی أبدي بوو. وه نه شی زانی لاشه ی برای چ لئى بکا. ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾ خوا قه له ره شه کي نارد ﴿يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ به لاقی به ده ندوکی أرضی ئەکوئیه وه. بوخووشی قه له دائم له کرم ده گەری عارد هه رده کوئى کرمی لئى ده هینیته ده ری. ﴿لِيرِيَهُ، كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾ تانیسانی بدا لاشه ی برای خوئی بشاریته وه. (أبو مُسْلِم) ئەفه رموی قه له که قولته کي هه لقه ند شتیکی تی داشارده وه ئەویش لئى فیریو. ظاهر وایه یه ک (غراب) بوبی گەرچی جمهوری مفسرین ئەفه رمون دوو قه له بوون، یه کیان ئەویتی کوشت حفره کی هه لقه ند شتیکی تی دا شارده وه. ظاهر وایه یه ک (غراب) بوبی گەرچی جمهوری مفسرین ئەفه رمون دوو قه له بوون، یه کیان ئەدیتری کوشت حفره کی هه لقه ند وه شارديه وه ظاهر وایه ئەمه یان به مناسبه به ی ته مامی حکایه تی آخوین ریك خستبئى.

﴿قَالَ﴾ قاتل گوتی ﴿يَتَوَلَّيَ﴾ ئەي هاوارته له خوّم ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ﴾ ئەوه نده هوشم نه بو که وه کوئو قه له ی بم. ﴿فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾ له خوورا ده رکي بکه م. ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ په شیمان

بؤوه اُمّا سوڈیکی نہ بو، ئیش له ئیش تیپہری. علماء گه له ک شتیاں بیان کردیه که بَشْرَ له حیوانات فیّری بوین، ئەمہ راسته، حتّا الآن که عَصْرِي إختراعاتی حدیثه یه بعضه شت له حیوانات وەرئەگرن ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ له بهر ئەوه که ئەو برایه برایی خۆی گوشت ﴿کَتَبْنَا عَلٰی بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ له سه‌رمان نوسین ثابتمان کرد ﴿أَنَّهُ﴾ شأن وایه ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ بیّ موجبی قصاص ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ بیّ سَبِيّ فتنه و فساد له أرضی دا ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ گوناھي هه مو عالهمي ئەگاتی. کاتّه هه مو بَشْرِي گوشتوه (ئەو شته بؤ غیری بني إسرائيلي نیه). بعضی وهک (حَسَنِ بَصْرِي) دووریان زانیوه یه کئی له کورانی ئادهم یه کئی تر بکوژی ئەو شته له سه‌ر بني اسرائیلیان بکری، بؤیه به دوو شخص له بني اسرائیلی تفسیری فه‌رموه. اُمّا ئەوه من حیث المعنی لیّ نزیك تر نیه له اولی سببی مُقَرَّبُ آمریکا معلوم ئەبیّ له حالی بني اسرائیلی که له قدیمی زه‌مان عداوته‌یان هه‌یه له‌گه‌لا (إسماعیل) له‌ره‌گزی پیشتی برایی اسحاق. هیچ عَزْرِيان نیه ئەمه‌نده نه‌بیّ که اسماعیل له که‌نیزه‌که (ساراخاتون) هه‌وی باری له‌گه‌لا کردوه. إسماعیلیان له إرثي معنوي بابي به محروم ئەزانن، ئەوي له‌ویش پاشه‌که‌وت بیّ نابیّ نائلي فضيله تي رساله‌ت بیّ، کاتّه حَيَاتِي معنوي که گه‌لیّ له فوقی حَيَاتِي مادّیه، له إسماعیل وأولادي إسماعیلیان سَلَبُ کردیه. حَسَادَتِيّ وان گه‌لیّ گه‌وره‌تره له حَسَادِه تي کورپی آدهم معذروه تیان زۆر واهی تره. لاشک بني اسرائیلی له‌وه‌ئەگه‌یشتن بؤیه إعتراضیان نه‌بو. وه‌له‌سه‌ر ئەو تشدیده اهمیت‌ه‌تیاں نه‌ئه‌دا به قتل، حتّا رُسُلِي خویان ئەگوشت. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ بائه‌وه‌ش داخلي مکتوب بیّ بؤ حرمانیان له‌و نعمه‌ته عظیمه‌یه، زیّرا ئەوان دائما خریکی إخمادي أنفاسي عبادن، مه‌گه‌ر که‌سیّ طمعیان پیّ بیّ خیری لیّ ببینن. في الحقیقه که‌سیّ بلا موجب که‌سیّ

بکوژی کاٹھ ہہ مو انسانی کوشتوہ، زیڑا بی دہسہ لاتی نہ بی ہیچ مانعی تری نیہ. کہسی نفسی لہ ہیلاکت قورتار کا بی بی بہ باعثی حیاتی بی طمع واملی دنیوی بہ لکو صرف لہ بہر حنو و عواطفی بشری کاٹھ ہہ موو کہسی زیندی کردیتہ وہ مادام بوی ریگ بکہوی ہر کہسی بی نجاتی ئە دا.

ئو ثوابہ بو ئو نوعہ کہسہ لہ لطفی خوا ئو شیتہ وہ بو ہہ مو کہس، اسرائیلی وغیرہ اسرائیلی بی. ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا﴾ جمعی زور ازجملہ حضرتی (عیسی) و حضرتی (مصطفی) یہ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ئایاتی ظاہرہ ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ پاش ئوہی ذکر کرا لہ تشدید وبعثی رسل

بالبینات ﴿فِي الْأَرْضِ لِمُسْرِفُونَ﴾ ﴿۳۲﴾ لہ گوناہ اسراف دہکن لہ ہر کوئی بن حتا زور خہریک بون (لا سمح اللہ یہ) حضرتی خاتم الرسل بکوژن و ہتا توانیان سعیان کرد لہ کوژاندنہ وہی نوری اسلام و منع کردنی عبادی خوا لہ ہدایہت بو پئی راست. لا یخفی فائدہی قہیدی بغیر نفس سابقا زاندرہ وہ جزای دنیوی و آخری مان لی معلوم بو بزانیں فائدہی قہیدی (أو فسارٍ فی الأرض) چپہ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ شہری لہ گہ لآ خواو رہسولی خوا ئە کہن، ئوہی شہری عام بی، شہری لہ گہ لآ خواو رہسولی خوا ئە کا ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ ری گری ئە کہن اکثریت کاروان پووت ئە کہن،

عبادی خوا ئە ترسینن، فتنہ بہریا بکہن ﴿أَنْ يَقْتُلُوا﴾ ئە گہر خہلک بکوژن ﴿أَوْ يُصَلِّبُوا﴾ ئە گہر مالیش بیہن ﴿أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ﴾ یادہست و لاقیان، چپ و راست، ببری. ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ نفی بکریں لہ ولاتی خویمان بو ولاتی دی. معنائی لہ (تَرْجُمَانُ الْقُرْآن) نقل ئە کہن ئە و ہندہ بی معنایہ انسان ناتوانی نقلی بکات. وہ یاخود امام مخیرہ لہ و جزایانہ، ئە وہی صلاحی زانی، وای ئە کا. ﴿ذَلِكَ﴾ ئوہی ذکر کرا لہ جزا

﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ له دونیای پھ زیل کردنیانہ . حَق وایہ ئہوی خراپہ بکات، کو لای خوا مُحَقَّر وْمُهَانَه، لای اُمَّه تیش وابی. اُمَّا ئہوانی اَشْقِیَاء. ئہ گہر له طرف اُمَّه ت نائلی اِحْتِرام وِتْقَدِیْرُو نَافِهْرِیْن وَاکْرَام بون، ئہ و نَوَعِه جَزَایَه زور تَأْثِیْرِی نابی. وه حکومه تیش عاجز ئہ بی له گرتنیان. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۳۳) ئہ و عذابہ عظیمہ به گویره ی قساوت و پیسی دل و نَفْسِیَان له دهره جاتی عَظْمَه ت تفاوتی هیه. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ﴾ توبه ی بکن ده خاله تی به حکومت بکن تسلیم بن، ئہ و وه قته بؤ اِمَام عَفْوِی عَمُومِی هیه اُمَّا له حَقُوقِی شَخْصِی عَفْو نیه. وه قوانینی دولیش له سهر ئه وهیه.

﴿فَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۳۴) له حَقُوقِی خَوْش ئه بی، ئیوه ش هه وه ستان لی یه لی یان خَوْش بن، هه وه ستان لی یه ده عوایان لی ی بکن. (بیضاوی) ئه فه رموی اُمَّا قِصَاص به مراجعه ی اولیای مقتولہ به (توبه) وجوبی ساقط ئه بی جَوَازِی سَاقِط نابی، یعنی اولیای مقتول دروسته بؤیان طَلَبِی قِصَاص بکن ئه گه رچی اَسَاساً طَلَبِی قِصَاص وَاجِب نیه چونکی خوا رِی عَفْوِی داناوه وه ک سابقاً زاندر (توبه) ش ئه و جَوَازَه رَفَع ناکات، اُمَّا ئه گه ر طلبیان کرد له سهر اِمَام وَاجِب ئه بی قِصَاص بکات. خلاصه به (توبه) وجوبی حَدِی له سهر اِمَام سَقُوط ئه کا جَوَازِی دَعَا له سهر وَا لِي خَوِيْن سَقُوط ناکا (من حَيْثُ كونه قِصَاصاً) با (بعد الدعوى من هذه الحیثیة) له سهر اِمَام وَاجِب بی. اُمَّا عباره تی (بیضاوی) کورته ته نگه، بؤیه (ابن الحجر) اِعْتِرَاضِی لی گرتیه، وه (ابن القاسم) جوابی دایته وه. ئه مه وابی. که سی ته ماشاکا ئه زانی ئه و آیه ته ئه وه نده مُتَّصِلَه به مَاقْبَلِی رِی هِیچ اَسْبَابِی نَزول نادا ئه گه ر چی نَقَالَه کَان گه لی حَکَایَه تِیَان کردیه بؤ سَبَبِی نَزول، وه لی ئه وانه له بهر ته ماشای اَسْبَابِی نَزول ناگایان له تَفْسِیْرِی نَظْمِی قُرْآن نه ماوه، مَعَ اَنَّهُ وه ک (سید رشید) کرارا

ئەفەرموی، بعضه وقایع بوہ، ئەوی آیە تە کە ی بیستبێن وای خیاڵ کردوہ کە
 دائر بەو واقعە نزولی کردیہ. ئەوی نَظَر بە نَظْمِی قَرَأَن تفسیر بکا، ئەبى (مادام
 الإمكان) روو لە أسبابی نزول نە کات خصوصاً کە أوھام وخیال مُدَاخَلَه ی تیدا
 بى. ئەو خَزِي وَعَذَابِه جَزَاي ئەوانە یە رى گری ئە کە ن وَاَمْن وئاسایش تیک
 ئە دەن. ئایا ئەوانە ی کە شَرِك بۆ خوا پە یا ئە کە ن قسە ی نالایق و سوك
 دەربارە ی (کبریائی) ئە لاین رپی هدايە ت بۆ دینی حَق کە مایە ی حیا تی إجتماعی
 وسعادە تی حیا تی أبديە لە عبادی خوا ئە گرن قصدی کوشتنی هاوریی مُخْلِص
 ئە کە ن ئە بى چ بى؟ ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ گویتان لە و آیە تانە بو کە
 احوالی بنی اسرائیلی تییان دا بیان کرا. زَنَهَار صە د زَنَهَار ئیوہ وە ک وان مە بن
 ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ لە غضب و سخط و عقابی خوا خۆ بیاریزن بترسن ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
 الْوَسِيلَةَ﴾ طلبی شتی بکە ن بە کمالی شوق کە ببیتە واسطە ی نیزیکی لە
 خوا، بەو واسطە نائلی لطف و مرحمە تی خوا ببن. حاصلی ئەوہ ی رضامە ندی
 خوای تیا یە ئەوہ بکە ن. سەر لە إطاعە ی مە پیچن و مە زانن ئە مرۆ نہایە تی
 فتوحاتتانه لە مە ولا ئە مرتان ئە کریتی بە توجە بۆ دەولە تی (رۆم) بۆ دەولە تی
 (فارس) مە لاین ئیمە چۆن روو کە ینە ئەو دوو دەولە تە جبارە حقیقە بعضی لە
 (عرب) لە ژیر دەستی ئەو دوو دەولە تە بون أَمَا زَلَّت و پە زالە تیان وە ک ی بنی
 اسرائیلی نە دیبو وە ترسیان لە دلدا شین نە بو بو. وە قسە ی زۆر لە وان بە
 حُریت مانە وە پە س لە دوژمن هە راسی مە کە ن. ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ لە
 رپی خوا بۆ خَلاصی بَشَر لە شە ری ظالمان لە ذلی عبودیتە تی حیوانات
 و جمادات ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ (۳۵) بە آمیدی ئەوہ کە نائلی سعادە تی
 دنیا و قیامە ت بن لە سەر اَرْضی بە سەر بە رزی بژین لە قیامە ت درجاتان بَلَد بى
 وە ک ی جوله کە کان مە لاین (إذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ) پیغە مبه رو
 معجزە ی پیغە مبه ر بکە نە وە سیلە بۆ فتح و فتوح و دَفَعی دوژمن وە ک تا

ئیسٹانہ تان کردیہ ئو وسیلہ ی کہ دەستتان پیوہ گرتیہ دەستی لی بہر مە دەن. کہ سیٰ أنصافی هە بی ئو وانی مقصد لە و وسیلہ لیڤرہ چیه. ئو وە ی ئارە زوی هە بی روحی ئو و ئایە تە ببا بو موسلمانان فائده ی تیدا نە هیلی، حملي وە سیلہ ئە کاتە سەر شتی کہ تا ئیستا کہ لکی موسلمانانی نە گرتیہ وە تا ابد کہ لکیان ناگریت بە لکو مع الأسف بوہ باعثی شکست و نشستی اسلام. (سیدی آلوسی) و (سید رشید) لە تحقیقی وە سلە لیڤرہ تفصیلاتی زور مفیدیان هە یە بە لام ئو و تفسیرە کورتە کوردیہ ئو و طول تفصیلە هە لناگری مع أنه حق دیارە، کہ سیٰ لە تجاربی زمانە عبرت وەرنە گری بە دلائل و برهان چارە ی ناگریت خصوص ئو و انە ی کہ پیڤە مە بەر زوریان لی ترساوہ کہ ئو فەرموی (أخوف ما أخاف علیکم کل منافق القلب عليم اللسان) فی الحقیقە ئو و انە ی دل بە غە شن لە گە ل عبادی خوا وە تە پ زوبانن لە هە موو کہ س خراپترن بو افسادی

أُمَّتٌ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وە سائلیان پە یدا نە کردوہ بو نجاتی قیامت ﴿لَوْ أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ بە هە مو خە زینە و دە فینە ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ مثلی ما فی الارضی شی لە گە ل بی ﴿لِيَفْتَدُوا بِهِ﴾ بو خاطر ی بیکە ن بە فیدیە نجات بە و وسیلە خلاص بن. ﴿مَنْ عَذَابٌ يُومِرُ الْقَيْمَةَ مَا نُقِلَ مِنْهُمْ﴾ لی یان قبول ناگری. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ چاک حسی ئە کە ن. حقا مایوسی لە و و سائله عذابی زور بە ئیشە، لە آلمی ئاگر بو اربابی وجدان بە ئیشترە.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ﴾ لە پاش ئو وە ی لە چوونە ئاگری حە ز ئە کە ن بچنە دەر ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ ناچنە دەر. چۆن ئە چن؟ دە سە لاتیان نیە ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ ثابتە لە سە ریان، تی ناپە ری. ممکنە بە لینی ئو و انە لە دونیا حە ز ئە کە ن بە واسطه ی و سائله و فیدیە لە ئاگر تی پە رن نە کە ونە ناوی، نجاتیان لی بی. اما ئە کە و بی لی ناچنە دەر چونکی چی وا ناکە ن کہ باعثی نجاتیان بی، بە لکو دە وام ئە کە ن لە سەر ئو و سیئاتە کہ پیی دە وام

ئەكەن لەناو ئاگر ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ دزیش نوعیکە لە فسادى فى الأرض
 أما فسادىكى حیزانە یە وەكى رېگر نایە تە بەر مەیدان، بۆیە رپى عفو نیە لە
 عقوبەت وەلو (توبە) ش بکا پیش گیرانی ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ دەستیان
 بپرن ﴿جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا﴾ بۆ وان جزا ﴿نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ بۆ خەلكى عبرەت بگرن
 اقدام نەكەنە سەر دزی ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ غالباً شت لە مواععی خۆی
 دادەنى مع أنه إشعارىكى تریشى تى دا هەیه بۆ سینیاتی بنی اسرائیل گەورە
 گەورەکان دزیان کردبایە حدیان لى دەرئەدە کرد، حدیان اجرا دەکرد لەسەر
 فقیر و بى دەسەلاتان. هەرکەسى دزی بکا، چ نیر چ مى، گەورە گچکە، بۆیە
 پیغەمبەر فەرموی (بەو کەسە کە م روحي محمدي بە دەستە ئەگەر فاطمهی کچی
 محمد دزی بکات دەستی دەبرم) ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ چیتەر دزی نەکا
 ﴿وَأَصْلَحَ﴾ إصلاحی نفس بکات ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ خوا توبە ی لى
 قبول ئەکا قلمی عفو برگوناهی سابقى ئینى. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بۆیە
 (توبە) قبول ئەکا، نەك سَلَّمَهُ السَّلَام چى بکا بلى خوا غفور الرحيم، ئەو خۆ
 هەلخە لە تاندنە. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ ئەي صاحبي إيمان يا ئەي رسولي خوا ﴿أَنَّ اللَّهَ
 لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مالک الملکە تصرف لە ملكي خۆي دەکا چۆن
 حەز بکا کەس نەتوانى بلى بۆ وا ئەکەي. ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
 هەر کاتى بە مَشِيَّتْ وإرادەي خۆیە تي. ولكن بزانی لەكى خۆش ئەبى؟ كى
 عذاب ئەدا؟ بۆ ئەو تەماشای قرآن بکەن رى گر دەخالەت بکا (قبل القدرتي
 عليه) جزای چیه؟ دواى چیه؟ دز ئەبى توبە وأصلاحی نفس بکا، ئەوجا عفوي
 ئەکا. لە (مُعَرِّي) نقل ئەكەن گویا إعتراض لەو حکمە ئەکرى وئەلى (يد
 بخمسماً من عَسَجْدُ وُدَيْتْ مابالها قَطِعَتْ فى رُبْعِ دِينَارٍ) دەستی دیە تي بە پینچ
 صەد مثقال زير داندراوه بۆ چى لەسەر چواریکە دیناریكى برا؟ (عَلِمُ الدِّينِ

سَخَاوِي) جواب ئه دا (عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذَلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي) له (ابن الجوزي) نقل ئه كه ن جوابی دایه (لما كانت أمينه كانت ثمينه فلما خانت هانت) هه ر كایه كه دوو یه كن، نازانم لیکیان وه رگرتیه یاتواردی خاطره .

تا أمينه قيمهت داره كه خيانه تي كرد إهانه كرا. بهلى لام وايه (مَعْرِي) ئه م حكمه ته ئه زانى إعتراضي له أصلي حكم نيه له تقديرى مالي مسروقه ئه لى مادام ته ماشاي قه دهري مالي مسروق ئه كه ن بؤ ته ماشاي قيمه تي دهستي سارق ناكه ن؟ وه بؤچى ته ماشاي حالي صاحب مال ناكه ن؟ پيره ژنى دوو مريشكي هه يه رۆژى دوو هيلكه وارداتيه تي، دوو هيلكه بؤ ئه و بيره ژنه مقابلي صه د ليره يه بؤ بعضه كه س. صاحبي شريعت ئه فه رموى: لعنه ت له دزدا، بيضه ئه دزى، دهستي ئه بردرى). بؤچى حملي ئه كه نه كلاو وخوده ي ئاسن؟ ئه و إعتراضه به أمينه و ثمينه و خانت وهانت دفع نابى. حَقِي إهانه ئه وه يه له سه ر أدنى شته كي قطع بكري. أساسا كاكى (كۆر) طرفدارى تعذيبى أشقيايه ده رباره ي ضعفا زۆر دل نهرمه. اعتراض له قصاص له دهست بريني دز له رجم ليدانى زيناكه ر له ميژه گوترايه له ئايه تي قرآن، جوابي ئه زاندرى. ئه گه ر ئه و حدوده اجرا بكري عالهم ئه كه ويته راحت. ئه مرق ممالكي (ابن السعود) بكه ن له گه ل (ممالكي سائري دولي اسلام وغيره اسلام) فه رقى زوره . ئه وى ضره ربه هيكه لى إجتماعي به عضوي عامل بينى حقا بريني لازمه . ئه مه سه يره (ميرزا حسن بهاء الله) گوايه له بهر ئه و أحكامانه ئه لى شريعه تي اسلامي (ناقصه) دهستي دز برين وه حشته له گه ل زه مانى مدنيت پيك ناكه وى. ئايا ئه و (سبك مغزه) وائ زانى ئه و نقصه زانى رساله ت په ناهي ئه و ده ركى كردوه ؟ هه ر به پيشى خاوه ني. ئه و قسانه هه زار سال پيش ئه و كرايه وه جوابي درايت وه. ئه لى: مقابلى ئه و نوعه جرائمه جزاى نقدي بستيندرى، گويا ئه وه حكى كامله وموا فقي حضاره ته. ئه وه ش له دولان وه رگرايه زاده ي فكري همايونى نيه وه حاجت ناكا له ئاسمانه وه ئه و (وحي) بؤبى. شريعه تي اسلامي

تہ ماشای صندوق پرکردن ناکا، جزای نقدی بۆ حکومت له شریعت دا نیہ. شریعتی إلاہی تہ ماشای لای مظلوم ومغدور ئەکا دز نہختی مالی لی بستیندری بۆ حکومت با چہند مانگیک حەپس بکری مال برآوو مال دزاو چ فہراموشیہ کی پی دیت؟ رضوانی خودا له (شافعی) بی کہ ئەفہرموی دز دستیش ئەبردری وەمالہ کہشی لی استرداد ئەکری، حقاً، ئەمە خۆیہ تی. ئەگەر احکامی إلاہی اجرا کرابا ئەمپۆ له جیی وەک (بغدا) وسائری بلادی اسلامی قەحپەخانە و مەیخانە بە ایجارە ئەدرا؟ ئەو ھەمو ژنانە توشی ئەو رەزالت و وەقاحە تە ئەبون؟ حاشا. أمّا دینی اسلام دینی بو الھوس و بی شہرەفان نیہ، أمنا باللہ و بدینہ. ﴿وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾﴾ أما قدرەتی خۆی بی ھودە صرف ناکات، بە مقتضای حکمت ھەر شتە له موقعی خۆی دادائەنی. (أصمعی) ئەلی صورەتی (مائیدە) م ئەخویند (أعرابی) یەکم لەگەل بو لە ئاخری آیەتی سرقەت و وتم (واللہ غفور رحیم) أعرابی گوتی ئەو کلامە ای کی یە؟ گوتم کلامی خوایە، گوتی ئەبیخوینە وە دیسان وام خویندە وە، دواي تَنبَّهَم بُوخویند مە وە (واللہ عزیز حکیم) گوتی ألآن إصابەتت کرد، گوتم بە چی ئەزانی؟ گوتی (یاھذا) عزیزى حکیم أمر بە قطع دەکا، ئەگەر لیژە رەحمی کردبایە وەلی خوشبایە آمری بە دەست برین نەدەکرد. کہ وابی دیارە بلاغتی قرآنی (من حیث المعنى) بە فائدە ترە له (من حیث اللفظ) فی الحقیقە مقصدی بلاغتی معنویہ ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ﴾ فەردی کامل لە (پەيامبەری خوا) ﴿لَا يَحْزُنكَ الَّذِيْنَ يُسْكِرْ عَوْنَ فِي الْكُفْرِ﴾ محزونت نەكەن ئەوانە ی کہ خۆشرووی ئەكەن لەناو کفري دا، کفر بویتە ظرف بۆ وان لە دلیان دا پووچوہ دەماری بۆھمو أطراف وجوانبیانی داکوتاوہ تی دا قەرار گیر بوین، تی یاندا قەرارگریوہ، مسارە ئەكەن بۆ إطفای نوری اسلام منعی عباد لە ہدایەت تَنفیریان لە متابعی تو، کہ وابی حاجەت نیہ بلیین (فی) بە معنی (رانی) یە. یعنی بە کردارو پیەفتاری وان دەربارە ی خۆت دلگیرمە بە ئەگەر چی

جی حُزنہ. زیرا جہ نابی رسالت زور عذابی له دست منافقان دیت، دینیان له انتشار عوق ئه کرد، به افتراو ده سیسه ی وان عالمی زور له حضره تی رسول متنفر بون. نه دیتو نه ناسی بونه اشد اعداء، انه خودا تسلی ی ئه دا ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ له وانہ ی ئه لئین ایمانمان هینایه. نه وقسه به زویانه ﴿وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ بینما ایمانی به لایانه وه نه چوه. نه و منافقانه جدیدن، ای پیش نزولی ئه و سورہ ته نین، ئه وان فه وتان. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ هم له جوله کان جوی (مدینه) و (خیبر) وه ده وران پشتی مدینه. نا، به لکو جوی اطرافی دوورتر وه إلا له گهل ئه و قوله که ئه لئین ئه م سورہ ته له (حجة الوداع) نزولی کردیه ریک ناکه وی. زاتا له اولی رسالت تا ئه مرؤ، وه له مرؤ تا ئه مرؤ، هیچ زه مانیک خالی نه بوه له منافق و بدخواها نه ی اسلام، خصوص ئه مرؤ له هه مو عصری خراپتره. منافقه کان په رده ی نفاقیان دري اظهاری رساله تیان کرد گه لی خه لکیان اغوا کرد. دینی اسلام بی که سه به ته واوی دوژمن کامی خوی ئه بینئ ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ ئه و مسارغانه گوی راده گرن له فه رمایشاتی تو بو خاطری دروی پیوه بکن ﴿سَمْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ گوی راده گرن بو خاطری اغوای قومی بکن که ئه وان نه هاتونه ته لات به درؤ و ده له سه بیان که نه دوژمنی تو شه رت له گهل بکن ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ ئه وه ی له توی ئه بین له موقعی خوی وه ری ئه گپن ئه ی گورن. اما تحریفی (تورات) یان ئه مه معلومه.

﴿يَقُولُونَ﴾ جواب بو ئه و قومه غائبه ئه نیرن ئه لئین ﴿إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ ئه شانن ئه وه ی له طرف پیغه مبه ر به وان ناگات. ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ ئه و قومه به کیدی وان ئه خه له تین خلافی سوپارده ی وان قبول ناکه ن.

﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ إختبارو إمتحانی وه دهرنه چی، غَلُّ غَشُّ وده غه لی به دهرکه وی. ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ هیچت به دهست نابی له طرف خوی بو ئه وکسه. زیڤا جه نابی حَق عبادی به غایتی سهل إمتحان ئه کا، ئه وهی أسبابی رشدو هدایه ته بوی په یا کردیه له حواس له عقل له إعتبار، آیاتی بیناتی بو ایضاح ئه کات چ طبیعی چ تشریعی له سر ئه و حاله إهتدای نه بی به کی هدایت ئه درین؟ کی لطفی به قه دهر خویه؟ دهر باره ی عبادی. کی بیانی وه ک بیانی خوا ئاشکرایه؟ تا بوی هدایه ت بدریت تکلیفی إلهی به گویره ی وسعی شخصه چ إعتقادی چ اعمالی. ئه و جوره که سه بدیهیات قبول ناکا، جزم به محالات دهینی، چاره ی ئه کری؟ حاشا.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ مع انه ئه گهر دلی أدنی أدنی قابلیه تیکی هه با خوا إرادهی پاک کردنی ئه کرد. حاشا جه نابی حَق خوداوه ندی أرحم وأكرم دلی قابلی پاک بون بی به پیسی نایهیلایته وه. خلاصه کفر که بوه ملکه ری ایمانی بو ناچی مه گهر به جبری محض. خوی تعالی نه بو کفر نه بو ایمان جبر ناکات، محولی نظرو فکری عباده، إختیاریه إختباریه ﴿هَمٌّ فِي الدُّنْيَا حَزِيٌّ﴾ ئابرویان ئه چی نفاقیان دهرئه که وی به نوعی که لای قومی خوشیان سوک ئه بن گه مه یان پی ئه که ن. حتا مبشره کانی ئه مرؤ له ناو خویان زور مهانن اما بو ناو مسلمانون و بعضه اقوامی دی نوعا ما احترامیان ئه گرن، به خویان ئه که ن، ئه وهش محضا سیاسه ته. سیاسیونی ایامی ئیمه دینیان کردیته ملعبه ی سیاسه تی خویان اصلا إعتقادیان به دین نه.

﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ کُنهی، خوا ئه یزانی ئه وه نده گه وره یه نایه ته بیان. ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ نه ته نها هه نده ﴿أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ حرام خورن ربا کارن به انواعی حیله و ده سیسه استلای مالی عباد ئه که ن مقابلی (توبه) پاره ی زور وه رئه گرن. له و جهه ته له نظر قومی خویان

پروزیان دہرکہ وتوہ، لکن ہیشتا حماقت له بهینی عوام حکم فرمایہ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ بۆ فصلی قضا ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ئەوان مقصودیان به حق گیشتن نیه مقصودیان سماعی حکمی تویه تا دروی پیوه بکهن چ حکم بکهی چ حکم نه که ی ئەوان له حق تو له بد گوی ناوہستن.

﴿وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ هیچ ضرر به تو ناگهینن ئەگەر چی ری طعنەیان بۆ گوشاد ئەبی، ئەلین ئەگەر پیغه مبهربا حکمه که ی ئەکرد، نه ی ویرا. ئەو نوعه هذیانانہ بۆ اقوامی غائبه افشا ئەکن، خوا مفتضحیان ئەکا، خباثه تیان دەرئەکهوی. ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ

بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ حکم به عدل بکه ته ماشای میولی

وان وه افساداتیان مه که، چی ئەلین با بلین. ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ﴾ به دل،

به رضامه ندی، به حکمی تو. ﴿وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ زیرا تورات

بعصه حکمی خوی تیمایه هه مویان پی تحریف نه کرایه هه حکمه که ی له

(تورات) دابی (قرآن) قبولی کردبی لاشک حکمی خویه. من لام وایه حکمی

خوی قابلی (نسخ) نیه إلا ئەوه ی له بهر اضطرایکی طبیعی داندرابی یا له بهر

لجوج و عنادی قومی شده تی تیا بی. ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ﴾ له حکمی تو یا له

حکمی تورات مع انه گویا به دران گرتویانه ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ له پاش ئەو

تعصب و ایمانه یا پاش مراجعه و تحکیمی تو ﴿وَمَا أَوْلَاكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٣﴾

نه ایمانیان به تو هه یه نه به تورات و صاحبی تورات. واقعا ئەوه جیی تعجبه

أما له امتی نیمه ش ئەو نه وعه که سه زورن گه بزانی به شرعی ئەبیاته وه،

ئەلی شرعی خواو و پیغه مبهران خویه تی، قانون و مانون و طاپۆ و ماپۆ چی یه،

ئەدی ئەمه به چی مسلمانین ((أَعَزَّ اللَّهُ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ)) ئەو دهستی شرع بی

بری خونی لی نایی ئەگه بزانی ئە ی دورینی بۆ محکمه ی نظامی ئە چی، بزانی

به قانونی محکمہ ئه ی دورینی طلبی تجارہت ئه کا، ئه گہر دہ سہ لاتی هہ بی
به زوری بازووی مدعا ی خوی ئه باتہ سہر، شرعی چی قانونی چی تجارہتی چی
فی الحقیقہ ئه وانہ ایمان دار نین و إلا إطاہی حکمی شرعیان ئه کرد ولو مالہ کی
زوریشیان له کیس چوبا.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ إرشاد وروناکی تیاہ حتی له
محرّفہ کہش دا إرشادو نوری تیا ماوه ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ له موسی تا
عیسی کہ وابی ((نبی)) لیّره عامه له رسول مقابلی ((نبی)) کلمه یه نی یه وه ک
مقابلی رسول هہ یه یعنی پیغہ مبهہر. ئیمہ به هہ موان ئه لیّین پیغہ مبهہر چ رأساً
په یغامی بو ہاتبی یا په یغامی پیغہ مبهہر تر تبلیغ بکا ﴿الَّذِينَ اسْلَمُوا﴾
وینہ ی حضرتی ابراہیم کہ خوا فہرموی ((اسلم)) ووتی (اسلمتُ لله ربّ
العالمین)) استسلام وگہ رده ن دادان بو حکمی إلهی زور ئاسان نی یه مرتبه یی
گہ ورہ یه لایه قہ ستایشی انبیای پی بکری خصوصاً تعریضیشتی تیاہ بو
ئه وانہ کہ حکم به غیری ما أنزل الله ئه کہن ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ بو یہودیان چ
گہ ورہ چ گچکہ بی فہرق ومیل ومحابا ﴿وَالرَّبَّانِيّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ ((قتادہ))
ئہ لیّ عبّادو علما ((مجاہد)) ئہ لیّ ربّانیون علمای فقہان له فوقی أحبارن یعنی
وهک مجتہدین وعلما ی مذاہبی ئیمہ بعضی به ولات وعلما یان تفسیر ئه کہن.
(حبر) له لغت مشعرہ به معنای جمال وزینت یعنی ئه وانہ ی کہ علم مزینی
وقیمہت دار ئه کہن وهک (حاکمی) ایرانی (علی خان) له حق بابم وتبوی: (من
مہلام زور دیون علم ئه وانی ارزندہ کردیہ اما فلان ئه و علمی ارزندہ کردیہ)
حقیقہ شرعی إلهی به و نوعه مه لایانہ حفظ ئه کری، نہ به ناکہ سہ کانی بی
أصل وفصل وعرقی شرف ونجابہت. ئه وان علم بی جمال به لکو ناشیرنی
ئہ کہن. ئه وانہ ش بو قہ ومی خویان حکم به تورات ئه کہن، بی تحریف و تبدیل
﴿بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ به واسطہی ئه و عهدو میثاقہ کہ له گہ لیان

کراہو له طرف پیغمبه ران که حفظی کتابی خوی بکن. ئەوانیش له حَقُّ ئەو ئەو عهده یان به جی هینا ﴿وَكَانُوا﴾ ئەو علمایانہ ﴿عَلَيْهِ شَهَادَةٌ﴾ له سر کتابی خوی رقیب وچاوه دیر بوون ری یان نه ده دا به به د مه یلان بیکه نه مَلْعَبَه ی هه وای خویان .

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ﴾ که وایی ئەو علمای عصری سعاده له خلق مه ترسن إتباعی انبیاء و أسما ربانیون و أحباری خوتان بکن، له ترسان یا له برسان حکمی خوا مه گوین ﴿وَإِخْشَوْنَ﴾ له من بترسن ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ خوا ئە زانی که مه لا برسی بوو وهک ((حاجی قادر)) ئەلی ((قرآن به دوو نانان ئەدات و ناترسی)) هه ر دینیک که تیک چوو له مه لایانی بی اصل و برسی تیک چوو، ئە گه ر زاده کان بووبانه مه لاقه ت دین ذله تی نه ده دیت ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ حکمی صریح و صحیح ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ هه ر ئەوان کافرن، له کافر منکرو خراب ترن وهک (خیام) ئەلی:

((ان قوم کی پرده ی سجاده پرستند فرند

زیرا کی به زیری باری سالوس درنر

وبن از همد طرفه تر کی ر پرده ی زهد

إسلام فروشنندو زکافر بترنر...))

له و حکمه فرق له بینی هیچ مله تانی یه به لکو ئەو نوعه که سانه له عالهمی اسلامی دا گه لی خراب تر بوون له وانی جوو و دیان، ئایا که سی بلی من مسلمانم ئە گه ر تحریف و تبدیلی حکمی خوا بکا، هه ر مسلمانه ؟ خوشه ویسته ؟ معاذ الله ! ئەو فه رق وجوداییه لای خوانی یه، أمّا شتی هه یه له دینی اسلام نازانم له وانی تر بوه یان نا، أولا ری ی اجتهدی کردیته وه بو أهلی علم، إستنباطی حکم له کتاب وسنه بکن. ثانیاً گه لی مسائل حواله ی رأی امام

تہ کات، وانی یه هه مو احکام به صریحی له قرآن یا له حدیث وه رگیرا بی، بویه له زه مانی امامی عمر تا ئیمرو له و امورانه که نصی إلهی وه رساله تی له سهر نی یه، قوانین تنظیم تہ کرین له بهر تہ وه حکم نه کردن ((بما أنزل الله)) له عالهمی اسلامی زور که مه خصوصاً تہ گهر ته ماشای إستحسان وسد الذرائع مصالحی مرسله بکه ن عدم الحکم بما أنزل الله زور نادر تہ بی سلف و خلف له و کفره قسه یان کردیه منازعه یان زوره، اما حق و حقیقه تہ مه یه که ئیمه عرضمان کردن ﴿وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ له تورات دا. ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ولو پادشاهی بی مقابلی گه دایی به غه یری حق تہ گهر بی کوژی بی کوژنه وه. ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ چاوبه چاوا تہ کولدری، ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ لوت به لوت ﴿وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ گوی به گوی ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ ددان به ددان ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ برین، به گویره ی خوئی، برین، ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ﴾ به قصاص یعنی عه فوی تہ کا ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ خوا به مقابلی تہ وه عه فوه عه فوی تہ کا له گونا هانی خوش تہ بی ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ له قصاص ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ أساساً شرائع و حکومات خاصه که احکامی جزائی دا بو حفظی بی ده سه لاتانه له شه پری زور داران، که چی بالعکس معظمی رجالی حکومت و مللهت له اکثری ازمان و أعصار طرف داری اقویاء تہ که ن، که سی ضعیف بی که سی بی هه رچی به سه ری بی اهمیه تی ناده نی آن زیاده ظالم و غدار محامیه کانن، تہ وی بی ده سه لاته دوعا بکا خویه لیم نه قه ومی ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ به دواي شوینی تہ وه انبیاو و ربانیون و أخبارانه مان خست ﴿يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ که وابی تہ وه، داخلی تہ وانی پییش و نی یه، وه ک موسی، تہ وانی حکمیان به ته ورات تہ کرد، حفظیان تہ کرد له بینی تہ وه دوو ذاته محترمانه دابوون.

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ یعنی تہوہ ی کہ تہ ی زانی بقیہ ی کلامی خواہی، نہ کہ مُحَرَّفَات و مُلْحَقَات، چی حضرت ی عیسی چی حضرت ی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بہ و نہوعہ تصدیقی تہ وراتیان تہ کرد، پیس وپاکیان لیکن تہ کردہ وہ ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ و ہک تہ ورات، طبیعی ہر کتیبیٰ لہ طرف خواوہ بی، تہ بی وابی ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تہ ی أنجیل. ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾ تہ و تصدیقہ تصدیقی مُنزلی أنجیلہ ﴿وَهُدًى﴾ تہ و أنجیلہ کہ بو عیسی نازل بوو بوو، ہہ مووی ہیدایہ ت وارشادہ چی بینی ضلالی لی بی تیای نہ بوو، اب و ابن وروح القدس یوک. ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ ذاتاً تہ و ی لا ابالی بی لہ موعظہ نانوری، متاثر نابی ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ تہ گہ راست تہ کہن اهلن تابعی احکامی أنجیلن، ایمانیان ہہ یہ کہ لہ طرف خوا بو عیسی ناردراوہ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ چی دائر بہ اعتقادیات چی بہ اعمال، چی بہ تربیہ و آداب و أخلاق، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ خارجن لہ ایمان بما أنزل اللہ خصوص تہوہ ی خلاقی تربیہ و تادیبی الہی رہفتارو حکم بکا بہ جاری تہ بی بہ خلیعی، محاسن بہ قبائح تہ گوری، و ہک مسیحیہ کانی تہ و عصرہ ی اروپسی بہ جاری لہ مآثری بشری روت بوین ہہرچہ ند شرورو فسادی سہر عہردي ہہ یہ مادی و معنوی لہ وان نشأة تہ کا بہ احکامی تورات بہ احکامی أنجیل ذہ پئی اعتبار ناکہن، لہ ہر کسوہی دابن طمع مجسمن، نہ غیرت نہ ناموس، نہ و ہفا بہ عہد، تہ گہر مشرف لہ میموندا ہہ بی لہ واندانیہ، باوجودی خویمان لہ اولادی مہیمون حساب تہ کہن.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ فہردي کامل قرآنی کریم فرقانی حکیم ﴿بِالْحَقِّ﴾ سہراپا لہ لباسی حق دایہ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (تورات) و (أنجیل) ﴿وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ رہقیبہ پاکیان تہ کاتہوہ لہ اباطیل لہ ملحقات لہ

چویتہ دہر. ہرچہند پیغہ مہرانی عظام مُصلحینی کرام خربنہ وہ ناتوان
 اتحادی عام لہ بینی بشر پیدایا بکن، نہ لہ دین، نہ لہ تجارت، نہ لہ سیاست.
 تا فاطری حقیقی فطرہ تی بشر نہ گوری ئو اتحادہ قابل نیہ. خودای تعالان
 بہہ مو علم و قدرت و حکمہ تی خوی سو پاس و ستایشی خوی ئو کا کہ اتحادی
 ہاویشتہ بہ بینی (اوس) و (خزرج) فکیف حالی بشر؟ بالخاصہ رُاسای اُدیان وہ
 رُاسای سیاست ئو املیان لہ دماغی مُصلحان نہ ہیشت. ﴿وَلٰكِنْ﴾ جہ نابی
 حق ئو شرایعہ ی دانا.

﴿يَتَّبِعُوْكُمْ فِي مَآءِ اَنْتُمْ﴾ تجرہ بہ تان بکا، چی ئو کہن؟ وہ ئو کتاب و دینہ
 چوں محافظہ ئو کہن؟ دین ئو کہن بہ وہ سیلہ ی چی؟ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾
 مادام و ابی ئو گہر ئیوہ راست دہ کہن ایمانتان بہ وحدانیہ تی خواو حقیقہ تی
 نبوت ہہ یہ مسارعہ بکن بولای چاکہ، تی بفکرن بہ عقل و عدل و انصاف چی
 چاکہ ئوہ بکن، لہ پاش ثبوتی نبوتی و تفریقی اوہام و خیالات و افکار.
 حاکمیہ تی عقل قابلی انکار نیہ، عقل ئو زای چ چاکہ چ خراپہ، اولاً سعی بکن
 عقل لہ چہنگ میول و اوہام و خیالاتی فاسدہ نجات بدہن، دوائی ری بہ چاکہ
 ئو بہن، بی خلاف و شقاق، ئو گہن بہ مقصد.

﴿اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ بدای وجود لہ و بیہ گہرانہ و ہش بولای و بیہ،
 کی ہہ یہ؟ بو چی بو خہ لقی و ہکی خوت یالہ خوت بہ رہ ژیرتر خوت لہ خواہ
 خوت ئو کہ ی؟ بوچ و ہک (سہندہ فوق) خوت ئو کہ ی بہ واسطہ لہ بہ بینی خواہ
 عبادی خوا؟ تو نہ بی خوا ئو عبادہ ی ناوی؟ ری خودا نیشان بدہ توش و ہکی
 خہ لکی پی دا برؤ، نہایت حہ قی ارشادات ہہ یہ، کہس حہ قی ألوہیہت
 و ربوبیہ تی لہ سہر کہس نیہ ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخٰلِفُوْنَ﴾ ﴿٤٨﴾ جزاتان
 ئو داتہ وہ، ذاتاً مقصد لہ و انبایہ ئو ہہ یہ ﴿وَاِنْ اَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 اَهْوَاءَهُمْ﴾ بو صاحبی حکم، حکمی بالحق والعدل، بی مہیل و محابا و فہرق لہ

به يني خويش وبى گانه و دوست و دشمن، له فوقى هه مو خيرانه .
له عطفى (وَأَنْ) قسه يان زوره كآته ئه فه رموى: (يا رسول الله سبقي إلى الخير
بكه وه له به ينيان دا حكم بما أنزل الله بكه).

و مقصد له إعاده ي ئه و أمره ﴿وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ﴾^ط يه . خوتيان لى بپاريزه قومى شيطان و هرت نه گيرن . له بعضي
أحكامي خوي كه بولاي توي ناروده ، بلين بؤ إستماله لازمه مساعدهي گه وره
گه وره كان بكرى ، ئه بن به قوت الظهر ، چوكه له كان تابع ودواي گه وره كان
ئه كه ون ، ئه وان راضي بكرين ، ئه مان هه ر راضين . ئاگاداري خوت به له سه ر ئه و
حالي نه گورپى گوى مه ده سفا سفي وان ، تو حكمي خوا به جى بگه ينه . ﴿فَإِنْ
تَوَلَّوْا﴾^ط جيرو جهنم با إعراض بنين چ زياني توي تيانيه . ﴿فَاعَلِمْنَا أَنَّهُمْ
يُضِلُّونَ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾^ط ئه گه ر ئه وانه إعراضيان كرد له متابعه ي حكمي تو ، بزانه
هيچ عله تي تري نيه إلا ئه وه نه بى كه خوا إرادة ئه كا جزاي بعضه گونا هيان
پى بگه يه نى له دنيا به نوعى كه هه مو كه س بزاني ئه وانه (أبناء الله وأحباء
الله) نين ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَنَسِفُونَ﴾^{٤٩} ئه وه إشاره ته بؤ علة العلة يعني
سبب به خروجيان له إطاعه ي كليمي خوا ، خوا ئه و إرادة ئه كا ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾^ع ئه وانه لاي خويان خوا په رستن صاحبي شرعه ت و كتابن ،
دينيان دينى سماويه ، ئايا ئه وانه له سه ر ئه و حاله حكم به ميل
و محابا و متابعه ي هوا كه حكمي ملتي جاهل وبى دين و شرعه ت و كتابه
ئه و خوازن طلب ئاره زو ئه كه ن ، حقيقه جى انكارو تعجبه . ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا﴾^ع مادام واضعي قانون بشر بى و لو له سه رامه داني حكما بى ، خالي نابى
له ميل و تعصب ، أمّا حكمي خوي وانيه ، نابى وابى . هه ر حكميكى وابى حكمي
خوي نيه . حكمي أعقلي بشر نظر به حكمي خوا حسني نيه ، فضل له وه كه

ئەكە نه مُستعمره، به واسطه ئه و ظلمه كه له خۆتاني ئەكەن، خوا هیدایه تتان نادا، ریی نجات نادۆزنه وه، به لكو بالعكس له م وادي ضلاله زیاتر پروو ئەچن.

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ئەوهي ببینی، ئەببینی، ئەوانه ي كه له دلیان

دایه، نه صاغي، به سبب عداوت و حسد، یا حُبِّي راست. ﴿يَسْتَرْعُونَ فِيهِمْ﴾

له ناو وندا مُسابقه ئەكا بۆ عرضي (وَلَا) و (مُحِبَّت) و (جان سۇپاري). ﴿يَقُولُونَ

نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ ئەلین ئەترسین به لاو مصیبه تمان توش ببی ئەگەر

دۆستایه تیان نه كەین. ته ماشاي تاریخي اسلام بکه كه می پاش زه مانی

(سَعَادَت) تا ئەمپرو مسلمانان له پووي دۆستی غیره دین چیان به سهر

هاتوو، وه ئەمپروش له سهر ئەو هه موو ذلته و حَقاره ته كه به سهر مسلمانان دا

هات، گه لی له رجالي سیاست مُسارعه ئەكەن له (وَلَا) و به نده گی ئەو

أجانبانه، مع أَنه ئەگەر له گه ل راست و مخلصه كاني ملت و وطن پیک بین، أملي

نجات زۆر به قوه ت ده بی. ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَّ بِالْفَتْحِ﴾ ئەگەر مسلمانان به

ظریفی به خه بهر بین یه كدي بگرن نزاعي (مَذْهَب) یان له به ینا نه مینی، نیزیكه

خوای تعالی فتح و فتوحی بین، ده ركهي رحمة ت له مسلمانان بکاته وه، له

پاش ئەو مغلوبیه غالب بین، دارودیاری دوشمن إستلا بکهن، أما ظاهري حال

ئەوه ئەگەر محال نه بی، زۆر دووره.

علاوه ي اختلافي (مذاهب) اختلافي (قومیه ت) و (عنصر) (شقاق) و (نفاق)

پیغه مبهري (قادیانی) و (بهائی) و (بابی) هاتنه ناو. هیهات بویه خوا ئەفه رموی

(عسی) ﴿أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ خودا شتی وابکا كه به خیالی بشردا نه یه ئەو

رأساي کفر و ضلال نابوت بکا، ئەو وه خته مسلمانان به مه ده دیکی محضی

إلهي له و ئەساره ته نجاتیان بی.

﴿فِيضِّحُوا﴾ ئەو دل نه خووشانه ﴿عَلَىٰ مَا أَسْرَأُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ له حقد و حسد

به لكي جحدي رسالتي مُحَمَّدي وه حه قیه تي دینی اسلام ﴿تَدْمِيت﴾ (۵۲)

أمیدمان ہہیہ بہ الطافی خوا، خوا چارہی مسلمانان بکا (بأحد الطریقین) خالصہکان نجاتیان بی، غش دارہکان پہشیمان ببنہوہ. بزائن ئیمہ بہو نوعہ تفسیری ئہو آیہتانہمان کرد نہک بہ گویرہی زہمانی پیغہمبہری، چونکی ئہو سورہتہ پاش فتوحاتی زہمانی (سعادت) نزولی کرد ئیتر تأمل بکہ لہ ضیعی مفسرہکان وەرویہتی آسابی نزول.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ دہربارہی ئہو دل نہخوش وپہشیمان بونہوہکان.
 ﴿أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ بؤ ئیوہ یا بؤ دؤستہکانیان ﴿جَهْدًا أَيْمَنِهِمْ﴾ سویندی بہ دل کأنہ سعی تیا کراوہ تابہدہست کہوتوہ، نہوہک (لَغَوِ الْيَمِينِ) سہر زارہکی ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ ئہوان لہگہل ئیوہن ئہی اہلی ایمان یا ئہی اہلی کتاب، لہ جوودیان. نقلی ئہو سویندہ بالمعنی یہ ئہگہر بہ عینی عبارت با، ئہی فہرموو (إِنَّا) لہ جیاتی (إِنَّهُمْ) لہ محاورات ہہر دوو نوعہ نقل جاریہ، ئہلی فلان سویندی خوارد (ئہمہ ئہکا) یا (ئہکم). ﴿حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ﴾ ئہو جملہیہ قابلہ بلین لہ طرف (مُنْزِلِ الْقُرْآنِ) بیژراوہ، وہ قابلہ بلین قولی مسلمانہکانہ. ئہو سعی وکوششی کردیان بؤ جلی رضای اعدای (دین ودم)، ہیچ وپوچ دہرچو، وایان ئہزانی ئیوہ لہ بی دہسہلاتی دا ئہمین. لله الحمد خودا انقلابی وای کرد، ئیوہ بونہ صاحبی فتوحات تشکیلی دہولہتتان کرد، ئہو گروہہ خائنانہ، خائب وخاسر بون، تیاچون زہرہریان کرد. خودایہ بؤ مسلمانانی ئہو عصرہ لہ شرق وغرب انقلابی بنوینی ئہو نوعہ کہسانہ پہشیمان ببنہوہ، سعی وکوششیان لہ خدمت کاری (اعادی) بہ ہہبا بروا، دہستہو ئہژتو وہ پہنجہرؤ بن.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ سوادی اعظم لہ قہومی نجیبی (عہرہب) أنتظاریان ئہکرد آیا عاقبتہ بؤ کفاری قرہیش ئہبی؟ یا بؤ حضرہتی محمد؟ لہ تقدیری اول باشہ، ہہر کہس لہسہر ئاین ورہوشتی خوئی

ئەمینی، لە تقدیری ثانی ئەچن بۆ لای پیغەمبەر و مسلمان ئەبن. لە پاش فتحي مکه گروه گروه ئەهاتن ایمانیان ئەهینا، ئەرۆیشتنهوه، ئەوهنده لە خدمت صاحب رسالهت دا نهدهبون که ایمان به تهواوي له دلیان قرار بگری و محکم بی. لە پاش ئەوه که حضره تي (رهسول) وهفاتی کرد معظمیان مرتد بون له دین گه پانهوه، لاشک مقصد له و خطابه ئەوانه. علاوهي ئەو رده ته، چه ند که سی دهعواي رساله تیان کرد وتبعهئ زوریان بو، حتا خاتونی (سجاح) ناو دهعواي رساله تي کرد وه خه لقی زور له رجالي قومی غیوری عه ره ب دواي که وتن تابه (مسیلمهي کذاب) به گانیان دا. خوا ئەفه رموی ئەي ئەوانی ایمانیان هیناوه ئەوهي له ئیوه بگه رپته وه له دینی خوی هیچ اهمیه تي نیه، دینی اسلام به رده تي ئیوه خللي پی ناگا.

﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾ له مه ودوا خوا قه ومی دینئ ﴿يَكْفُرُ بِهِمْ وَيُجِيبُونَ﴾ خوا ئەوانی خۆش ئەوی ئە وانیش خویان خۆش ئەوی. محبه تي خوا له حق عباد چی یه؟ محبتي عباد له حق خوا چی یه؟ چی گوفت وگویه، ئەمه یه. (متکلمین) بعضي تفویض ئەکهن، بعضي تأویل. (صوفیه) بی تفویض وتاویل، حقیقه تی، ادعا ئەکهن، ئەلین ذوقی (ابن تي نشناسي به خودا تا نه چشتی). حقیقه محبه ت چشتی ذوقیه تعریف ناگری. من ئەوهنده ئەلیم محبه ت بۆ اطاعه له هه مو ده لیل وبرهان به قوه ت تره، بویه ئەوانه ي ده عوه تي (ناس) ئەکهن به ناوي (مسیح) یا (علي) یا (شیخی له شیوخی طریق) ته مامي قوه تي خویان، له إلقاء محبه تي ئەوانه يه بۆ ناو دلی عباد. ئەمرو (ژاپونیا) نوعه محبه ته كي ملكي خویان هه يه به آمریکی ئەو خویان ئەهاوینه ناو ناگر. وه عینی سعي ئەکهن بۆ بغضي حضره تي محمد وأبو بكر وعمر و علمایانی راسخي اسلام که ئەو محبت و بغضه له دلي داگیر بووه، قطعیا رووناکاته حق به هه زار گورزي گران ئەو دله نهرم نابی.

﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ له سه ر ایمان داران نه رمن. نهرمه خیری؟ نا نه رمي

تواضع ورفق و مرحمت. ﴿اعزّة علی الکفیرین﴾ غالبن بہ قوت و قدرت و شدہ تن ﴿بجہدوت فی سبیل اللہ﴾ لہ ری خوا غزا ئە کەن مَخض بۆ رهضای مولا إعلائی کلمة اللہ إنقادی بشر لہ شہر ﴿ولا یخافون لومة لآبیر﴾ لہ ہیچ کاری إلهی باکیان بہ سہر زہنیش لائمان نیہ. ئەوانی مُصلحن ئەبی و ابن، نەک دل بہ خرتوپرت ئە گەر وابکەم وادەلین ئە گەر وانە کەم وادەلین، ئەو کەسە دلئیشی نارحەت ئەبی چشی پی ناگری. ﴿ذک﴾ ئەوی ذکر کرا لہ أوصافیان خاصة وصفی اخیر ﴿فضل اللہ﴾ إسانی خوایہ ﴿یوتیہ من یشاء﴾ خاص بہ قەومی (دون) قومی، شخصی (دون) شخصی ﴿واللہ واسع علیہم﴾ جودو إسانی زۆرہ فراوانہ. ترسی برانی نیہ، ئەزانئ کئ لایقہ بۆ ئەو أوصافہ. ئایا ئەو قەومہ کین؟ زۆر قسەیان کردوہ حتا شعیعی (علی) ئەلین ئەو قەومہ خو شەویستہ إمامی علی وَعَسْکَری ظفر پی گرتی لہ حەربی (جمل و صفین). پف یاخوا مبارک نەبی ئەمە یە جہادی فی سبیل اللہ کە پشتی إسلامەتی پی شکا؟ بعضی لہ وان ئەلین ئەو قومہ (مہدی) و أتباعیہتی، با بمرن لہ إنتظارا، مہدی ناویر خنکا، مہدی کە ئەلین لہ (مکە) ظہور ئەکا تا ئەمرۆ نەہاتوہ لہم رۆش بہ ولوہ تا حکومەتی (وہابی) لہ حجاز دابی، ہیچ. رەنگە مرتدەکان پاش إستلائی (ابن السعود) بہ وہابیان تعبیر بدەنەوہ، ئەوانە ہذیانن. پاش وہفاتی رەسولی اکرم کئ مرتد بون؟ وہچی قەومی چارہ سازی کرد؟ باعثی غیرەت و ہمت و عزم و ثبات و اقدام کئ بو؟ تاریخ شاہدہ. روایەتی ئەم و ئەوی چ پی دەوی؟ چەند أصحابی گوزین شاہدی ئەدەن ئە گەر أبو بکری صدیق نەبایە دینی اسلام لہ گەلأ صاحبی ئە چوہ قەبری (ذک فضل اللہ یوتی من یشاء).

﴿إِنہا ولئکم اللہ ورسولہم والذین آمنوا﴾ ہەر ئەوان ناصر و ظہیر و پشتیوانی ئیوہن، أجانب بۆ ئیوہ کە لک ناگری، خاصة کە سیاسەت غلبە ی کرد، طمعیان

غالب بوو، هرچی بیکه ن بۆ خۆیان ئە کەن. ئە و مؤمنانه ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾
 به ته واوي به جیی ئە گه یین ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ زه کاتی مشروع ﴿وَهُمْ
 رَاكِعُونَ﴾ ۵۵ خاضعن بۆ أمري إلهي به نفس و دلّ پئی یان خو شه زه کات
 بدهن، یا خود خۆیان به (دون) ئە زانن به ره ژیرتر ئە بینن له وانی زه کاتیان
 ئە دهنی مَنّ و اذی و خو هه لکی شانیا نیه. خلاصه ی رابطه ی مادّی و معنویان
 (على وجه الكمال، بلّ الأکمل) له به ینا به قوه ته.

معنای راستی ئە و آیه ته ئە مه یه، ئە وه ی ئە لئین ئە م آیه ته ده رحه ق حضره
 تی علی نازل بووه وه قتی که ئە نگوستیله یکی دابه به فقیری سائل له وه قتی
 رکوعی نوێژ، قسه ی بئی ناوکه، مقام مناسبه ی له گه لآ ئە وه نیه. ئە نگوستیله
 به خشین له وه قتی رکوع ئە وه نده قیمة ت دار نیه شخصی پئی بیته وه (ولی
 و ناصرو متصرفی فی الأمور) یعنی خلیفه ی کبریاء، ئە و نوعه که سه منحصرأ
 بئی به خلیفه، که سی هه مو مالی خوی له ری خوا صرف بکا ئە بئی بیته چی؟
 ئە بئی به هه زار مرتبه له فوقی خلافت بئی. ئە نگوستله ی نه دور بووه نه
 ئە لماس، نه زوبه رجهد بووه نه عقیق، نه جَزَعِي یمانی، نه عقیقی به د اُخْشَانِي
 به خشینی و نه به خشینی چی یه؟ وه اموالی روحیه ی حضرتی (علی) له آنی
 نوێژ کردن که (سعدی) ئە لئ:

(جان سوز در نماز جهان سوز در و غا)

له و حاله دووره. وه له بهر مراعاتی جهه تی وه حدت (وَلِيكُم) ئە فه رموی به
 إفراط نافه رموی (أولياءكُم). حاصلی له و أهلی ایمانه نه (علی) به خصوصی
 مقصوده نه (أبو بكر). له زه مانی نزولی ئە م آیه ته جار و مجروری خلافت نه بو تا
 بلّین به و آیه ته کامیان مُرْشَح ئە کریین. ئە مِرْوَ ئە م منازعاته له به ینی فره قی
 اسلام زور عیب و شوره ی یه، اسلام بئی نصیرو بئی معین و بئی خلیفه له هه مو
 دنیا ژیر ده ست، چاره ی ئە و ره زاله ته نه کری (أبو بكر) خلیفه ی به ره هه قه یا
 (علی) حقاً عینی حماقه ته.

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ایمانی کامل مستلزم بؤ اعمالی چاکه،
 ئەوانه حزبی خوان غالبن له سهر أعداء ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ۵۶ که وایی
 به بهانه‌ی (نخشی أن تُصیبنا دائرة) له دائره‌ی حزبی خوا دهرمه چن. به خوا
 وا دهرچون روحیان دهرچو بونه ژیر چه پرۆکی دیان وجو. چه ند مسلمانئ
 أهلی دین اتفاقیان بو بونه (سییدی انام) إستلای معظمی أممیان کرد که زؤر
 بون بو له مئاتی ملیون تفرقه یان کرد، هه رکه سه که سیکی إتخاند کرد به (ولی)
 خاصه ولی إرشاد ومعنویات، ژیر که وتن بونه مسخره‌ی بشر، أول به مسئله‌ی
 فضیلهت أبو بکر گه وره تره یا علی؟ آخر ماده‌ی (قومیهت)، روحی ایمان
 وإسلامیه‌تی له دلاندا نه‌ما، آخرهت فه‌وتا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ له م پؤ تا قیامهت
 ﴿ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا ﴾ ئەوانه له کی؟ ﴿ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (جو) و (دیان) سائری أممی تر که پیش ئیوه صاحبی کتاب بوین
 ﴿ وَالْكَافِرَ ﴾ ری سهر را (ر) قرائته، ری ژیر ری ش (ر) قرائته، یعنی ههر
 قه‌دمئ ههر که سی کافر بی چ گه‌مه به‌دین بکا یان نا، یا ئەوانه‌ی که دینی
 ئیوه یان کردیته قه‌شمه‌ری و گالته، مه‌یان گرن ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ به نصیر وظهیر و
 محب.

قه‌ومی دینی إنسانی لا سوک بی چون موالاتیان له‌گه‌ل ئە‌کری؟ ئە‌و که‌سی
 به‌حق مُتَدِّين بی دینی لا له روح و له جگر گوشه خوشه‌ویست تره به
 حُرْمَت تره. ئە‌مپؤ مع‌الأسف معظمی مسلمانان دینی خویان کردیته مسخره
 قه‌شمه‌ری و گه‌مه‌ی پی ئە‌که‌ن، هیشتا ئە‌وانی أهلی (بِدَعَه) تن له وروه
 ئە‌هوه‌ن ترن. ئە‌مه‌ عجباً سببی چی یه؟ لای من سببی بی میشتکی مه‌لایانه
 تجدیدی دین ناکه‌ن به‌نوعی که لای لاوانی تازه پی گه‌یشتو شیرین بی
 له‌زه‌تیکی لی بزائن له‌سهر ئە‌و هه‌مو تجدیدی که‌له‌م عصره‌دا هه‌یه ئە‌وان ههر
 له‌سهر حالی ده‌عصری پیش ئە‌مپؤ ئە‌پۆن. که‌سی خوی ناگای له‌أساساتی

دینی اسلام بیئیٰ ئەو أحوالاتہی سَوادی أعظمی مسلمانان لەسەرین، بەدینی نازانی گەمەي پیی ئەکا.

علمادی مادە و طبیعت ئیشیان گەیانده دەرەجەیک کہ انسان تیا حەیران ئەبی، ئیستاش اکثری فرہقی مسلمانان لەسەر معنویات ئەرۆن، أما معنویاتی کہ لە حقیقتە دا ھەموی شکرە، وە بە عینی توحید و دینی حەقی ئەزانن. کہ ھاتنە باسی اولیاء اللہ مەپرسە بە جاری نظامی کائناات تیک ئەدەن، حتا ئیش لە دەستی خوا دیننە دەر، ئایا کەسی کەر نہبی بەو معتقداتە راضیە؟ حاشا.

نازانم کەسی (ولیی) بەد معنایە کہ مسلمانان تیی ئەگەن لە کوئی ھاتە ناو دینی اسلام؟. لە زەمانی رسالەت، زەمانی دوایی ئەو ئەو ئەو باس و خواسە نہبوو

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَكُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥٧) لە ھەموشت خاسە لەکاری کہ ببیتە موجبی

تفرەقە. ئیمە ئەگەر بە راستی مؤمن بین، خوا (ولیی) ئیمە یە واحدە وەحدەتی لە ئیمە ئەوی ئەھلی ایمانی خوش ئەوین، با ئیمەش خوامان خوش بوئی یەکترمان خوش بوئی، چونکی ئەوہی خوای خوش بوئی ئەبی خوشەویستی خواشی خوش بوئی. أشخاصی چەند عصر لەمەو پیش رابردون، نہیان کەینە بەھانە عداوہت، ئەگەر چاکەیان کردیہ ئیمەش چاکە بکەین ئەگەر خراپەیان کردیہ با ئیمە خراپە نہکەین بلینی (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكُنَّا مَا كَسَبْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ). ئەوہی خوشمان ئەوی بو خوامان خوش بوئی، ئەوہی رقمان لی ئەبیتەوہ بو خوامان رق لی ببیتەوہ ئەوسا ئەبین بە کیتلەیی واحد بە خوش و سەر بەرزی لەسەر ئەرزی ئەژین.

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ لازم نیە مراد لەو بانگە بانگی معروف بی، ئەگەر

ئەو سورہتە گەلی پاش تَقْرُی آذان نازل بووہ، بەھەر نوعی بی ئیوہ کہ بانگتان ئەکرد بو إقامەي نوئیژ ﴿اتَّخِذُوهَا﴾ نوئیژ یا بانگ ﴿هَزُوا وَلَعِبًا﴾ بە خصوصیش گەمە و گالتەیان بەعبادەتە ئەکرد، مقصد گەمە بە نوئیژ کەرەکانە. ئیستا زۆر سەیرە لە بەینی مسلمانان کەسی نوئیژی بکا گەمەي پیی ئەکەن.

له کوردستانی ئیمہش اثریکی له و مسخره تیا په یا بووه، په نا به خوا، خوا خیران کا. عجایبه کهسی آدنی شعوری هه بی گه مه به بانگ و نوپژ بکا. آذانی محمدی به دهنگی خوش به لهجهی شیرین آدا بکری حقیقه زور مؤثره خاصه بانگی سبهینی، أما نه گهر کهسی وه کی (محمود آغای) خالوزام بانگ دا زور گران و مستکره دپته بهر گوئی. بعضه مؤذن بانگ نه دهن انسان قصد نه کا لۆکه له ناو گوئی خوی بنی. اساس آذانی محمدی له خهونی (عبدالله کوری زیدی أنصاری)یه. مه لایان و محدثه کان گه لی په له په ل نه کهن له و خصوصه، لکن غدر نه کهن.

جه نابی رسول الله إعتباری به خه وه که نه و بانگه ی که عبدالله ی أنصاری له خه ودا بیستی قبولی کرد وه کردی به شعاری نوپژ ئیتر چی تیا به قیل و قالی چی پی نه وی با نه و منقبه بو عبدالله ی أنصاری بی چی ده بی؟ وه له وه پرا لازم نای خهون علی الأطلاق ببیته مداری احکام. نوپژ عباده تی زور عظیمه عبد روو نه کاته خوی به هه مو وجه تعظیم و إجلالی خالقی خوی نه یه نیته چی، نه و قراءته نه و قیامه نه و رکوعه نه و سجوده چۆن گه مه ی پی نه کری؟ خاصه شکوهی جماعت إتباعی إمام له حرکات و سکنات هیبهت نه دا به ناظر.

﴿ذَلِكَ﴾ نه و هزو لعبه به نوپژ به آذان ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ٥٨ له هه موو عالم بی عقل و بی انصاف تر (دیانی) اروپایین، له سهر نه و گه مه د رقص و سه ماوتیا ترویه، که ناوین لی نایه نوپژ عبادت، گه پ به نوپژ اسلامی نه کهن؟ سبحان الله له و بی مروه تیه. ته ماشای نوپژ جمعه نوپژ جه ژن نوپژ باران بکه ن، هیچ پیغه مبه ری ری به و ته رتیباته نه برد، له سهر نه و حاله له ئیمه دهنگ ناکهین نه وان گه مه به ئیمه نه کهن؟ حقیقه معکوسی متناسبه. کهسی عاقل بی محاسنی نه و عباداته إدراک نه کا ناتوانی انکار بکا. أما إنسانی بی عقل خاصه نه و که سه ی خوی بی عقل بکا، قسه ی له گه ل ناکری، ته ماشای حُسن و قبحی اشیاء علی ما هو علیه ناکا، به لکو نه وی خوی کهر بکا، حقایق

ئە گوړی. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ توجیهی خطاب بکه بو أهلي کتاب، أما سائري کفاري جهلا، نا، بوچی؟ ئە وانی أهلي جاهلیه تی ئە گەر گه مه به دین بکه ن ئیمه یان رق لی بیته وه إستکراه بکه ن، هه رنه یسه، جاهلن زور عه بییان لی ناگیرى. أما ئیوه أهلي کتابن مربوطی أحكامی سماوین ایمانتان به خوا هه یه تصدیقی اصلی رساله ت ونبوه ت هکه ن، ئە و سیئاته له ئیوه دووره ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا﴾ أسبابی موجب ه چیه ئیوه إنکار له سه ر ئیمه ت هکه ن؟ ئە مان که رهینن به که ره اندی سخط وقین که عقابی لی ترتب بکا هیچ سببی نیه ﴿إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ به ایمانی دروست جزم ئە که ین که خوایه که بی شریکه منزه له تطورات وتجسم وتمثل واتحاد وحلول ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ بپروایمان هه یه به کتبی إلهی ئە وهی بو ئیمه ی ناردوه ئە وهی له پیش دان بو أممی سابقی ناردوه، ئایا ئە مه ئە بی به موجبی نقه م؟ حاشا ثم حاشا.

﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ عله تی حقیقی ئە وهی هه یه اکثری ئیوه خارجن له دائره ی اطاعه تی إلهی حتا له دینی خوتان ته ماشا که ن به إنصاف، چتان به سه ر کتبی خوتان ودینی خوتان هینا، کو دینی إلهیتان کرده عینی بشر په رستی.

ئیوه له سه ر ئە و میل ومشره به، چون به دینی من راضین ئیمه تان خوش ئە وى موافقه مان له گه ل ئە که ن؟ نابى. ﴿قُلْ﴾ یا محمد الرسول به و قه شمه ری که رانه ﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِك﴾ به خراپتر له و قه شمه ری هه یه که به ئیمه ی ئە که ن خراپتره ﴿مُؤَبَّةً﴾ له جهه ت پاداش وجزای سُخْرِيَه به دین ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ جزای رأسا له طرف خوا ئە و خراپتره یه به إعتباری ظهوری له داری دنیا، کین ئە وانه؟ ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ﴾ که سی خوا له سه ر أرحم الراحمینى خوی دووری بکا له ره حمه تی که (وسعت کل شیء) رقی لی بگری روي لطفی تی

نہ کا ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ جمہور لہ سہر ئہ و ہن کہ خوا بالفعل مسخی کردن کردنی بہ مہیمون وبہ راز ئہ مہش بو خوا پہرستان جیی انکار نیہ . (داروین) ئہ لی: (إنسان له أصلیکی مہیمونہ ئہ گہر إرجاع بکریتہ وہ سہر أصلی بو چ نابی؟). بعضی ئہ لئین ئہ وہ من حیث الأخلاقہ . (سید رشید) نقل ئہ کا لہ (کتاب دُر المنصور) کہ (إبن المنذر) و (إبن أبي حاتم) ئہ لئین: (ئہ وانہ دلیان مسخ بو نہک جسدیان ئہ وہ مئلہ وہک (مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا) (سید رشید) لہ تفسیری آیہ تی (بقرہ) ئہ وہی ترجیح کردیہ ولیرہش تسریح بہ ترجیحی ئہ کا، وہ ردی (إبن جریر) لہ (مُجاهدی) رد ئہ کا .

لام وایہ ئہ مہ لہ بہر خاطر ای اذکیای منورانی عصرہ، ئہ مہ قبول ناکہن . أما عبارہ تی (جعل منهم القردة والخنازير) قیاسی لہ (مثلهم کمثل الحمار) ی ناکری، وہ لہ تاریخی طبیعی انسان بعضہ نقلان ئہ کا لہ وقایع ثابتہ کہ بوہ، کہ سی موی بہ سہر بہ دنیا استلای کردیہ عادیہ وہک بزنی لی ہاتوہ . ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ لہ نظری انسانی کہ انسان بی عبادہ تی بوت وأصنام وصور ہیاکل، گاو پشیلہ و قالوچہ، وہ کہ سی وہک خوئی بشر ہر کہ سی بی، مذللہ تی زیاتر تیایہ لہ مسخ بون بہ مہیمون . مہیمون شرہ فیکی حیوانی تیایہ، ئہ وانہ لہو شرہ فہش محرومن خسیس ودنیء مُحَقَّرٌ وَمُهَانٌ . عجایب ئہ وہیہ ئہ و دنی طبعانہ ئہ و دناۃتہ حس ناکہن پی متأل نابن، بالعکس متلذذ دہ بن . شیخ قبول بکا لہ بہر دہستی رادہ و ہستی چاو لہ سہر یہک مل شور بہ فخری ئہ زانی، سبحان اللہ لہو بشرہ چ بشرہ؟ ئہ وانہ ہموی استہزای خوایہ، ئہ گہر لای خوا محقرو مہان نہ بان، وایان بہ سہر خو نہ دہ ہیئا (نعوذ باللہ من غضب اللہ).

بزائن ئہ وہی سُخْرِیہ بہ دین بکا خوا چوئن گہ مہی پی ئہ کا! اینپراطوری کہ حکمی لہ سہر (۴۰۰) ملیون نفوس بشریا وہک مہیمون رقص وسہ ماو دانسی پی ئہ کا لہ وقاری بشری بہ عنوانی فنونی جمیلہ ئہ یکاتہ دہر . سہ رامہ دانسی

سیاسہت مدبرانی مملکت وەك بەراز بی غیرەت وناموسی ئەکا. ژنیان، کچیان، خوشکیان لەگەڵ آجانب ران لەناو ران قۆل لە قۆل هەلکێشراو ئەیان سوپینی. لەسەر ئەو هەموو دلت و نقصه طعن لە دینی اسلام ئەدەن؟ هەبهاوار (بعضه أشعاري أبي علي مُعري):

(وقال السَّهِّيُّ لِلشَّمْسِ أَنْتِ ضَيْلَةٌ) إيرادي جوانه. ﴿أُولَئِكَ﴾ ئەو گرۆهه كه أستهزاء به دینی ئیوه ئەكەن ﴿شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ئەگەر چی مئوبههه ظاهری أسلافیان خراپتره، أما ئەوانه، مکانیان بد تره، له ریگههه راست دوور ترن. زیرا وقایحی موروث و مکتسبیا تى دا گرد بۆته وه. کفر له کفریان زیاد کردوه، لاشک جزای قیامه تیان شدید تره. ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَأَمِنَّا﴾ ئەوهش نوعه گه پیکه به مسلمان ی ئەكەن، زاتاً مقصود له و آیه ته تذکیر و تحذیره له و جوله كه و دیانانهه كه من بعد أهلی ایمان توشیان ئەبن. حتا ناپلیۆن كه هاته مصر اظهاری اسلامیه ته کرد اشتراکی جمعهه ئه کرد، گه لی سیاسی نقیه به پاستیان ئەزانی به ته واوی بۆی رام بون تا آخری ئەوی کردی کردی. اعتراض له و سیاسیونا نه كه له عصری ئیمه مسلمانن زۆر لازمه. من بر وای به سیاسیون ناکه م، بۆ؟ ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ له گه ل کفر ئەهاتنه لای ئیوه وه له گه ل کفر ئەوان ئەچونه دهر، ایمان له دلیان دا نه بو به قه دهر زهره یك ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ به چ قصدی؟ به چ فکری؟ ئەهاتنه لای ئیوه ئەیان گوت ((ئیمه ایمانمان هیناوه)) ئەوی بزریان ئەکرد له دلی خویمان دهرگرت، خوا عالمتره له ئیوه، ئیوه ایقان ئەکا ئاگادار بن، له کیدی ئەو نوعه كه سانه خو پاریزن.

ئەلین: وه قستی ئەوروپای زۆر ئەترسان خه یالیان له (حج) ی مسلمانان ئەکرد ئەیان گوت هه مو سالی ئەو هه مو مسلمانانه ئەچن بۆ (مگه) ئەلبه ته صندوقی عمومیان هه هه حاجیه مقداری پارهه ئه هاویتی شایه د حه ربی

عمومی بی بیٰ نے وپارہیہ صرف نہ کہن نہ لہبہ تہ تا نہ مپوؤ نہ و ثروہ تہ لہ ملیاری لیرہ تجاوزی بوہ. بو تحقیقی نہ و خہیالہ بعضی لہ روس مسلمان بون ناوی خویان لیٰ نا (أحمدوف) (أبراهیموف) (فلانوف) خویان سونہت کرد چون بو (حج) تہ ماشای حالی حجاجیان کرد تی فکرین نہ و نوعہ خہیالہ بہ دہ ماغیان دانہ ہاتوہ وہ رؤاساشیان بہس بہ دو اطماعی خویان کہ وتون، حجاج روت نہ کہن نہ و یخون. گہ رانہ وہ حقیقہ تیان بو قومی خویان بہ بیان کرد، نہ و ترس و ہراسہ بیان نہ ما حتا مع الاسف نہ مپوش نہ و فکرہ لای ئیمہ نیہ.

﴿وَتَرَىٰ﴾ نہ گہ ر رائی ﴿كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ لہ اہلی کتاب تجارہ کانیان رؤاسایہ کنیان ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ لہ ناو گوناہو ظلم و تجاوز لہ حقوق ﴿وَأَكْلِهِمْ السُّحْتِ﴾ حرامی، دونی، خسیس، ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ ئایا نہ و نوعہ طماعہ لہ ایمانہ؟ گویٰ نادہ نہ چاک و خراپ، ہر چہ نگ کہوی، بہ ہر تہ رزی بی. ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ آنہ علما و مشایخہ کانیان لہ و سیئاتہ بالفعل اشتراکیان نہ دہ کرد. اما بہ و ہندہ نجاتین نابی، نہ بایہ نہیان لیٰ بکہن، نہ دی بوچی نہیان لیٰ نا کہن نہ و رؤاسای دینہ؟ ﴿عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ﴾ لہ درویان زاتا نہ وانہ نہ گہ دروزن نہ بان نہ و ہمو سیئاتہ بیان نہ دہ کرد. دروزن، خاصہ دروزنہ کانی سیاسی، بہ درو لہ گہ لیٰ جیٰ خویان نجات نہ دہن، حتا لہ محاکم و مجالس تشریعی براءت و ہر نہ گرن، طبعاً لہ سہر سیاست رشت تر نہ بن.

﴿وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ﴾ لہ حہ رام خواردن بو نہیان لیٰ نا کہن. ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ صنعت لہ عمل بہ قوت ترہ، شتی نہ بیٰ بہ ملکہ پیٰ نالین صنعت. قابلہ أہبار و رُہبانیونی بعضی أعصار و أدوار إنزویان کردبیٰ اشتغالیان بہ و نوعہ سیئاتہ نہ کردبیٰ. اما چہ ند عصریکہ ہر چہ ند سیئات وقایحی جوو و دیانان ہہیہ، رأسہ کانی دینیان نہ یکہن، وہ تحریک و تشجیعی ملتی خویان نہ دہن. نہ و دروی کہ دہ بارہی حضرتی رسول اللہ نہ کہن بہ

خاطرو خیالی بشردا نہ ہاتوہ . زاتاً ہر دینی کہ گورا ہر قہومی کہ بہ فساد چون، ہموی له بہدی مہ لایہ کانیاہ، ئەوان وەك دل وان، ئەگەر دل چاک بی، گشت اعضا چاک ئەبن، ئەگەر دل خراپ بی، ہمو اعضا خراپ ئەبن. ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللَّهُ مَعْلُولَةٌ﴾ چ جائی روآسای دینیان نہ هیان لی بکن لەو جورہ سیئاتہ لەوقسہی شنیع وکفری گرانه إنکاریان ناکەن کہ ئەلین خوا دەست بەستراوہ بہ (کہ لەپچہ) یعنی بہ خیلہ . لاشک إنسان کہ کہوتہ تہنگنای ئەگەر ایمانی زۆر بہ قوت نہ بی وەبەتہ واوی مسلم و منقاد نہ بی، قسہی وا دەر بارہی خوا ئەکا . ئەو نوعہ إنسانہ نەك لە جوان لە مسلمانانیش دا زۆرن خاصہ قہومی کہ نسبہتی ہمو شت مباحثہ بۆ حضرہتی کبریائی بدەن، وەك جەنابی (عوث) ئەفہرموی لەو نوعہ قسانہ قوت وھیژی ایمان بەدەر دەکەوی . لای من وایہ ئەو قولہ معنای تری ہہیہ کہ مقصدی جولہ کہ کان بوہ وەلہ و مقامەدا زۆر جوانہ ئەوانہ ئەیان گوت ئەوزاتہ درۆژنہ پیغەمبەری راستی نیہ، ئەمپۆ سبہینی دہفہوتی (تورات) تصریح ئەکا ئەوہی بەدرۆ دہعواي پیغەمبەری بکا خوا نابودی ئەکا ئابروی ئەبا . وەتہ ماشایان ئەکرد روژ بہ روژ کاری حضرہتی محمدی زیاد ئەکا، بہ قوت تر ئەبی، سەر ئەکەوی، فتوحاتی بۆ ئەبی، خاصہ پاش فتحي (مکہ) لەو تأثرو تحسره ئەیان گوت خودا قُدرەت وقوہتی نیہ دەست بەستراوي بی دہسەلاتہ وە إلا نەدہبا ئەو کارہ وابی . ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ قورپیان بہ سەر مغلوب بون دەست بەستراوو رەزیل کران . لەسەر معنای پیشو ئەلین ئەمہ دوعایہ لە جوان بہ بخلیکی شدید، یعنی یا خوا ئەوان زۆر بخیل بن خوا شُحیان تیدا خلق بکا، أما لە (حَسَنِي بَصْرِي) نقل کراوہ تفسیری (غلة) بہ غلّی أسارەت لە دونیا وەعذاب لە جہنم ئەوجا پەل پەل ئەکەن بۆ مناسبہ لەگەل غلّی سابق . کہ نسبہتیان بۆ خودا ئەدا، بعضی ئەلین جناسی لفظیہ بعضی ئەلین مشاکلہی معنویہ، یعنی نظر بہ معنای اصلی لغت، أما نظر بہ معنای ئیمہ حاجت بہو کہ شماکەشہ نیہ .

﴿وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا﴾ لعنی مؤبد قابل نیہ رہمیان پی بکری ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ نعمہتی شاملہ قدرہتی کاملہ، ئەوانہ کہ حصری نبوہت و عواطفی إلهی له خویمان ئەکەن لایان خوا بخیلہ بی قدرہتہ، أَنَّهُ نَاتَوَانِي غَيْرِي بني إسرائيل پیغەمبەری بنیری ئەو دونیایہ بۆ وانہ خەلکی طفیلیہ. حاشا خوا رَبُّ الْعَالَمِينَ دەستی انعام و قدرەت وقوہتی واسعہ. ﴿يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ حصر نیہ بۆ قەومی (دون) قومی، چۆن حەز بکا وائەبەخشی، صرف ئەکا چ ماددی چ مەنوی، ولاشک مَشِيَّتِي إلهی له گەل علم و حکمەتہ، ئەو ئەزانئ کئی لایە قە کئی نالایە قە. جو مَجَسَّمَن لایان خوا إنسانی ظلامہ. تەماشای ئەوانە ی دەست بۆ خوا پەیا ئەکەن (غلامی أحمدی قادیانی) ئەلی خوا هەزار دەستی هەیه، ژاپون هەیکە لیکیان هەیه هەیکە لی خوای صەد دەست، (قادیانی) یعنی پیغەمبەری نوکەر ئەمەندە ی بکەم دیوہ ئەم خَلْق و ایجادە بە صەد دەست ناکری هەورازی بردوہ بۆ هەزار. بە خودا ئەگەر ئیشی خوا پەکی لەسەر دەست بکەوی خَلْق و ایجاد و ترتیب نظامی ئەو عالەمە عظیمە بە ملیونی دەست ناکری (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن فيكون) لەو نۆعە مقامە دەست نایەتە خَیَال حَتَّا له حەقی صاحب دەست وەکو (سید) له حاشیە (مُطَوَّل) ئەفەرموی. کەوابی حاجەت نیہ بە تاویل بە تفویض.

﴿وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ له قرآن کہ شاهی رسالەتی تویە له نصر و فتوحات ﴿طَغَيْنَا وَكُفَرْنَا﴾ ئەوہ ی بۆ تو ناردراوہ له طرف خوای خۆت بۆ گەلی لەوانە تجاوزات و کفر دەربارە ی خوا یا تو زیاد ئەکا. ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ زەرەریان بۆ تو نابی خو بە خو ی مشغول ئەبن ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ دەوام ئەکا نابریتەوہ، اُمْتِيش ئەتوانی لەم عداوہتی وان استفادە بکات. ﴿كَلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ هەروەقتی ئاگری شەرو شۆر و سلب

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ جوو و دیان ﴿ءَامَنُوا﴾ ایمانى دروست
 ﴿وَاتَّقَوْا﴾ له فتنه بازي ﴿لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ هي رابردوو
 ﴿وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٦٥﴾ كه جيى اهلي ایمان و صلاحه. أما نه و
 سيئاتي نه يکهن به عيني خيرو واجباتي ديني نه يکهن چى جائى ایمان بينن
 مسلمانان و هر نه گيرن، نه گهر چى ناو هر ناوي اسلاميه، أما ناوک. نه و ناوک
 نيه. حاصلې اسلاميه تان نه مړو روژي واره شي نه ديتيه ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ﴾
 ﴿وَالْإِنْجِيلَ﴾ به ظريفي عمليان به تورات و انجيل کردبايه ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ
 رَبِّهِمْ﴾ کتبي سائري رسلي بني اسرائيل ﴿لَا تَكُونُوا مِنَ الْفَاقِهِمُ﴾ ثمراتي داران
 ﴿وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ نباتاتي ناو ارضي سهر ارضي و معادن استفاده يان له
 همو شتى نه کرد ایمانيان به پيغه مبهري ديئا. نه واني بوت په رست و روژ په
 رست و مانگ په رست و گا په رست بوو، مغلوب نه کران. ملکی واسع نه هاته ژير
 دهستي (مليون) گشتمان بعد الايمان بالله وه به حضرتي موسی و عيسى
 و محمد، نه بوين به کتلي واحد، نه واني انکاري صانع ووه حده تي الاهي و اصلي
 نبوه نه کهن، له کولمان نه کردنه وه، له دنيا به خوشی رمان نه بوارد. لکن
 عداوتي نه و ملله سائري دوشمني تري له فکر بردينه وه، نه و رساله ته که بو
 توحيد ناردرا، نه مانه کردبانه باعث و سببي تفرقه.
 بناءً عليه تا پيغه مبهري زياد بن تفرقه زياد نه بي. له و جهته وه خودا
 رهمي کرد، حضرتي محمدي کرده خاتم الانبياء، ده رکه ي نه و فتنه
 و فسادهي پي به ست. لکن نامه ي ولايه ت له زيده فسادي و تفرقه جيى نبوه تي
 گرتنه وه. ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ ﴿٦٥﴾ طبيعي کلي فرد له افرادی امه ت تيکرا خراب
 نابن، بعضي نه ميني له سهر اعتدال له به يني افراط و تفريط نه روا، نه گهر نه وانه
 زور بان باش بوو، لکن فسادا دائماً له اشتعال داده بي.

﴿وَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ خودا تو حفظ ئەکا له گیدی ئەوانه که دوشمینی دین و (دم)ی تون هه رچهند به لاو مصیبهت له طرف وان بیته سهرت نه قوای مادی نه قوای معنویت فتوریکی نایه ته سه ری وه خو فی نادا به تو که منعت بکا له تبلیغی (ما انزل إلیک) خودا إمدادت ئەدا. حکما ئەلین هه رچهند قوای جسمانی متناهی الأثره أما که إمدادی له مبدائی مجرد بی آثاری غیره متناهی هی لی صادر ئەبی. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ ئەو قومه که راسخی فی الکفرن (یسارعون فی الکفر) (یسارعون فی الأثم) خودا هدایه تیان نادا نه بو ایمان نه بو صدی توگیدی وان به بائەدا. ئەو سورە ته هه ر به نزول آخره أماله أوائلی سوه ری قرآنه أنه تازه له أوائلی تبلیغه و لو حضره تی رساله ت ئەو ندهی له عمری نه مابو که حاجه ت به و تعهده بی وه فتوحاتیش ته وای بو بوبو، جوو و دیانی حجاز که لکی عداوه تیان پیوه نه مابوو، وه ممکنه عینی مقصد إعتباری أمته پاش زه مانی سعاده ت پهیره وی صاحبی رساله ت بکه ن صبرو ثبات بنوینن هیچ له قرآن کتم نه که ن ئاگایان له گیدی جوله که و دیانن بی. ئەوانه له أطرافی حجاز (إلی ماشاء الله) بلاوبوین عداوه تیان له گه ل دینی اسلام جدیه فتور و قصور ناکه ن ئیوه ثابت قدیم بن به إحتراس بن خودا حفظتان ئەکا نصره تتان ئەدا. لکن مع الأسف ئەو وعظه له گوئی نه گه ر زور پی نه چو له بهر عداوه تی خو به خوئی ئاگایان نه له دیانان ما نه له جو تا کو روحی عزو شه ره فیان ده رچو.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ئیوه ش گویتان لی بی ئەهی أهلی ایمان ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ له سه ر چشتی نین ﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ مراعاتیان بکه ن به ته وای احکامیان به جی بینن. ﴿وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ سائری کتب که بو رُسُلی بنی اسرائیلی نازل بوه. له نظری منا ئەو تعلیقی بالمحاله نه توراتیکی بو موسی هاتوه نه إنجیل نه سائری کتب (کما انزل) له وه و ه قته دا

وہک حو نہ مابون، انجیل ہر تدوین نہ کرابو له قبیلہ ی روایات ہر (حواری) یہ شتی نقل ئەکا له أقوال وسیری عیسی، راست یادرؤ، وە سائری کتبی تر، ہیچ، چەندان إعتنایان پی نہ کراوہ، وە سندی إتصالیان نیہ. ئەوہی ئیمہ ئە ی بینین له کتبی مقدسیان سہراپا کفریات و خرافات و تعلیقاتہ. فی الحقیقہ واضحہ ئەو ناوو إسمی مُقدّس بی (مُلوث) کرایہ. أما ئیوہ ئاگادار بن کتبی تازہ دەست لی نہ دراوتان بو ہاتوہ، مُلوٹی نہ کەن..

﴿وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ الى الأبد. ﴿مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾
 تو تبلیغی خوٹ بکہ (وما علی الرسول إلا البلاغ) تزیدي طغیان و کفري ئەوانہ
 مە کە بە بە ہانہ، کتمی آیاتی خوا مە کە ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾
 لە سەرەوان عاجز مە بە. تأسفیان بو مە خو. زاتاً خویمان غریقن لە ناو کفرو
 گوناه بە لکو ئە گەر بیو شتی بو خاطری وان کتم کە ی دەها زیاتر کافرن ئە بن.
 دیارہ کفریش وە کە ی ایمان قابلی زیادە و نقصہ یعنی شدەت وضعف له بعضی
 ئە بن بە (ملکہ) له بعضی (دون) تر، وە کذا تانیزیکی مە حو ئە بن. ﴿إِنَّ الَّذِينَ
 ءَأْمَنُوا﴾ یعنی أمّتی إيجابہ ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ داخلی یهودیە تی بوین.
 ﴿وَالصَّابِقُونَ﴾ قومیکن بە ادعای خویمان بە تەواوی لە سەر دینی حضرە تی
 (موسی) ماین قوربانی ئە سوتینن. عطری خوشبووی پیوگوشت و هیسک بو
 شە و بوہی خودای اسرائیلی هەل ئە کەن له عبادەت روو ئە کەنە ئە و موقعە کە
 گویا حضرە تی إبراهیم إسحاقی کوری بردۆتی بو سەر برین له چیا ی (مینا)
 مرکزیان ئە مپۆ له قدسە، قومی کە من روژ بە روژ لە کە می دان مصاهره لە گە ل
 کە س ناکەن، سائری فرقی جوو، هەمو نصارا، و مسلمانان بە کافر ئە زانن.
 لە ناو بشر بی محلّ و اعتبارن بو یە له عبارە تیش اعرابیان مخالفہ.

﴿وَالصَّابِقُونَ﴾ معلومن ﴿مَنْ ءَأْمَنَ بِاللَّهِ﴾ بە وجهی لایق بە مقامی کبریائی
 نہ لئین دەست له بە ندە، ئیمہ أبناء الله وأحباء الله ین خودا جسمی زە لامە

مَصَوَّرَه، ره حمی خاصی ئیمه یه، نبوهت له هیچ شعبی نابیْ إلا له بنی اسرائیلی، اَنَّهُ خُوا ناتوانیْ ئە و لطفه له حه ق شعبیْ تر بکا، ئە مه ش نَوعه بُخْلِیکه، نه لَین اِتحاد و حلولی ئه بیْ، نه لَین تَغیرو تطوراتی دیته سه ریْ، له کرده وه ی خۆی په شیمان ئه بیْ.

﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ به و جو ره که روژیکه (لایغنی مولى عن مولى لا يجزي والد عن ولده) فیدیه نیه شفاعت بو ئه وانه ی که پیی هه لده خه له تین نیه دُراری انبیاء ناسوتین عذاب نادرین، ئە و هذیانانه نه که ن به دلّ و زوبان برپواو اقرار بکه ن هه ر خوا مالکی روژی جزایه . ﴿وَعَمَلٍ صَالِحًا﴾ به مجردی ایمان اکتفا نه که ن ایمانی بیْ عملی صالح داری بیْ به ره، ایمانی دروست سَوَقی صاحبی ئە کا بو کردنی چاکه، عَمَلٌ وَكُوْ داخلي حَقِیقَه تی ایمان نه بیْ، له لوازم و مقتضایه تی. ایمان به روژیْ به و نَوعه له رُسُل نه بیْ و ه ر ناگی ریْ. ایمان به روژیْ جَزَا به و ته رزه موجب به بو ایمان به خاتم الرسل. ایمان به خاتم الرسل ایمانه به جمعی پیغه مبه رانی عظام من نوح إلى عیسی علیهما الصلوة والسلام.

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جه نابی حه ق له گه ل هیچ قومیْ هیچ شعبیْ هیچ قبیله یْ نسبه تی خاصی نیه (رَبُّ الْعَالَمِین) ه کوردو جاوه یی هندوک لای وه ک عَرَب و سکسونی و هندوسه له کُلی قومیْ خودا پیغه مبه ری ناردوه، ئە م نقبه یه ته نها بو ئیسرائیلی و عه ره ب نی یه ! دینی ئیسلام بینای له سه ر مُساواتی حقوقی عمومی یه، که رامه ت بو ئە هلی تقوایه، نه جات به ئیمان و عملی صالحه ! هه ر که سی ئیمانیْ دروست و عملی صالحی هه بیْ، روژیْ جه زا ترسی له سه ر نی یه عاجز نابیْ (با که ره قه ره ج و دو م بیْ)، مقصد ئە وه یه موسلمانان وه ک جوو و دیانان نه بیْ، به مجردی اِنْتِسَاب خویان فیرفته نه که ن! لکن مَعَ الْأَسْف له وان تیْ په رین ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ که ئیمان به خوا بینن به ئیمانیْ دروست ، له أوامری دهرنه چن. ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾

﴿إِلَيْهِمْ رُسُلًا﴾ له خویان ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ﴾ كه
 مناسبی حالی روآسایه کانی دینی و دنیوی نه بایه ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
 يَقْتُلُونَ﴾ ﴿۷۰﴾ تکزیدی بعضیکیان نه کهن، بعضیکیان نه کوژن نه گهر
 ده سه لاتیان هه با تویشیان ده کوشت باوجودی به گیدو مکر قصوریان نه کرد.
 ﴿وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ فِتْنَةً﴾ لایان وابو معذب نابن، ئیمانی وان به روژی جهزا
 وانه بوو كه مه نعیان بكا له إتباعی هه وای نفسانی، فی الحقیقه ئیمان به روژی
 قیامت به و وجهه ی كه قورئان نه فهرموی مایه ی سعادهت و نه جاتی دونیا و
 ئآخره ته، تا ئیمان به روژی جهزا ضعیف تر بی انسان سیئات پتر ده کات، بی
 مبالات تر نه بی، نه وانه ی كه (بالمرة) ئینکاری نه کهن به ته وای له ززهت له
 گوناهان نه بینن زیرا كه می و وجدانیشیان نامینی، گوناه بو نه وانه وهك شهیدی
 و مصفایه. ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾ له بهر نه و حسابه کور بوون كه رر بوون ﴿ثُمَّ
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ به ههر جوژی بوو به هوش هاتنه وه، زاناندیان نه و
 ئیعتقاده چروكه، توبه یان کرد، خوا توبه ی لی قبول کردن، به سه ریان نه برد
 ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ كه مه کیان له سه ر (توبه) مانه وه ﴿وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ﴾ ﴿۷۱﴾ با نه وان کورو كه رر بن، خوا ناگاداره به وه ی
 نه یکه ن، أقوالیان نه بیسی اعمالیان نه بینن، زاتا قولیش عملی لسانی یه.
 ده باره ی نه و کورو كه ررانه یه له و مقامه ههر نه وهنده ده گوتری، جهزای وان
 نایه ته تقریر و تحریر و کو تفصیلا نیشیان بو بده یان گوی یان لی نی یه. ﴿لَقَدْ
 كَفَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ فیره قی نصاری له حق
 (عیسی) قسه یان مختلفه. قسمى نه لئن خویه خالقی نه رزو سه مایه ألوهیهت
 منحصره له مسیحی کوری مریمی، نه و قسه ئینسان نازانی بلی چی یه، کفره،
 جهله، حماقته، ده سیسه و اضلاله؟ كه سی لای وابی نه و عالمه صانعیکی

ہہ یہ وہ کہ میّ له لوازمی خلق وایجاد بزانی، کوو خیال و توہم دہ کا کہ سیّ
 وہک عیسی یا جبریل یا عقل و لاهوتی مجرد ئە توانیّ خلقی ئەو عالمہ بکا؟
 (عیسی) (قربائیل) (رفتمائیل) (گروبین) و (حافین) (صافین) ناتوان
 پیشکە یەک ایجاد بکەن. ئە توانم له عمقی قلب شاہدی بدم (عیسی) نہ یزانیہ
 (میکروب) ہہ یہ. ئایا کہ سیّ له بہ شہر بیّ باب بیّ بعضی خوارق العادہ
 بنوینی، ئە بیّ بلین ئەمہ خویہ؟ العجب ئەو قسہ چۆن له بشر ظہوری کرد، چ
 دەماغی ئەو حوکمہ تصدیق ئەکا؟ له چ میشکیّ له چ دلّی ئە چہ سپی؟ مادام
 عیسی ابن مریم بیّ، ئە بیّ اصلی ألوهیہ تفرعی له مریم کرد بیّ. ﴿وَقَالَ

الْمَسِيحُ ﴿خَوَى وَتَوَيْتِي ﴿يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ ئایا خوی
 ئە بیّتہ خوی خوی. ئە گەر خویہ ئەم قسہ یہ ی بو کرد؟ شاید کہ سیّ بلیّ
 خلافی ئەو قسہ ی کرد وتویہ تی خوام یا کوری خوام، افترا ئەکا درۆی بہ زوبانی
 (عیسی) ہہ لہستہ یہ، ئە گەر معاذ اللہ وای وتبی، قولی جووان دہر بارہ ی وی
 راستہ. ﴿إِنَّهُمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ له عبادت، له صفات، له ذات و حقیقہ، چ جای
 (هُوَ هُوَ)؟ ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ کہ دار الموحدینہ لہ گەلّ موحدان لہ
 جی بیّ گرد نابنہ وہ ﴿وَمَأْوَهُ النَّارُ﴾ کہ جیی و مأوی مشرکانہ ﴿وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾ ئە وی ظالم بیّ خاصہ ئەو ظلمہ عظیمہ کہ
 شیرکی باللہ یہ کہس نصرہ تی نادا له داری اخرہت با لہ دونیا أنصاریان زۆربن
 ، لکن ئەو رۆژہ بہ دەر ئە کہ ویّ ئە وانی بہ أنصاریان زانیون نصرہ تیان نادەن،
 یا خود پیّ نادریّ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ ئەمەش گروھیّ ترہ له (نصارا)
 وغیرہ نصارا ئەو قسہ یہ ئە کەن ، أما هیچ مشرکیّ ادعای انحصاری الوہیہت
 له معبودہ باطلہ کہ ی خویان ناکەن. ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ یە کیّکە له سیّ
 یا، یا خود سیّ یە مینہ. زاتا مشرکی (ملیون) شریکەکانیان لا، له خوا مُقَدَّمہ.
 یکیّ لای خوی میزەر بہ سەر بو باسی زاتیکی کرد له (مشایخی) عصر بعضہ

(إسناداتی) پی دا. وتم کہ وابیّ خوا بوّ چی یه؟ وتی خوا بوّ یه یه اوامری اجرا بکا، کأنه جنابی (کبریائی) ئەمر بەری شیخه کانه. ئەم سىّ یه (أب) و(إبن) و(روح القدس) ه لکن (سَيِّدِي أَلُوسِي) بنا به ريوایه تي (سَدِّي) ئەفهرموی: (حضرة تي کبریائی عیسی یا مریم) ه. في الحقيقة تفیصلي قسه ي له بعضیّ دیانان واله قضا ئەخوایّ که (مریم) ه أصل الكل بیّ، مشرکه کان اکثری إلهیان لا مؤنثه، ئەبیّ ئەوانیش إلهیان می بیّ.

﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ﴾ حقیقه تی الا ه گەر متعدد بیّ (من حیث الأفراد) وه کو سائری حقایقی ممکناتی لیّ دی، ههنگین (إلاه) نابیته (فوق الطبیعه) ئەو عاله مه عظیمه ئەگەر په کی له سهر تعددی (إلاه) که وتبی، به سىّ وچوار علاج ناکریّ زه حمهت به ملیونى بکری. أما ئەو مشرکانه له شتی وا نافکرن، ئەوي جاهل بیّ قسه ي له سهر زوبانی یه، به دلّ نازانی ئەلیّ چی.

مندالّ بوم باوکم (ره حمه تي خوي لیّ بیّ) خطبه یه کی زور مؤثری خوینده وه دهرویشی گه لیّ هاوهوی کرد پاش نویتّ ئەمري کرد کابرایان هینا فه رموی تو ئەو هه رایهت بوّ کرد؟ نهت هیشت مسلمانان به ته واوی گویّ یان له خطبه که بیّ؟ ووتی له شه وقي خوي. فه رموی توّ خوي ئەناسی؟ ووتی من هه نده هه نده ی نازانم، خواو پیغه مبه رو غوثی گه یلانی ئەو عاله مه یان خلق کردیه. ﴿وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ یعنی له وه ی ئەیلین نه گه پینه وه بوّ

توحیدی حقیقی ﴿لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ که ئەو قائلانن، معلومه هه مو دیان ئەو قسه ناکه ن مزقه بیّ وکو زور که من له سهر توحیدن، مسیح و مریمه به عبودو جاریه ی خوا ئەزانن ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۷۳) نه (مسیح) نه (مریم) نه (روح القدس) چاره یان پیّ ناکری. که وابیّ وه کو کوردی ئەلیّ (به ته مای نیسکیّ له ئیمانئ نه گه پین). ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ له پاش إستماعی ئەو آیاتی بیناته، ئایا ناگه پینه وه بوّ لای خوا؟ إستغفار ناکه ن

لہو گوناہہ عظیمہ؟ لہو کفرہ بی معنایہ؟ چی جائی (توبہ)، دہعوہتی عالم تہ کەن بۆ ئہو کفرو ضلالہ لہ مشرق و مغرب مبشریان بلاوبویتہوہ، دہولتہ تہ متمدنه کان پارہ یان لی صرف تہ کەن، تاکو خە لکی لہ دینی حق وەرگیرن، بۆ ئہو کفرو زہندیقیہ. عجایبہ ئہوہی لہ ناویاندا موحد بی (مسیح) بہ خوا یان بہ کوری خوا نہ زانی پی یان تہ لئین (ملحد) وەکی (متشیخہ کانی) ئیمہ ئہوہی پی یان ھەل نہ خەل تہ ئہی لئینی (منکر) وە بە لکو (تکفیری) تہ کەن.

سبحان الله العظيم چ انقلابیکہ ﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (۷۴) أما تہ وان پەکیان لہ سەر غفرانی خواو رہ حمی خوا نہ کەوتوہن عیسی بہ سیہ بۆ فدیہی نجات، تہ وانی تہ لئین (خوایہ) تہیکە نہ فدیہی نجات ئایا تہو نوعہ تحمقہ علاجی تہ کری؟ ﴿مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ﴾ لہ رسالہت زیاتر چ مہزیبہ تی نیہ، رسالہ تیش لہو انحصاری نہ کردیہ، پیشی تہو چہند پیغہ مہرانی عظام بہ آیات و معجزاتی غریبہ و عجیبہ ہاتین کہ سیان نہ یان ووتیہ ئیمہ خواین یا کوری خواین.

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ھەمویان دہعوہتی عبادیان کردیہ بۆ وحدانیہ تی الہی تہیان کردیہ لہ شرک، کہس لہ وان نہی ووتیہ شخصی ظہور تہ کا پیی تہ لئین (مسیح)، تہو خوای ئیوہیہ یا کوری خوای ئیوہیہ ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ﴾ لہ شائبہی شرک و کفرہ و عیب و عار پاک بووہ. لہ عمقی قلبہوہ ئیمانی بہ رُسُلی سابقہ ھیناوہ. ﴿كَأَنَّا يَاكُلَانِ الطَّعَامِ﴾ و معلومہ نتیجہی طعام خواردن چی یہ. تہوانیش وەکی سائری حیوانات حیاتیان بہ خواردن دہوامی کردیہ، تہگەر خوابان یا کوری خوا وە مصدری ألوهیہت بان چۆن وادہبون؟ کہسی خوای تی دا بی یا لہ گەل خوا اتحاد بکا چۆن حیاتی پە کی لہ سەر لوقمہ نانئ تہ کەوی؟

﴿انظُرْ كَيْفَ بُنِيَتْ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾ لہ گەل تہو ادب و نزاکەتہ حقاً

أدبی قرآن (مُحیر العقولہ). إتباعی ہوا تقلیدی آبا و أجداد إنسانی کور ئہ کا، تہ ماشای آیات نا کا، روي لی و ہرئہ گیری خاصة إعتقاد بہ شتی لہ گہل محبتہ بی، بہ ہزار دلائل وبرهان زہ والی نابی. ﴿ثُمَّ أَنْظِرْ أُمَّ يَوْفَكُونَ﴾ ﴿۷۵﴾ دواي نظري أول تہ ماشا کہ ئہ ی صاحبی نظر وفکر، یا رسولی مُبیین ومُبلِّغ، بؤ چ جیی صرف ئہ کریں؟ یا کو تحویل ئہ کریں لہ گوی راگرتن وتامل کردن لہ و آیاتی بیناتہ چ معقول چ منقول؟ فی الحقیقہ جیی تعجبہ کہ سی بلی من الہیم طالبی حقم یا مُرشد ودلیم حقی بؤ ئاشکرا ببی و ہدہست لہ إعتقاداتی باطلی خوئی ہلنہ گری. لہ عصری ئیمہ کہ ئہ لئن عصری (نور) ظلماتی إعتقادی سواد ی أعظم لہ بشر زیادہ إشتداد دہ کا. رؤسای اُدیان بلا تفریق بہ نظر علمای طبیعتہ ئہ مپو بہ (ابن ہبئہ قہ) نابن، کہ چی بعضی دہ عوای رسالہت ئہ کہن. عجایب ئہ مہیہ ئہ وإختراعاتی عجیبہ کہ ہر یک لہ صہ د ہزار کرامت بؤبشر نافع ترہ، لہ ثمرہ ی علمی شیطانی حساب ئہ کہن.

ئہ با علمای اُدیان سہری لوتی خویان رہش کہن مُقابل بہ و عظمای علمی طبیعت چاو ہلنہ ہینن، وہ ئہ بایہ باسی کرامت لہ کتب مہ حوکہ نہ وہ (غلام اُحمدي قادیانی) لہ عصری (أديسون) چؤن زاری ہل ئہ پچری بلی من (مہ لام) فضل لہ (رسالہت) وای لہ و جہالتہ! لہ وبی شہرمیہ، عجایب تر ئہ وہیہ گہلی لہ و مخترعہ گہ ورنہ حالاً لہ سہر کؤنہ دینہ کہن لہ إعتقادات خویان لہ (کہرہ) عامیہ کان جودا نا کہن. ﴿قُلْ﴾ یا رسولی مُجتبی ﴿اتَّبِعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ سواد ی أعظم لہ أهلي أيمان کہ خوا ئہ پہرستن یا لہ ترسانہ یا لہ املی إحسانہ، کہ م وایہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ خوا پہرستی، چونکہ خوایہ. خواي تعالان عالمہ بہ طبعی بشر، عبادہتی لہ خوف یا لہ رجا بی یا لہ بہ بینی خوف ورجا بی، قبولی ئہ کا. بؤیہ لہ پاش ئہ و حالہ عجیبہ ی مُشركان ئہ فہرموی (ئایا ئیوہ عبادہتی شتی ئہ کہن کہ لہ بؤ ئیوہ نہ مالکی زہرہرہ نہ مالکی نفعہ؟) نہ جیی ئہ مہیہ

لیی بترسن نہ شایانی ئەمە یە لئی بە اومیدی بن. مقابلی ئەو کلامە ئیوہ ئەبی (بورر) بن جوابتان پی نہ درئ، لکن أهلی شرک لەو عصرە ئیشیان لە ئیش تی پەراند شریکی خویان بە ضارو نافی مطلق ئەزانن، هەر حادثەئێ ظهور بە امرۆ ارادە ی ئەو بە لای بیته سەر مسلمانی لە طرف ئەو، چ لە دنیا چ لە عقبی هەر خویە تی متصرفی زەمانە مَدبَری ارض و آسمانە صاحبی امری (کُنْ) (فَکَانَ) ه سُبْحَانَ ئەو هە زیانە لە عوام هەر نە یسە لە خواص لە زوبدە ی أهلی علم و عرفان صادر ئەبی.

﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۷۶) هەر ئەو هَمِسُ الخُطَابُ ئەبی خُطراتی قلب ئەزانئ، إحاطە ی بە هەمو شت داو، جزعی و کلی. من شایە دی ئە دەم الان خوا ئەزانئ من چی ئە کە م لە چ حال دام چم لە دل دایە، أما ناتوانم بلیم (جبریل) یا (میکائیل) یا (عیسی) یا غیرە زە برە ئاگای لە حالی منه. لکن جهل و تقلید و حُبی کاذب سَوَقِي اِنْسَانُ ئەکا بۆ قبول کردنی مُزخرفات و خیالاتی باطلە بە لکو محالات، تی نافکرئ نازنی ئەلی چی ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ئیوہش گوئی لی کەن ئە ی مسلمانی ئە ﴿لَا تَعْلَوْا فِي دِينِكُمْ﴾ لە دینی خۆتان تجاوز لە حد مە کەن ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ زاتاً (غلو) قط حەق نابئ وە کي (راغب) ئە فەر موی (غلو) نه لە اموری دینی نه لە اموری دونیوی چاک نیە نتیجە ی خراپە، گەرچی (زُْمَخْشَرِي) ئە فەر موی (غلوی) حەق هە یە وە ک (غلو) ی (أهلي کلام) بۆ کشفی حقایق و سعی تەواو بۆ تحصیلی حَجَجْ وە ک خویان یَعْنِي أهلي عدل و توحید کە (معتزل) یە کانن وە (غلو) ی باطل هە یە کە تجاوز لە حەق بکا شەقاوی لە سەر باوی اعراض لە أدلە بیئئ اِتباعی شوبهه بکا وە کي أهلي (أهواء و بدع) یعنی سائری فرقی اسلام.

أما وە کي (سَيِّدِي اَلْاوسِي) ئە فەر موی ئەو (غلو) نیە استحصالی دەلیل و برهان بۆ حکمی نظری لە واجباته، تجاوز لە حد نیە. من ئە لیم (غلو) ی هەمو فرە قی کلامی هەمو حکماء هەمو صوفیه باطله، سەر ئە کیشیتە کفرو ضلال

غایہ تی تفرہ قہ و لَعْن و نہ فرہ تیہ لہ یہ ک (غلو) یان کرد لہ تحقیقی کلامی (اللہ) فائدہ ی چی یہ؟ بؤ (غلو) یان کرد لہ رُؤیْتی (اللہ) چ ثمرہ یہ کی دا؟ (غلو) یان کرد لہ احوالی (بَرَزْخ و قیامت) نتیجہ ی چی بو؟ (غلو) یان کرد لہ اثباتی اختیار و سَلْبی لہ انسان، زور بہدبو وہ ہکذا حُکماء (غلو) یان کرد لہ وحدتی حقیقی بؤ عَلْتی اَوَّل توشی سلسلہ کُفر بون، (صوفیہ) (غلو) یان کرد لہ معرفہ تی (اللہ) نعوذ باللہ بہ جاری لہ دین دہرچون طوریان کردہ (طوری) (وراء العقول). خلاصہ طول و تفصیلی پی ناوی خوتان تہ ماشا کھن ئەزانن (غلو) علی الأطلاق (بہدہ) باطلہ حتّی تہ ماشای (غلو) لہ مدنیہت کھن بزنانن بشر توشی چ فلاکتی بو لہ سایہ ی ئەو (غلو) ہ. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ بابا و کو باپیری خوتان بن، بابہ ناوی مرشدی دین و ہاوری طریق بن. ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ قسمی لہ (ضلال) ہہ یہ گہ لی ناکراییہ فکرو تأملی وای پی ناوی کہ بہ (عوام) نہ کری. أما (أبالسہ) کان ریی ئەو بہ دیہیاتہ ش ئەگرن ئەیان ترسیئن وہ ک دیانان ئەلین: (ئہمہ لہ ضروریاتی دینہ مخالفہ ی ئەمہ بکہ ی کافر ئەبی مستحق لعی ابدی ئەبی). وہ ک فرقہ ی لہ ئیمہ ئەلین: ((ئہبی) (مُريد) لہ بہر دہستی (شیخ) وہ ک مردی بی لہ بہینی دوو دہستی مردی شور، کہ سی بہ شیخ بلی (لم) فلاحی نابی، کہ سی ئەو قسہ انکار کا بہ کافری ئەمری)).

حاصلی خہریک ئە بن سَلْبی عقلیان لی بکھن، ئەوجا بہ ہہ وہ سی خویان لی یان ئەخوپن. ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ گہ لیکیشیان گومراہ کردوہ، یا گومراہی زوریان کردیہ. ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (۷۷) ئەلین گومراہ کانی پیشو، پیش بَعَثْتی حضرہ تی خاتم الرسلن. ئەمانہ گومراہی وہ قتی رسالتن، وہ ممکنہ بلین مقصد بہ یانی سوئی اختیار و قطعی معذرہ تیانہ، زیرا بزب بون لہ ریی راست، لہ انسانی ادنی ہوشی ہبی دورہ، ئەگہر خوی بز نہ کا بز نابی.

کہوابی ئیوہش بہ متابعی اسلافتان خوتان لہ م ری یہ جادہ یہ شہ قامہ راستہ گوم مہ کھن، وەری لہ خہ لکیش مہ گورشن، وہ گہ لی قسہ ی تریش ہہ یہ

بؤ دفعی تکرار فہرمویانہ، أما من کہ یفم پیّ یان نایّ، ئەوہی ئارہ زو ئەکا بنواریتہ تفسیری (آلوسی).

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ له طرف حضرہتی کبریاء
 ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ﴾ له زہبور ﴿وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ له إنجیل دا. ﴿ذَٰلِكَ﴾
 ئەو لعنہ له جہت خوداوەندی غفور ورحیم ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ سہبہب بہ خروج له
 إطاعہی فہرمايشتي إلهي ﴿وَكَاثِبُونَ يَعْتَدُونَ﴾ (۷۸) له عصیان دا متجاوزي
 عن الحد بون ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ ہەر مُنْكَرِي
 کردبايانہ کہس له کہس نہي نہ ئەکرد، وەك حالي ئیستاي ئیمہ. قومی (نہي
 عن المنکر) یان تیا نہما، ئەوہی ہوہسیان بینئ ئەیکەن. ہزار کفرو سیئات
 صادر بیّ له جمعی کہ اعتقادی ولایہ تیان پیّ ہہ بن، قور بہ سہر ئەو مہ لایہ
 نہیان لیّ بکا کافری ئەکەن ئەلین منکری اولیاء اللہ ی له نظری اُمّت ئەبیّتہ
 مُلحد وزہ ندیق. خوا ئەزانئ سیئاتی ئیمہ گہ لیّ تجاوزی کردیہ له قبایحی بنی
 اسرائیل ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۷۹) کاری خراپیان ئەکرد، یاشتی
 خراپ بو، ئەیان کرد بہ دەوام. فی الحقیقہ ئەمہ بؤ اُمّت زور خراپہ. (إمامی
 أحمد) و (تُرْمِزِي) نقل ئەکەن له (حُدَيْفَةُ بن الیمان) کہ پیغہ مہر فہرمویہ تی:
 ((بہو کہ سہی کہ نفسی منی بہ دەستہ یا امری بالمعروف نہي له مُنْكَر ئەکەن،
 یاخود نیزیکہ خوای تعالان له طرف خوئی عقابہ کتان بنیڑیتہ سہر، دوايّ له
 خوا ئە پارینہ وہ، خوا دوعاتان جواب نادا - یعنی دوعاتان قبول نابی -)).
 له وبابہ أحادیث زورہ، له پاش ئەو منکر بو بہ معروف، معروف بو بہ مُنْكَر.
 إنسان چ بلیّ کہ روآسای دین ودونیا بہ فساد چون، ئەمان وەك دلن بؤ ملّت،
 ملّت ئەبیّ چی بکا؟ لاشک ئەو أحوالہی سیئہ ی کہ ئەمرو تیی داین له ثمرہی
 ترکی امری أمر بالمعروف ونہي عن المنکرہ.

﴿ تَكْرِي كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ چ جائى امر به چا كه نهې له خراپه، تو نه بينى زور له وان دوستي نه وانه ي كافر بوين نه كه ن، لاي وانيش وايه كه كفرن وه مشرك وبت په رستن. يه كى له اجانب نه گه رى له ايران وطوران بزائى قابله دهوله تي عثمانى و ايران ئيتيفاق بكن، له پاش گه شت وگوزار وتفحص له ميول ومنسوباتيان نه گه رپته وه وه له جرائد اعلان نه كا ((نه مانه قابلي اتيقاق نين، زيرا گه له كم ديتن محبه تي روسيان زوربو چونكي دوشمني دهوله تي عثمانى بو وه نه يان گوت ئيمه له گه ل روس متفقين، غدرمان كرد شه پمان بو عثمانيان كرد)).

نه مړو نه گه ر چى (آلى عثمان) (آلى قاجار) نه مان، لکن عداوت له به يني فره قى مسلمانان وه دوه لوكه كانيان روز نه فزونه. ﴿ لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ نه وه چى يه؟ كه پيسه خويان نارديو يانه بو زه خيره ي قيامه ت؟ ﴿ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ رق و غضبي خويان به نفسى خويان پيشه خو ه نارد. حقيقه نه وه ي موجبي غضبي الاهيه له هه مو شتى خراپتره، زاتا نه وه ش نوعه غضبه كه انسان اشتغال به موجبي غضبي خوي بكا (نعوذ بالله من غضبه وعقابه). ﴿ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (۸۰) ابو الابدنين، نه وه ك وه كو وان توهم نه كه ن، اياماً معدوداته.

﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ﴾ نه گه ر نه وانه ي دوستايه تي كافرين نه كه ن له و جوله كانه ايمان يان هينا با به خواو حضره تي (موسى) ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ ﴾ تورات ﴿ مَا أَخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ دياره نه وانه ايمان يان به خواو حضره تي (موسى) نيه وه الا ايمان نه بو به مانعيان له دوستايه تي مشركان وه (كذا) نه وه ي له مسلمانان دوستي له گه ل دوشمني دين بكا له زهره ري براي ديني، ايماني به خواو حضره تي محمد وقرآن نيه. ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾

فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾ با ظاہریش بلّین (موسوین) یا (محمدین)، کہسیّ له إطاعه
دەرچو، ئەوہی بیکا ئەیکا.

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ اکثري
بَشَر دوشمنن بۆ دینی حق، چونکی سَدّه له بهیني إنسان وهه وای نَفَس،
ئەگەر إنتسابیّ به دینیّ له اُدیانی سابقه نهبیّ، وه له شَرک زۆر روونه چوبیتته
خوار، عداوته که ی به قوهت نیه، قابله به ئاسانی دینه که قبول بکا. سَوادی
أعظم له جووله کان نه که له گه ل دینی اسلام، له گه ل دینی موسای حه ق مه یلیان
نه بو، إنتسابه که یان محضاً قومیه ت وإستراحت و جِدال بو، بۆ کردنی گوناهان،
بۆیه به تَأکیدی قَسَمی جه نابی (حَق) ئەفه رمویّ (تَوّ ئەبیني له هه مو که س به
عداوت و دوشمنایه تی به قوهت تر ده باره ی أهلي إیمان جو له که و ئەوانی روو
چوین له شَرک)، که شَرک بویتته صلّه ی موصلیان، عداوته یان عداوته تی دینه
نه که اشخاص. عداوته تی جوو بۆ مسلمانان (رۆز أفزون ومستمه). ئەمرۆ
شَدّه تی نائری له فلسطینه. **﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾**
ئەبیني له هه مو که س نِيزِیک تر له جهه ت محبه ته وه ده باره ی مسلمانان
﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ ئەوانه ی که به راستی دیانن به لَوْثی تَعَصَّب
و یهودیّ و شَرک مَلُوث نه بوین، ئەوانه فی الحقیقه زۆر که من، غلبه بۆ ئەوانه یه که
ئەلین خوا (عیسی) یه عیسی (خوا) یه ابن الله یه، ئەوانه له پاش محاربه ی شام
و فتحی له هه مو عاله م دوشمنایه تیان ده رحه ق به دینی اسلام و أهلي إیمان
به قوهت و زیاتره، ئاگری عداوته تیان رۆژ به رۆژ إشتعال ئەکا چ به دۆستی چ به
دوشمنی مقصدیان إمحای دینی مبینی أحمدیه. له وه ختی حه ربی گه وره
(بینباش طابور) (نشاجی أحمد نظمی) هاته (کویه) ملاقاتمان کرد له اثنای
حکایاتی حه رب ووتیو: (ئیمه خوراین چ ألمان به سه ر بکه ویّ که دوستمانه هه ر
ئەمان خوا، چ إنگیلز که دوشمنمانه سه رکه ویّ هه ر ئەمان خوا). **﴿ذَلِكَ﴾**

ئەمە لەبەر چی یە؟ ﴿بَانَ مِنْهُمْ قَسِيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا﴾ عُلْمَاي دِيْن وَزُهَادِيَان
 وَهَكَ اَحْبَارُو رَبَانِيُونِي جَوولَه كَه كَان دَلِيَان قَاسِي نَه بَوَه، طَالِبِي عِلْم وَعِبَادَه تَن.
 ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ ئەوان ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ وَهَكَ جَوولَه كَان نَالِيْن نِيْمَه (بَنِي
 إِسْحَاقِيْن) شَه رَه فَمَان بَه سَهَر (بَنِي إِسْمَاعِيْل) هَه يَه، إِسْمَاعِيْل لَه جَارِيَه يَه لَه
 إِرْثِي إِبْرَاهِيْم (بَه رِيَه) أَوْلَادِي ئەو لَه وَاْن مُحَقَّرَن، نَابِي بَه هِيچ وَجَه تَرْفَع بَه سَهَر
 وَاْن دَا بَكَه ن. فِي الْحَقِيْقَه تَكْبَرِ إِنْسَانِي لَه گَه لِي سَعَادَه تَ مَحْرُوم ئە كَا، هَه رَچَه نَد
 مَن طَرْفَدَارِي خَانَه دَانِيْم، أَمَا بَه وَنَوْعَه نَا مُجَرَّدَ إِنْسَانِ خَوِي پِي هَه لَدَاتَه وَه
 خَوَشِي چ نَه بِي، إِنْسَانِي بَه پَاسْتِي ئەو كَه سَه يَه حَسَبِ وَنَسَبِي بَاشِي بِي، كَه
 حَسَبِي نَه بَو، نَسَبُ بَه فَسَاد دَه دَا.

ناوهړوکی بهرگی دووهم

- سورپه تی (ال عمران) (۹۲- کۆتایی) ۵
- سورپه تی (نساء) ۶۷
- سورپه تی (مائیده) (۸۲-۱) ۲۴۱